

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

77

جواب الہجاء

اردو ترجمہ

فضائل النبی المختار

حصہ اول

مصنف :-

جلد اول

حضرت علامہ امام یوسف بن اسحاق بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمین

استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب شیخ الحدیث جامعہ رضویہ لاہور
رئیس التحریر جناب محمد عبدالحمید صاحب تہ شاہجہان پری منظر می لاہور

ناشر

مکتبہ حامدہ - گنج بخش روڈ - لاہور

✓ ۲۹۷۹۹۲۱

۲۸ ۳

۲۰۰۲۸

نام کتاب _____ جواہر البحار (اردو ترجمہ)
 مصنف _____ علامہ یوسف بن اسماعیل بنہانی رحمۃ اللہ علیہ
 مترجمین _____ ۱۔ مولانا غلام رسول شیخ الحدیث جامعہ رضویہ لاہور
 ۲۔ اختر شاہجہان پوری مظہری۔ لاہور

تکاتبت _____ محمد شریف گل
 پروف ریڈنگ _____ اختر شاہجہان پوری
 مطبع _____ ندرت پرنٹرز۔ لاہور

سن طباعت _____ ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ء

اشاعت _____ بار اول

تعداد _____ ایک ہزار

قیمت _____ روپے



ناشر
 مکتبہ شامیہ گنج بخش روڈ لاہور

انتساب

احقر اپنی اس ناچیز کاوش کو سیدی و سندی، مرشدی
و مولائی حضرت مفتی اعظم دہلی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی رحمۃ
اللہ علیہ کی جانب منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے،
کیونکہ یہ اس سرکار ہی کی نظرِ کرم کا کرشمہ ہے کہ میرے جیسے
علمی لحاظ سے بے مایہ اور کوتاہ اندیش سے ایسا علمی کام
لے لیا گیا ہے

ذریعے کو جس نے اختصارِ کامل بنا دیا
مرشدِ مرے پر رحمتِ پروردگار ہو

اختر شاہجہان پوری مظہری عفی عنہ

فہرس

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱	پیش لفظ (اختر شاہ بھمان پوری مظہری)	۹
۲	حرف آغاز (از مصنف رحمۃ اللہ علیہ)	۲۳
۳	قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات گرامی	۳۱
۴	مقام مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)	۳۲
۵	فطری محاسن و اخلاقی کمالات	۶۵
۶	عقل مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)	۸۲
۷	آپ کا حلم، عفو، صبر	۸۴
۸	آپ کا جود و کرم	۹۰
۹	آپ کی شجاعت و دلیری	۹۲
۱۰	حیا اور چشم پوشی	۹۴
۱۱	حسن معاشرت	۹۵
۱۲	مخلوق خدا پر شفقت و رحمت	۹۸
۱۳	وفا، ایفائے عہد، صلہ رحمی	۹۹
۱۴	تواضع اور انکساری	۱۰۱
۱۵	عدل، امانت، عفت، صداقت	۱۰۴
۱۶	وقار، خاموشی، سنجیدگی، مروت اور حسن سلوک	۱۰۸
۱۷	دنیا سے بے رغبتی	۱۰۹
۱۸	خوف خدا و کثرت عبادت	۱۱۳
۱۹	شامل نبوی اور دیگر متعلقہ اوصاف	۱۱۶

۱۲۵	۲۰	خصائصِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۱۳۶	۲۱	معراج شریف
۱۴۵	۲۲	رویت الہی
۱۴۶	۲۳	شفاعت و دیگر فضائل
۱۵۱	۲۴	محبت اور خلقت
۱۵۵	۲۵	شفاعت و مقام محمود
۱۵۹	۲۶	وسیلہ اور عرضِ کوثر
۱۶۰	۲۷	اسمائے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۱۶۱	۲۸	معجزاتِ سید المرسلین (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۱۶۳	۲۹	معجزات و قرآن کریم
۱۶۸	۳۰	معجزاتِ ولادت
۱۸۱	۳۱	معجزاتِ مصطفیٰ کی ترجیح
۱۸۷	۳۲	حکیم محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے فرموداتِ گرامی
۱۸۹	۳۳	فخرِ دو عالم کی ہیبت
۱۹۲	۳۴	خدا کی محبت اور اتباعِ رسول
۱۹۴	۳۵	خصائصِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۲۰۵	۳۶	حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرموداتِ گرامی
۲۰۷	۳۷	رحمتِ دو عالم
۲۰۸	۳۸	شانِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۲۱۶	۳۹	معاندین سے دفاع
۲۱۸	۴۰	خواہشات
۲۱۹	۴۱	لغزش کا ذکر
۲۲۰	۴۲	بیثاقِ انبیائے کرام

۲۲۲	نام خدا اور نام نبی کا اتصال	۲۳
۲۲۵	فضیلت مصطفیٰ از احادیث منظرہ	۲۴ ✓
۲۲۶	حیات مصطفیٰ کی قسم	۲۵
۲۲۸	بزم محشر میں شانِ محبوبی	۲۶
۲۳۲	موسلی علیہ السلام کی تمنا	۲۷
۲۳۳	خلق عظیم	۲۸
۲۳۵	قرآن کی مثل ناممکن ہے	۲۹
۲۳۷	فضائل و معجزات میں دیگر انبیاء سے تقابل	۵۰ ✓
۲۴۶	شامل رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)	۵۱
۲۸۱	قاضی ابوالحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات گرامی	۵۲
۲۸۳	اخلاق و فضائل	۵۳
۳۱۰	بعثت اور استقرار نبوت	۵۴
۳۳۱	شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات گرامی	۵۵
۳۳۳	شیخ کا ایک مشاہدہ	۵۶
۳۳۴	علم اسماء و علم معانی	۵۷
۳۴۱	مقام مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)	۵۸
۳۴۳	اول الخلق روحِ محمدیہ ہے	۵۹
۳۴۶	دستگیر کائنات	۶۰ ✓
۳۴۸	فضیلت اہل بیت اطہار	۶۱
۳۵۶	شریعتِ محمدیہ کی جامعیت	۶۲
۳۵۷	شفاعتِ بُرہی	۶۳
۳۶۱	درجاتِ جنت اور وسیلہ	۶۴
۳۶۳	درود پاک	۶۵

۳۶۵	۶۶ فضیلتِ جمعہ
۳۶۵	۶۷ وصال
۳۶۶	۶۸ اخلاق اللہ سے مطابقت
۳۶۷	۶۹ نبی کا قدم
۳۶۸	۷۰ مقامِ محمود
۳۷۲	۷۱ مقامِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۳۷۳	۷۲ لواءِ الحمد
۳۷۶	۷۳ وسیلہ کے ساتھ خصوصیت
۳۷۸	۷۴ مؤمنی علیہ السلام کی خواہش
۳۸۰	۷۵ اُمّ الکتاب
۳۸۲	۷۶ مغفرتِ مصطفیٰ کا حقیقی مفہوم
۳۸۶	۷۷ انتخاب
۳۸۹	۷۸ شہکارِ دستِ قدرت
۳۹۱	۷۹ مرکزِ دائرہٗ تخلیق
۳۹۱	۸۰ مقامِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۴۰۵	۸۱ مقامِ محمود
۴۰۶	۸۲ فتحِ مبین کی بشارت
۴۰۹	۸۳ تبلیغ کا معاوضہ
۴۱۱	۸۴ الانسان الکامل
۴۱۵	۸۵ معراج و اسراء
۴۲۹	۸۶ اول الخلق (سب سے پہلی مخلوق)
۴۳۱	۸۷ مقامِ مصطفیٰ کا نزاعِ احترام و اہتمام
۴۳۷	۸۸ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے فرموداتِ گرامی

۴۳۹	۸۹	آپ نے تبلیغ کا جتنی ادا کر دیا
۴۳۹	۹۰	آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں
۴۴۵	۹۱ ✓	افضلیتِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۴۶۳	۹۲	میثاقِ انبیائے کرام
۴۶۷	۹۳	رحمتِ دو عالم کا حلم
۴۶۸	۹۴	اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان
۴۷۶	۹۵	فترت کے بعد سید المرسلین کی آمد
۴۷۸	۹۶	النبی الامی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۴۹۰	۹۷ ✓	ہمارا غمخوار آقا
۴۹۲	۹۸	حیاتِ مصطفیٰ کی قسم
۴۹۵	۹۹ ✓	رحمتِ دو عالم
۴۹۷	۱۰۰	مدارجِ تبلیغ
۵۰۰	۱۰۱	حضور کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے
۵۰۵	۱۰۲	رفعتِ ذکرِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۵۰۷	۱۰۳	صاحبِ کوثر
۵۲۷	۱۰۴	شیخ عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ کے فرموداتِ گرامی
۵۲۹	۱۰۵	قصیدۃ تائیتہ الکبریٰ مع شرح
۵۵۷	۱۰۶	امام عزالدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کے فرموداتِ گرامی
۵۵۸	۱۰۷ ✓	افضلیتِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
۵۷۲	۱۰۸	عرضِ مترجم
۵۷۳	۱۰۹	کچھ اس ترجمے کے بارے میں
۵۷۴	۱۱۰	قطعۃ تاریخ طباعت
۵۷۵	۱۱۱	تصانیفِ اختر شاہ جہان پوری مظہری

پیش لفظ

مری انتہائے نگارش یہی ہے
ترے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۶۵ھ، ۱۸۴۹ء میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن فلسطین ہے۔
سان اہل عرب کے ایک خاندان کا نام ہے، اسی وجہ سے آپ نبہانی کہلاتے تھے سلسلہ نسب
یوں ہے: علامہ یوسف بن اسمعیل بن یوسف بن اسمعیل بن محمد ناصر الدین نبہانی رحمۃ اللہ علیہم۔
آپ کے والد ماجد ایک جتید عالم دین، صاحب تقویٰ و طہارت اور ذاکر و شاعر بزرگ تھے۔
علامہ موصوف نے ناظرہ قرآن کریم اپنے والد ماجد سے پڑھا ۱۲۸۳ھ میں جبکہ آپ عمر کی
ستہ منزلیں طے کر چکے تھے تو مزید تحصیل علم کی خاطر مصر کی شہرہ آفاق درس گاہ جامعہ ازہریہ میں داخل
ہو کر وادیے گئے۔ یہاں ساڑھے چھ برس محنت شاقہ کی اور پورے انہماک سے علوم دینیہ کی تحصیل میں
مصرف رہے۔ آخر علوم عقلیہ و نقلیہ میں درجہ کمال تک پہنچے تو رجب ۱۲۸۹ھ میں سند فراغ حاصل
کی۔ یوں تو آپ کے جملہ اساتذہ ہی لائق و فائق تھے لیکن شیخ ابراہیم سقا شافعی رحمۃ اللہ علیہ
دامتہ فی ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء) یگانہ روزگار تھے۔ موصوف اساتذہ الاساتذہ اور مرجع علماء شمار
کئے جاتے تھے۔

علامہ یوسف بن اسمعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جتید عالم دین اور یگانہ روزگار کے بطور منصفہ
شہود پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ زبردست اہل قلم، صاحب تحریر و تقریر، بے بدل مصنف، مایہ
ناز ادیب و شاعر اور ماحی سنت و قاطع بدعت تھے۔ ان مذکورہ کمالات پر طرہ یہ کہ سچے عاشق
رسول تھے۔ موصوف کی جملہ تصانیف اس امر کا زندہ ثبوت ہیں۔ علامہ نبہانی علیہ الرحمۃ کافی عرصہ

بیروت میں عہدہ قضاء پر بھی فائز رہے اور وہاں کی سرکاری لائبریری کے منتظم اعلیٰ بھی رہے اس درجہ مصروفیت کے باوجود بارگاہِ بیکس پناہ میں حاضر ہونے کی سعادت اکثر حاصل کرتے رہتے۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق صادق تھے کہ اپنے دل کو ہمیشہ محبوب کی قیام گاہ بنائے رکھتے تھے۔

مولانا ابوالنور محمد بشیر مدظلہ، مدیر ”ماہ طیبہ“ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ کے والد ماجد فقیہ اعظم حضرت مولانا محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی، قدس سرہ (المتوفی ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کے خلیفہ تھے۔ مولانا نے حضرت فقیہ اعظم کی زبانی علامہ نبہانی کے متعلق ایک حالیہ مکتوب میں یوں لکھا ہے :-

”میرے والد ماجد علیہ الرحمۃ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ میں جب حج کرنے گیا (حضرت والد ماجد علیہ الرحمۃ شریف مکہ کے دور میں حج کر گئے تھے) تو مدینہ منورہ کی حاضری اور زیارت گنبد خضراء کے شرف سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب اور گنبد خضراء کے سامنے ایک سفید ریش اور انتہائی نورانی چہرہ والے بزرگ کو دیکھا جو قبر انور کی جانب منہ کر کے دو زانو بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں ان کی وجاہت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو شروع کی۔ وہ میری جانب متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کی کتابیں حجتہ اللہ علی العالمین اور جواہر البعائر وغیرہ میں نے پڑھی ہیں جن سے میرے دل میں آپ کی بڑی عقیدت ہے انہوں نے یہ بات سُنکے سمجھا کہ یہ کوئی خوش عقیدہ اور عالم ہے تو میری طرف محبت سے ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ فرمایا۔ والد ماجد علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ میں نے ان سے عرض کیا، حضور! آپ قبر انور سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ تو رو پڑے اور کہا ”میں اس لائق نہیں کہ قریب جاؤں“ اس کے بعد میں اکثر ان کی جائے قیام پر حاضر ہوتا رہا اور ان سے سندِ حدیث بھی حاصل کی“

وہ مجسم عشقِ رسول ، بارگاہِ بکس پناہ میں حاضر ہو کر ، سراپا التجا بن کر ، زبانِ حال سے یہی کہہ رہا ہوگا :

تیرے سوا خیالِ نبی میں ترے نثار
سمجھا نہ کوئی دیدہ گریاں کی گفتگو

فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی عدیم النظیر تصنیف ”الدولۃ المکیہ“ پر تقریظ لکھتے ہوئے مولانا عبدالقادر محمد بن سورہ القرشی نے امام احمد رضا خاں بریلوی اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہما کے متعلق اپنی رائے جن عربی الفاظ میں بیان فرمائی ، ان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے :

”ہم عصرِ حسانِ زماں ، زندہ کنِ سنتِ سرورِ اولادِ عدنان ، محفوظ بہ نبی
عدنانی ، معروف شیخِ یوسف نبہانی کہ انہوں نے اپنی کتاب ”شواہد الحسن“
میں وہ تنبیہات ذکر فرمائیں کہ ان کے اندر دلوں میں زجر کرنے والے شہاب
ہیں تو درحقیقت بلا ریب وہ (علامہ نبہانی) اور مصنف رسالہ ہذا (علیہ السلام)
ادائے واجب کے لئے کھڑے ہوئے اور حکمِ صائب لائے“ ۱۔

اسی طرح مذکورۃ الصدر کتاب پر تقریظ لکھتے ہوئے مولانا حسین بن محمد علیہ الرحمۃ نے
اپنے وقت کی ان دونوں یگانہ روزگار اور سرمایۂ افتخار ہستیوں کے بارے میں یوں لکھا ہے :-
”اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزائے خیر دے مؤلف (علیہ السلام) اور شیخ
یوسف نبہانی (رحمۃ اللہ علیہما) کو جنہوں نے ہماری احتیاج کو پورا کیا“ ۲۔
خود علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمۃ نے مجددِ مائتہ حاضرہ قدس سرہ کی تصنیف لطیف
”الدولۃ المکیہ“ پر زور دار تقریظ لکھی۔ علیہ السلام امام اہلسنت کے بارے میں انہوں نے
اپنے خیالات کا اظہار یوں فرمایا :-

”اس دفعہ سید عبدالباری سلمہ اللہ تعالیٰ (ابنِ علامہ سید امین رضوان مدنی

علیہ الرحمۃ) نے یہ کتاب میرے پاس بھیجی تو میں نے اس (الدولۃ المکیہ) کو شہر سے آخر تک پڑھا اور تمام دینی کتابوں میں بہت زیادہ نفع بخش اور مفید پایا۔ کی دلیلیں بڑی قوی ہیں، جو ایک امام کبیر، علامہ اجل کی طرف سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی رہے اس رسالے کے مصنف سے، اور اپنی عنایتوں سے ان کو راضی کرے اور ان کی تمام پاکیزہ امیدوں کو بر لائے۔۔۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کے مصنف جیسے افراد زیادہ سے زیادہ پیدا کرے جو ائمہ اعلام ہوں، اسلام کے حامی ہوں، کفار اور ذلیل بدعتیوں کی تردید میں مشغول رہیں۔ ایسے علماء بزرگ و مجاہد اور دین کی حدود کے محافظ ہیں۔ آمین

بقول اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلیفہ نامدار حضرت مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی مدظلہ العالی، علامہ حضرت یوسف نہمانی علیہ الرحمۃ کی اہمیت محترمہ کو چوراسی مرتبہ سرور کون و مکان تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) علامہ موصوف جو شمع رسالہ پر پروانہ وار نشا رہ تھے، ان کی حالت و کیفیت کے بیان سے الفاظ قاصر ہیں۔ علامہ کی حضرت آیات کے متعلق حضرت مدنی ہی کا بیان ہے کہ ”جواہر البحار“ کی تصنیف کے کچھ عرصہ بعد موصوف کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی سرکار سے ”جواہر البحار“ کو بہت پسند فرمایا اور ازراہ لطف و کرم علامہ کو سینے سے لگایا۔ علامہ بارگاہِ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ حضور! اب جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کی تاب نہیں رہی، آخر اسی حالت میں وصال ہو گیا۔

ایک شگہ در رشید کو علامہ کی زیارت نصیب ہوئی جن سے موصوف نے اپنی وفات کا واقعہ بیان کیا جو اسی طرح عوام و خواص میں مشہور ہوا۔ حضرت نہمانی علیہ الرحمۃ نے مجدد مائتہ حاضرہ قدس سرہ کے دس سال بعد ۱۳۵ھ/۱۹۳۱ء میں وفات پائی اور اپنے آبائی گاؤں اجیم

ہمیشہ کے لئے محو خواب اور آسودہ استراحت ہوئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۵۔ امیرِ رحمت ان کے مرتد پر گہری کرے

حشر میں شانِ کریمی ناز برداری کرے

اسلام کے اس مایہ ناز فرزند، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور چودھویں صدی کی تادریں و زنگار ہستی نے قلمی میدان میں ایسی بیش بہا تصانیف چھوڑی ہیں جن کے مطالعہ سے آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مجددِ مائتہ حاضر امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کے بعد دنیائے اسلام میں علامہ موصوف اپنی نظیر آپ تھے۔ آپ کی تصانیف علوم دینیہ کے قابلِ قدر اور مایہ افتخار ذخیرے ہیں۔ اگر علامہ کی قلمی نگارشات کو علامتِ حضرت قدس سرہ کے تجدیدی کارنامے کا تکملہ کہ لیا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ فہرست تصانیف حسبِ ذیل ہے :-

۱۔ الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ الی الجامع الصغیر (چودہ ہزار احادیث کا عظیم ذخیرہ جو تصانیفِ علامہ میں اعظم و انفع ہے)۔

۲۔ قرۃ العینین علی المنتخب الصحیحین (تین ہزار احادیث کا مجموعہ اور ان پر فاضلانہ حواشی)

۳۔ جواہر البحار فی فضائل نبی المختار (چار ضخیم جلدوں میں فضائلِ مصطفوی کا عظیم الشان مجموعہ)

۴۔ وسائل الاصول الی شمائل الرسول (اردو ترجمہ آجکل عام دستیاب ہے)

۵۔ قرۃ العین من البیضاوی والجلالین۔

۶۔ شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق۔

۷۔ حجة اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔

۸۔ انوار المحمدیہ فمختصر المواہب اللدنیہ۔

۹۔ افضل الصلوات علی سید السادات۔

۱۰۔ الاحادیث الاربعین فی وجوب طاعة امیر المؤمنین۔

۱۱۔ النظم البدیع فی مولد النبی الشفیع۔

۱۲۔ الامتزۃ الالفیہ فی مدح سید الانبیاء۔

- ۱۳۔ الاحادیث الاربعین فی فضائل سید المرسلین۔
- ۱۴۔ الاحادیث الاربعین فی امثال افصح العالمین۔
- ۱۵۔ قصیدہ سعادت الہاد فی موازنتہ بابت سعادت۔
- ۱۶۔ مثال نعلہ الشریف۔
- ۱۷۔ سعادت الدارین فی الصلوٰۃ علی سید الکونین۔
- ۱۸۔ السابقات الجیاد فی مدح سید العباد۔
- ۱۹۔ خلاصۃ الکلام فی ترجیح دین الاسلام۔
- ۲۰۔ ہادی المرید الی طرق الاسانید۔
- ۲۱۔ الفضائل المحمدیہ۔
- ۲۲۔ الورد الثانی۔
- ۲۳۔ المردوۃ القرائن فی الاستغاثۃ باسماء اللہ الحسنیٰ۔
- ۲۴۔ المجموعۃ النہانیۃ فی المدائح النبویہ۔
- ۲۵۔ نجوم المہدین فی معجزاتہ والرد علی اعدائہ اخوان الشیاطین۔
- ۲۶۔ ارشاد الحباری فی تحذیر المسلمین من مذاکر التصاری۔
- ۲۷۔ جامع الثنائہ۔
- ۲۸۔ مفرخ الکروب۔
- ۲۹۔ جذب الاستغاثات۔
- ۳۰۔ احسن الوسائل فی نظم اسماء النبی الکامل۔
- ۳۱۔ کتاب الاسماء فیما لیسیدنا محمد من الاسماء۔
- ۳۲۔ البرہان المسدود فی اثبات نبوۃ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
- ۳۳۔ دلیل التجار الی اخلاق الاخیار۔
- ۳۴۔ الرحمة المہدات فی فضل الصلوٰۃ۔
- ۳۵۔ حسن الشریعۃ فی مشروعیۃ صلوٰۃ الطہر بعد الجمعہ۔

- ٣- التحذير من اتخاذ الصدر والتقدير.
- ٤- تنبيه الافكار للحكم اقبال الدنيا على الكفار.
- ٥- سبيل النجاة.
- ٣٥- معادة الانام في اتباع دين الاسلام.
- ٣٦- القصيدة الدائبة الكبرى.
- ٣٧- الدائبة الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراء.
- ٣٨- اتحاف المسلم.
- ٣٩- تهذيب النفوس في ترتيب دروس.
- ٤٠- جامع كرامات الاولياء.
- ٤١- اللعقود واللؤلؤ في مدارج النبوة.
- ٤٢- الاربعين من احاديث سيد المرسلين.
- ٤٣- الدلالات الواضحات شرح دلائل الخيرات.
- ٤٤- المبشرات.
- ٤٥- صلوات الشاه علي سيد الانبياء.
- ٥٠- القول الحق في مدح سيد الخلق.
- ٥١- الصلوات الالفية في الكلمات المحمدية.
- ٥٢- رياض الجنة في اذكار الكتاب والسنة.
- ٥٣- الاستغاثة الكبرى باسماء الله الحسنى.
- ٥٤- جامع الصلوات على سيد السادات.
- ٥٥- الشرف المؤيد لآل محمد.
- ٥٦- صلوات الاخيار على النبي المختار.
- ٥٧- البشائر الالمانية في المبشرات المنامية.
- ٥٨- كتاب البرزخ.
- ٥٩- كتاب الاذكار.

علامہ موصوف کی تصانیف اکثر و بیشتر ارشادات نبوی کے مجموعے اور فضائل و کمالات مصطفوی کے ذخیرے ہیں۔ علم حدیث میں آپ کی نظر بہت وسیع ہے بعض تصانیف ایسی بالغ نظری اور محققانہ شان سے مرتب فرمائی ہیں جن کی نظیر علمائے متاخرین کی تصانیف میں نظر نہیں آتی۔ یہ زور تحسین و وسعت نظر اور عشق رسول کے منہ بولتے لعل و گہر ہیں۔ قلمی نگارشات میں جامی کا سوز و گداز، سعدی کی فصاحت و بلاغت، رومی کا فلسفہ حیات، سیوطی کی علمی جدالت، شیخ سرہندی کی حرارتِ زندانہ اور محقق دہلوی کا علمی تجرانی جھلکیاں دکھا رہا ہے (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم)

یہاں ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ چودھویں صدی ہجری کے آغاز ہی سے برٹش گورنمنٹ کے زیر سایہ علامہ شبلی نعمانی (المتوفی ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۲ء) کو رئیس المومنین منوانے کی مہم بڑے زور شور سے جاری ہو گئی تھی۔ بد قسمتی سے قیام پاکستان کے بعد بھی یہ ستم ظریفی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کیونکہ اسکولوں اور کالجوں کے فیض یافتہ حضرات اس پروپیگنڈے کے مبلغ ہیں اور یہی حضرات حکومت کی مشینری کے پرزے بنا کرتے ہیں۔ موصوف کے دینی نظریات کی معمولی سی وضاحت پیش نظر کر کے قارئین کرام سے انصاف کا طلبگار ہوں۔

دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی (المتوفی ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء) موصوف کے متعلق لکھتے ہیں :-

”ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فلاں صاحب نعمانی (مولانا شبلی اعظم گڑھی) یہ بھی سرسید احمد خاں کے قدم بقدم ہی ہیں، سیرت نبوی لکھی ہے جس پر آج کل کے نیچری فریفتہ ہیں“ لہ

موصوف نے کتاب ”سیرۃ النبی“ کو نیچری حضرات کی پسندیدہ لکھا اور علامہ شبلی نعمانی کو سرسید احمد خاں صاحب (المتوفی ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۸ء) کا مقلد بتایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیچریت اور سرسید کے بارے میں عالی جناب تھانوی صاحب کی رائے کیا ہے؟ اس امر کی

انہوں نے یوں وضاحت فرمائی :-

”یہ سب انگریزی تعلیم اور نیچریت کی نحوست ہے کہ لوگوں کے عقائد، اعمال، صورت، سیرت سب بدل گئے اور دین بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست، خورد و نوش سب میں دہریت و نیچریت کا رنگ جھلکتا ہے اور ہندوستان میں نیچریت کا بیج سرسید کا بویا ہوا ہے۔“ ۱

دوسرے مقام پر اسی سلسلے میں موصوف نے یوں اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے :-
 ”اس شخص (سرسید احمد خاں) کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان تباہ و برباد ہو گئے، ایک بڑا گراہی کا پھاٹک کھول گیا۔ اس کے اثر سے اکثر نیچری ایمان سے گورے ہوتے ہیں۔“ ۲

دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر اور دیوبندی جماعت کی ممتاز علمی ہستی، علامہ النور شاہ کشمیری (المتوفی ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۴ء) نے علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں یوں حکم شرع بیان کیا ہے :-

وانسما ارد علی اعین الناس
 اذ لیس من الدین ان یغضض
 عن کافر۔ ۳

میں اس (شبلی) کی بے دینی کا لوگوں کے سامنے رد اس لئے کرتا ہوں کہ دین میں کسی کافر کے کفر کو چھپانا جائز نہیں ہے۔

جمعیتہ العلماء ہند کے سابق صدر اور دیوبندی حضرات کے مفتی اعظم جناب مفتی کفایت اللہ شاہ جہان پوری دہلوی (المتوفی ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء) نے علامہ شبلی نعمانی (المتوفی ۱۹۱۴ء) کے رد میں ایک طویل فتوے جاری کیا تھا جو پہلی دفعہ ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء میں تحفہ ہند پریس دہلی سے شائع ہوا تھا۔ مذکورہ فتوے میں مفتی صاحب نے علامہ شبلی نعمانی کی مذہبی پوزیشن یوں واضح کی ہے :-

”جس باخبر شخص نے علامہ شبلی کی تصنیفات پڑھی ہیں، اس پر علامہ کے عقائد و خیالات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔۔۔۔۔ اصل یہ ہے کہ علامہ نے ”الکلام“ میں جن عقائد و خیالات کو صراحتاً یا کنایتاً حق مانا ہے وہ زیادہ تر معتزلہ اور فرقہ باطلہ اور محدین کے عقائد اور خیالات ہیں اس لئے ان کی تصنیفات کو دیکھ کر اہل اسلام کے ہر طبقہ کی مذہبی غیرت میں تموج پیدا ہوا اور چاروں طرف سے علامہ کے خلاف صدا بلند ہوئی کہ علامہ اہل سنت و جماعت سے خارج اور معتزلہ اور ملاحدہ کے سمثوا بلکہ چودھویں صدی میں ان کی یادگار ہیں لیکن مولانا شبلی نعمانی کو کبھی اس دار و گیر کی کچھ پرواہ نہ ہوئی اور وہ برابر اپنے خیالات و عقائد پر جیسے رہے اور ان کی اشاعت کرتے رہے۔“ لہ

علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور تصنیف ”الکلام“ میں عالم کے قدیم ہونے کی تصریح ان لفظوں میں کی ہے :-

”ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزائے ذی مقراضی سے بنا ہے۔ ہم کو یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے جیسا کہ خود مسلمانوں کے ایک فرقہ معتزلہ اور حکمائے اسلام یعنی فارابی، ابن سینا اور ابن رشد کی رائے ہے“ لہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے موصوف کی مذکورہ عبارت پر اپنے فتوے میں یوں تنقید کی ہے :-

”ناظرین غور فرمائیں کہ علامہ ملاحدہ کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے عالم کے قدیم ہونے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کے فرقہ معتزلہ اور حکمائے اسلام (جن کو علامہ کا فتوے متحد و زندیق بتا چکا ہے) فارابی، ابن سینا اور ابن رشد کی رائے بتاتے ہیں اور اس جہت سے عالم کو خالق کی ضرورت نہ ہونا مان کر صفحہ ۵۵ میں صرف نظام عالم قائم رکھنے اور قوانین فطرت کا باہمی ارتباط باقی رہنے کے لئے خدا کا وجود مانتے ہیں تو اس میں کیا

شبہ رہا کہ علامہ کے نزدیک عالم اور مادہ قدیم ہے بخود علامہ کی تصریح سے بڑھ کر کس دلیل کی حاجت ہے؟ اب ان مقدمات کو اس طرح ترتیب دیجئے، علامہ قدیم عالم کو تسلیم کرتے ہیں اور جو قدیم عالم کو تسلیم کرے وہ ملحد و زندیق ہے۔“ لہ

اس فتوے میں مفتی صاحب موصوف نے آگے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے :-
 ”رہا وجود باری کا اقرار، وہ بھی جیسا آگے چل کر معلوم ہوگا۔ علامہ صرف اس لئے تسلیم کرتے ہیں کہ اسے فطری بتاتے ہیں کہ نظام عالم میں ترتیب اور باہمی ارتباط قائم رہے نہ اس طور پر کہ خدا عالم کا خالق ہے اور عالم اس کا مخلوق ہے۔“ لہ

علامہ شبلی نعمانی (المتوفی ۱۹۱۴ء) کے عقائد و نظریات پر تنقید و تبصرہ کرتے ہوئے جناب مفتی صاحب نے ایک بڑے پتے کی بات کہی ہے چنانچہ موصوف یوں رقمطراز ہیں :-
 ”ناظرین کو معلوم ہو چکا کہ علامہ کے نزدیک ابن رشد، ابن سینا، قفال، جو ان کے فتوے کے بموجب ملحد و زندیق قرار پائے ہیں، حکمائے اسلام ہیں اور یہی لوگ ان (علامہ شبلی نعمانی) کے علم کلام کے ماخذ ہیں اور یہ سب اہل سنت و جماعت سے خارج اور مد مقابل ہیں۔ علامہ ان کے عقائد میں متبع اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ باوجود اس کے اہلسنت و جماعت سے ہونے کا دعوے یا تو اہلسنت و جماعت کی تعریف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا دانستہ مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہے اور دونوں صورتوں میں ان کی علمی قابلیت پر نہایت سخت دھتکہ آتا ہے۔ پہلی صورت میں تو ظاہر ہے اور دوسری صورت میں اس لئے کہ جس کا علم اس کو دھوکہ بازی اور غلط بیانی سے نہ روکے وہ علم جہل سے بدتر ہے۔“ لہ

لے تواریخ مجددین حزب دہا بیہ ص ۲۸، ۲۹ لے ایضاً ص ۳۱، لے تواریخ مجددین حزب دہا بیہ ص ۳۱، ۳۲

علامہ شبلی نعمانی مصنف ”سیرۃ النبی“ کے عقائد و نظریات کیسے تھے؟ موصوف علم کلام میں کیسے لوگوں کی تقلید کرتے تھے اور علامہ کے بارے میں اکابر دیوبند کی رائے کیا ہے، یہ قارئین کرام نے گذشتہ سطور میں ملاحظہ فرمایا لیکن اس کے برعکس اسلام کے اس بطل جلیل خلدیشانی علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے امت محمدیہ کے مایہ ناز اکابر اور مسلم بزرگان دین کی تحقیقات جلیلہ اور بیانات عالیہ سے اپنی مقبول بارگاہ رسالت تصنیف ”جوابہ البجار“ کی چاروں ضخیم جلدوں کو مزین کیا ہے، سرورہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سے متعلق جن بزرگوں کی نگارشات پر ”جوابہ البجار“ کی جلد اول مشتمل ہے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

- ۱۔ قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ المتوفی ۵۴۲ھ
- ۲۔ حکیم ترمذی علیہ الرحمۃ المتوفی ۵۲۵ھ
- ۳۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمۃ المتوفی ۴۳۰ھ
- ۴۔ امام ماوردی علیہ الرحمۃ المتوفی ۴۵۰ھ
- ۵۔ امام محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ المتوفی ۶۳۸ھ
- ۶۔ امام فخر الدین عمر الرازی علیہ الرحمۃ المتوفی ۶۰۶ھ
- ۷۔ حضرت عمر بن قارض علیہ الرحمۃ المتوفی ۶۳۲ھ
- ۸۔ سلطان العلماء عز بن عبد السلام علیہ الرحمۃ المتوفی ۶۶۰ھ

حالات کا تقاضا ہے کہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ)، امام

ربانی حضرت محبت و الف ثانی سرہندی (المتوفی ۱۰۳۲ھ)، خاتم الحقیقین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۵۲ھ)، علی حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی (المتوفی ۱۳۴۲ھ) اور غلامرکابی علامہ یوسف بن اسمعیل نبہانی (المتوفی ۱۳۵۵ھ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی ان تصانیف عالیہ کو خاص طور پر زیور طباعت سے آراستہ کر کے منصفہ شہود پر لایا جائے جو فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی ترجمان ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں میں بے شک گورنمنٹ کی شطرنج کے مہروں اور خارجیت کے جدید علمبرداروں کی بظاہر خوشنما، دلفریب اور جدید تصانیف

کے ذریعے جو غیر اسلامی اور ایمان سوز جراثیم سرایت کر چکے ہیں ان کا کسی حد تک ازالہ ہو سکے
یہ دینِ متین کی بیش بہا خدمت برادرانِ اسلام کی خیر خواہی اور وقت کی اہم ضرورت
ہے۔

حالات کی ستم ظریفی تو ملاحظہ ہو کہ ایک اسلامی ملک میں خارجیت کی علمبردار حکومت نے
علامہ نہہانی کی تصانیف پر پابندی عائد کی ہوئی ہے کیونکہ یہ کتابیں محبتِ رسول کا درس
دیتی ہیں۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کر کے مسلمانوں
کے ایمانوں کو تازگی، آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور پہنچاتی ہیں لیکن وہاں کے حکمران
طبقے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان حضرات کے دلوں کو توہین و تنقیصِ رسالت
ہی سے تسکین ہوتی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں بد مذہبوں کی کسی گندی سے گندی
ایمان سوز اور دلاؤ دار کتاب پر بھی کوئی پابندی نہیں ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ جن حضرات
سے برٹش گورنمنٹ تخریبِ دین اور افتراقِ مسلمین کا منحوس کام لیتی رہی اور انہیں مسلمانوں
کے خیر خواہ اور پیشوا منوانے کی مہم چلاتی رہی۔ آزاد ہونے کے بعد بھی ہم نے ایسے کھوٹے
سکوں کو پہنچانے کی زحمت گوارا نہیں کی بلکہ آج تک سکولوں اور کالجوں میں نو نہالانِ وطن
کو ایسے ہی لوگوں کی تصانیف پڑھاتے اور انہیں کا گرویدہ بناتے چلے آ رہے ہیں معلوم
نہیں ہمارے حکمرانوں نے قوم کو گمراہوں اور گمراہ گروں کا گرویدہ بلکہ والاؤ شیدائے
میں دنیا و آخرت کی بہتری کا کونسا راہ سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے مسلم بزرگوں کی تصانیف
نو نہالانِ وطن کی تعلیم و تربیت اور ان کے دلوں اور دماغوں کی نشوونما کے لئے کافی
نہیں ہیں؟ بزرگانِ دین کی عقیدت یہی ہے کہ تعظیم و توقیر کے ساتھ ان حضرات کا اتباع
بھی کیا جائے، ان کی سچی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی پوری کوشش کی جائے اسی لئے
تو باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور
سچوں کے ساتھ رہو۔

دوسرے مقام پر یہی حکم ان لفظوں میں دہرایا گیا ہے :-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور اس کے طریقے پر چلو جو میری جانب رجوع لایا۔

مالک حقیقی نے اپنی عنایت بے پایاں سے ہمیں حکم دیا ہے کہ تلاوت و وظائف کے علاوہ ہر نماز میں بھی معبود برحق سے یوں دعا مانگا کریں :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ط صِرَاطَ

چلا ہمیں سیدھے راستے پر، ان لوگوں

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔

اگر مسلمانوں کی نظر اس حکم خداوندی پر رہتی اور اپنے مسلم بزرگوں سے منسلک رہتے تو علمائے سوسہ کبھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکتے اور وہ فرقہ بازی کا چکر چلا کر قوم کو اتنے گروہوں میں کبھی نہ بانٹ سکتے۔

جو اہل البجاء چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر عظیم النظر تصنیف ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ یہ اس موضوع پر امت محمدیہ کے مایہ ناز اکابر کی تحقیقات حلیہ پر مشتمل ہے، عربی زبان میں ہونے کے باعث عوام الناس اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ مولانا انوار الاسلام صاحب قادری رضوی لائق تحسین ہیں جنہیں محبت رسول نے اس کی اشاعت پر آمادہ کیا اور انہوں نے اس ایمان افروز، باطل سوز تصنیف کے اردو ترجمے کا کام مولانا غلام رسول قادری رضوی مدظلہ العالی اور اس ناچیز سے لیا۔ احقر نے اس صحیفہ محبت کی روح کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی بساط بھر کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام فرورگشتوں سے ضرور مطلع فرمائیں گے۔ باری تعالیٰ شانہ اپنے عاجز بندوں کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور اسے ہمارے لئے توشہ آخرت اور سرمایہ نجات بنائے، آمین

یا اللہ العلمین بیجاہ سید المرسلین و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و

علی الہ وصحبہ اجمعین۔ خاکپائے علماء، عبدالحکیم خاں اختر

شاہجہانپوری، مجددی، مظہری

دار المصنفین لاہور

یکم رجب المرجب ۱۴۲۹ھ

۲۲ جولائی ۱۹۰۸ء

حرفِ آغاز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين الذى
اختار سيدنا محمدا صلى
الله عليه وسلم من الخلق اجمعين
وارسله رحمة للعالمين و
جعل من جملة امته الانبياء
والمرسلين اذا اخذ عليهم الميثاق
بالايمان به وببصوته وقال
اشهدوا وانا معكم
من الشاهدين صلى الله
عليه وسلم وعلى
الهم وصحبهم اجمعين
ومن تبعهم باحسان
الى يوم الدين۔

سب تعریفیں ایک اللہ کے لئے جو سب
جہانوں کا پالنے والا ہے جس نے ساری
مخلوق میں سے ہمارے آقا و مولیٰ محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
برگزیدہ کیا اور انہیں سب جہانوں کے
لئے رحمت بنا کر بھیجا اور انبیاء و مرسلین
تک کو ان کی امت کے زمرے میں شامل
فرمایا کیونکہ انبیاء کرام سے ان پر ایمان
لانے اور ان کی مدد کرنے کا پکا وعدہ
لیا اور فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ
بن جاؤ اور میں تم پر گواہ ہوں۔ اللہ
تعالیٰ اپنے محبوب پر قیامت تک درود
سلام بھیجے اور سارے انبیاء پر اور ان
کے جملہ آل و اصحاب اور جنہوں نے بخوبی
ان کی پیروی کی۔

اما بعد شفاعت کے علمبردار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات
اور ان کے عظیم الشان منصب کی تشہیر میں یہ مجموعہ نادر و نادر گار ہے۔ سرور کون و مکاں صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے محامد و محاسن جو کچھ کتاب و سنت اور ائمہ شریعت و طریقت کی تصانیف عالیہ میں

وارد ہوئے ہیں نے ان کا اکثر حصہ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں آپ کے کتنے ہی معجزات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ شمار سے باہر ہیں۔ علاوہ بریں میں نے اپنی دوسری تصنیف میں معجزات پر شرح و بسط سے لکھا ہے بایں ہمہ اس کتاب کو معجزات کے بیان سے بالکل خالی بھی نہیں رکھا کیونکہ ذکر معجزات سے نبوت کے دلائل واضح ہوتے ہیں اور یہ کتنی مفید بات ہے۔ اس مجموعے میں اکابر عارفین اور ائمہ دین کے اہم فوائد نقل کر کے اسے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔

اس لحاظ سے یہ کتنا مبارک مجموعہ ہے کہ اس میں سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے فضائل و کمالات بیان کئے ہیں جو اس شرح و بسط سے آج تک کسی تصنیف میں نہیں لکھے جاسکے۔ دریں ایام ایمان والوں کے لئے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ علم و عرفان کے سمندروں سے بہترین جواہرات حاصل کر کے اس میں جمع کر دئے ہیں جو اکابر امت نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اپنے مشاہدات عرفانیہ سے حاصل کئے تھے۔ بزرگان دین نے آپ کے فضائل و کمالات کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس کی صحت و حقانیت میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث اور کشف صریح کو ماخذ اور سند بنایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین کے بعد منصب رسالت کو حضرات اولیاء کرام زیادہ جانتے پہچانتے ہیں اُسی طرح جیسے وہ باقی کائنات سے بڑھ کر عارف باللہ ہوتے ہیں حالانکہ باری تعالیٰ شانہ کے مخصوص کمالات سے تو کوئی بھی متصف نہیں ہو سکتا۔

بزرگان دین کی غیر متعلق اور کتاب کے مزاج سے مناسبت نہ رکھنے والی عبارتوں کو ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ تصوف کی اصطلاحات پر مبنی ہیں اور ان کا سمجھنا ہم جیسے لوگوں کے بس کا روگ نہیں، نیز ان عبارتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے جو اپنے حقیقی مفہوم کے لحاظ سے دقیق ہیں اور بظاہر شریعت کے مخالف معلوم ہوتی ہیں اگرچہ حقیقت میں مخالف نہیں ہیں۔ ایسی اکثر عبارتیں فتوحات مکیہ میں ہیں اور ان سے بھی زیادہ شیخ عبد الکریم جلی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف "الناس کا مل" اور

کلماتِ الہیہ میں موجود ہیں۔ ان کی بعض عبارتیں صوفیہ کے اس کلام سے بھی عجیب و غریب ہیں جن پر فقیر مطلع ہے۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان پر اعتراض کرنے سے اجتناب کریں اور یہ گمان رکھیں کہ ان عبارتوں کا ظاہر مفہوم جو مخالف شرع معلوم ہوتا ہے وہ ہرگز ان کی مراد نہیں کیونکہ شیخ عبد الکریم جمیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مناوی اور عارف نابلسی رحمۃ اللہ علیہما جیسے اکابر کی شہادتیں موجود ہیں کہ وہ متفرد عارف تھے۔

ایمان والوں کو یہ تصنیف (جواہر البحار) مبارک ہو یہ مجموعہ اپنی شان کے لحاظ سے عظیم النظر ہے کیونکہ محاسن پر مشتمل اور ہر خیر و خوبی سے مزین ہے۔ اس میں فضائلِ نبویہ کے ایسے جواہر جمع کئے ہیں جو خوبصورت ہاروں کے موتیوں کو شرمندہ کرتے ہیں جقائق و عرفان کے زخاں سمندروں سے فضائلِ نبویہ کے روشن جواہر کا استخراج کیا ہے۔ اکابرین امت نے جو کچھ آپ کی تعریف و توصیف میں لکھا اس کے عقلی و نقلی دلائل پیش کر کے ایسے اوصاف بیان کئے ہیں جو دل و دماغ کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ ان حضرات نے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اپنی اپنی معلومات کے تحت کی ہے حالانکہ آپ کے فضائل و کمالات کی حقیقت کا ادراک کوئی انسان نہیں کر سکتا۔

اے طالبِ حقیقت! تیرے لئے یہی جانتا کافی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حبیب اور خلاصہ کائنات ہیں ان کے بارے میں جمیع منقولات کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جتنا تو چاہے مبالغہ کر سکتا ہے کیونکہ جتنے اوصاف حسنہ وہ متصف ہیں تو مبالغے کے باوجود بھی انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریقِ رحمت کرے جنہوں نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے :-

دَعَا مَا ادَّعَتْ الْبُصَايَا فِي نَبِيِّهِمْ

وَاحْكُم بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكَمْ

لہ ترجمہ: نصا زئی نے اپنے نبی کے متعلق جو دعویٰ (الوہیت) کیا اسے چھوڑ کر جو چاہے حضو کی مدح و ثنا کر اور سن ۱۲

وارد ہوئے ہیں نے ان کا اکثر حصہ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں آپ کے کتنے ہی معجزات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ شمار سے باہر ہیں۔ علاوہ بریں میں نے اپنی دوسری تصنیف میں معجزات پر شرح و بسط سے لکھا ہے بایں ہمہ اس کتاب کو معجزات کے بیان سے بالکل خالی بھی نہیں رکھا کیونکہ ذکر معجزات سے نبوت کے دلائل واضح ہوتے ہیں اور یہ کتنی مفید بات ہے۔ اس مجموعے میں اکابر عارفین اور ائمہ دین کے اہم فوائد نقل کر کے اسے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔

اس لحاظ سے یہ کتنا مبارک مجموعہ ہے کہ اس میں سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے فضائل و کمالات بیان کئے ہیں جو اس شرح و بسط سے آج تک کسی تصنیف میں نہیں لکھے جاسکے۔ دریں ایام ایمان والوں کے لئے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ علم و عرفان کے سمندروں سے بہترین جواہرات حاصل کر کے اس میں جمع کر دئے ہیں جو اکابر امت نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اپنے مشاہدات عرفانیہ سے حاصل کئے تھے۔ بزرگان دین نے آپ کے فضائل و کمالات کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس کی صحت و حقانیت میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث اور کشف صریح کو ماخذ اور سند بنایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین کے بعد منصب رسالت کو حضرات اولیاء کرام زیادہ جانتے پہچانتے ہیں اسی طرح جیسے وہ باقی کائنات سے بڑھ کر عارف باللہ ہوتے ہیں حالانکہ باری تعالیٰ شانہ کے مخصوص کمالات سے تو کوئی بھی متصف نہیں ہو سکتا۔

بزرگان دین کی غیر متعلق اور کتاب کے مزاج سے مناسبت نہ رکھنے والی عبارتوں کو ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ تصوف کی اصطلاحات پر مبنی ہیں اور ان کا سمجھنا ہم جیسے لوگوں کے بس کا روگ نہیں، نیز ان عبارتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے جو اپنے حقیقی مفہوم کے لحاظ سے دقیق ہیں اور بظاہر شریعت کے مخالف معلوم ہوتی ہیں اگرچہ حقیقت میں مخالف نہیں ہیں۔ ایسی اکثر عبارتیں فتوحات مکیہ میں ہیں اور ان سے بھی زیادہ شیخ عبد الکریم حبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف "الناس کامل" اور

۱۲ اختر شاہ جہانپوری

کمالات الہیہ ہیں۔ موجود ہیں۔ ان کی بعض عبارتیں صوفیہ کے اس کلام سے بھی عجیب و غریب ہیں جن پر فقیر مطلع ہے۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان پر اعتراض کرنے سے اجتناب کریں اور یہ گمان رکھیں کہ ان عبارتوں کا ظاہر مفہوم جو مخالف شرع معلوم ہوتا ہے وہ ہرگز ان کی مراد نہیں کیونکہ شیخ عبدالکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مناوی اور عارف نابلسی رحمۃ اللہ علیہما جیسے اکابر کی شہادتیں موجود ہیں کہ وہ متفرد عارف تھے۔

ایمان والوں کو یہ تصنیف (جو اہل بحار) مبارک ہو یہ مجموعہ اپنی شان کے لحاظ سے عظیم النظیر ہے کیونکہ محاسن پر مشتمل اور ہر خیر و خوبی سے مزین ہے۔ اس میں فضائل نبویہ کے ایسے جو اہر جمع کئے ہیں جو خوبصورت ہاروں کے موتیوں کو شرمندہ کرتے ہیں جقائق و عرفان کے زخار سمندروں سے فضائل نبویہ کے روشن جواہر کا استخراج کیا ہے۔ اکابرین امت نے جو کچھ آپ کی تعریف و توصیف میں لکھا اس کے عقلی و نقلی دلائل پیش کر کے ایسے اوصاف بیان کئے ہیں جو دل و دماغ کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ ان حضرات نے فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اپنی اپنی معلومات کے تحت کی ہے حالانکہ آپ کے فضائل و کمالات کی حقیقت کا ادراک کوئی انسان نہیں کر سکتا۔

اے طالب حقیقت! تیرے لئے یہی جانتا کافی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حبیب اور خلاصہ کائنات ہیں ان کے بارے میں جمیع منقولات کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جتنا تو چاہے مبالغہ کر سکتا ہے کیونکہ جتنے اوصاف حسنہ وہ متصف ہیں تو مبالغہ کے باوجود بھی انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کرے جنہوں نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:-

دَعَّ مَا ادَّعَتْ النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ
وَاحْكُم بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فَيَدَّ وَاحْتَكَمَ

لہ ترجمہ: نصاریٰ نے اپنے نبی کے متعلق جو دعویٰ (الوہیت) کیا اسے چھوڑ کر جو چاہے جھوٹ کی مدح دینا کر اور سن ۱۲

وَأَنْسَبَ إِلَى ذَاتِهِ مَا شَتَّ مِنْ شَرَفٍ
وَأَنْسَبَ إِلَى قَدَرِ مَا شَتَّ مِنْ عَظَمٍ
فَإِنْ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ
حَدٌّ فَيَعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ

جانتا چاہیے کہ بزرگانِ دین کی بعض عبارتوں میں آیات و احادیث اور معانی مذکورہ
کا تکرار ہے۔ میں نے ایسی عبارتوں کو دو یا اس سے زیادہ مقامات پر اسی طرح رکھا ہے
مثلاً ایک عبارت یہ ہے :

روحہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی	فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ام الارواح و حقیقت اصل	کی روح مقدس ام الارواح اور
الحقائق و هو ابو ادم من	آپ کی حقیقت جملہ حقائق کی اصل
حيث الروح و ادم ابوہ من	ہے۔ وہ روح کے اعتبار سے
حيث الجسم و هو اول النبیین	آدم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں
فی البطون و خاتمہم فی	ادرجہم کے لحاظ سے آدم علیہ السلام آپ کے
الظہور و هو سلطانہم	باپ ہیں آپ باطن کے اعتبار سے سب
الاعظم و ہم نوابہ	سے پہلے نبی ہیں اور ظاہر کے لحاظ
فیمن بعثوا الیہم	سے آخری، آپ جملہ انبیائے کرام
من الامم و کلہم	علیہم السلام کے سلطانِ اعظم ہیں
صلوات اللہ علیہ و	اور وہ آپ کی ماتحتی میں گویا نواب
علیہم لو وجدوا فی	ہیں جو اپنی اپنی امتوں کی طرف
مدت لکانوا من	مبعوث ہوتے۔ اگر انبیائے کرام
جملۃ امت (۳)	اپنے اپنے دور تبلیغ میں آپ کو

۱۲ ترجمہ: جس شرف کی چاہے ان کی ذات کی طرف نسبت کر اور ان کی بہتان کو جس عظمت سے چاہے منسوب کر
کیونکہ فضائلِ سید المرسلین کی ایسی حد نہیں ہے جسے کوئی بیان کر سکے ۱۲ اختر شاہجہانپوری

ظاہری لحاظ سے پاتے تو امت
وسطے کے زمرے میں شامل ہوتے صلوات

اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔

یہ معافی ان لفظوں میں یا دوسرے الفاظ میں بار بار مذکور ہو چکی ہیں تنکرا کے باوجود میں نے ایسے
مکررات کو حذف نہیں کیا کیونکہ ایسی حسین و جمیل عبارتوں کی صورت کو مسخ کرنا میں نے پسند
نہ کیا اور ایسا کیونکر کرتا جب کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصافِ جمیلہ
کی حامل ہیں۔ ان میں شرف والے معافی اور مقدس اوصاف ہیں جن کا جتنا تنکرا کیا جائے
میٹھا اور خوشبودار معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کسی ماہر فن شاعر نے کہا ہے

اعُد ذکر نعمان لسان ذکرہ

هوالمسک ما کررت يتضوء

اسی طرح جب اس کتاب میں جمع شدہ تمام جواہر حسن و خوبی والے ہیں، جو علم و عرفان
کے سب سے بڑے سمندروں سے حاصل کئے گئے ہیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جن کا رنگ
ایک جیسا ہے اور بعض کا موتیوں اور مرجان کے رنگوں کی مانند مختلف رنگ ہے، میں
نے انہیں بغیر کسی رد و بدل کے شایانِ شان طریقے سے سجا دیا اور یہ پسند نہ کیا کہ ان میں
میری جانب سے کوئی نقصان واقع ہو۔ اب وہ قارئین کے سامنے مختلف اسالیبِ بیان
اور متعدد انداز سے صادر ہوں گے جو مختلف علمائے کرام اور اولیائے عظام کی زبانوں
سے ظاہر ہوئے ہیں اس سے ایک دوسرے کی تصدیق ہوگی جس سے ایمان اور یقین کی یادتی
حاصل ہوتی ہے۔

علاوہ بریں یہ کتاب رسائی کا مجموعہ ہے اس میں ہر امام کا کلام جمع کیا ہے یا جو کچھ انہوں
نے کسی دوسرے امام سے ذکر کیا ہو۔ اس طرح مختلف حضرات کا کلام ایک کتاب میں جمع ہو جائے
سے عاشقِ رسول کی مراد پوری ہو جائے گی۔

اس کتاب میں بعض مقامات پر ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بزرگ کا کلام نقل کرتے ہوئے

لے ترجمہ :- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار ذکر کر دیکھو کہ وہ مشک کی مانند ہے آ
جتنا بکھیریں خوشبو آتی ہے ۱۲ اختر

مناسبت کے لحاظ سے کسی دوسرے بزرگ کی کوئی عبارت بھی نقل کر دی۔ اس اعتبار سے ہر ایک کی نگارشات مل کر ایک مستقل تصنیف بن گئی، یوں ایک کے کلام کو دوسرے کے لفظوں میں ادا کرنا تکرار نہیں کہلائے گا۔

ہاں بعض حضرات کے کلام میں تکرار ضرور ہے جیسے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کلام میں نظر آئے گی، یہ ان کی نگارشات کا ایک باب کے تحت جمع ہونے کے باعث ہوا حالانکہ اس کتاب میں وہ متفرق ہیں، ایسا ابواب کی مناسبت سے کیا گیا ہے پس حضرت شیخ علیہ الرحمۃ اس سے بری الذمہ ہیں اور یہ اعتراض مجھ پر عائد ہوتا ہے۔

اے صاحب ایمان! حبیبِ خدا (جل جلالہ و صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بارگاہِ خداوندی میں جو اعلیٰ مقام حاصل ہے اور جس کا اولیاء اللہ نے علیٰ قدر مراتب مشاہدہ کیا ہے اس کے حسبِ حال اوصافِ عظیمہ کو بالغہ نہ سمجھنا کیونکہ جو ہستی ساری کائنات سے ممتاز ہو یہ اوصاف اس کے منصب سے بڑھ کر نہیں ہیں حالانکہ وہ فخرِ آدم و بنی آدم ہیں۔ جملہ بندگانِ خدا کے سردار اور اللہ رب العزت کو سب سے پیارے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے سوا ان سے اوپر کوئی باکمال نہیں۔ ایسے اوصافِ عظیمہ اور کمالاتِ عالیہ کے باوجود وہ باری تعالیٰ شانہ کے مقدمات سے خارج نہیں ہیں۔ جملہ اہل ایمان کے نزدیک جو آپ کا سلم مقام ہے۔ یہ سارے بیانات اسی رفعت کی تفصیلات و شروح ہیں۔ ان کی بنیاد ان مکاشفات اور مشاہدات پر بھی ہے جس کا ان اکابر نے مشاہدہ کیا جن کی ارواح دنیوی آلش سے پاک ہو چکی تھیں پس انہوں نے چشمِ بصیرت سے ایسے بعض اسرار و انوار دیکھے جن کا ظاہری آنکھیں ادراک نہیں کر سکتیں اگرچہ ہم نے ان حضرات کو مشاہدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اپنے مشاہدات کی بناء پر انہوں نے جو اعتقاد رکھا ہم بھی اسے درست تسلیم کر کے دلت ایمان میں ان کے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ شانِ رسالت کے بارے میں اکابر اولیاء اللہ کے معتقدات یہ ہیں :-

سلہ مولانا حسن رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-
جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز
کوئیں میں کسی کو نہ ہو گا کوئی عزیز

انہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل خلق اللہ
واعلاہم منزلة عند اللہ وان النور الاعظم الساری فی جمیع الموجودات والاصل المقدم الذی تفرعت عنہ جمیع الکائنات۔

فخرد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام سب سے بلند ہے آپ کا نور سارے انوار سے ممتاز اور جلوہ موجودات میں جاری و ساری ہے جو تمام افرادِ عالم کی اصل اور سب سے مقدم ہے جس سے ساری کائنات

(مسک)

نے وجود کا لباس پہنا ہے۔

ان مطالب پر عنقریب ان حضرات کے کلام میں عقلی اور نقلی دلائل بیان ہوں گے جن سے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور جن کی نورانیت شمس و قمر سے بھی فائق ہے۔ جن حضرات کا کلام اس مجموعے میں منقول ہے وہ معرفت کے ماہتاب ہیں اور آفتابِ کمال سے اقتباس کرنے والے ہیں۔ احسان کے ایسے سمندر ہیں جو افضالِ نبوی کے فیض اور آپ کے محیطِ فضل سے استمداد کرتے رہتے ہیں پس ان بزرگوں نے جو کچھ فخرد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی ہے چونکہ وہ آپ ہی کے فیضان سے ہے جو آپ کی جانب نوٹائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ان حضرات کا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے مثلاً

کالبحر یطرہ السحاب و مالہ

من علیہ لای من مات

اکابر کے فرمودات جو اس مجموعے میں نقل کئے گئے ہیں ان کی ابتداء میں نے امام، محدث، محقق ابو الفضل قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگارشات سے کی ہے جنہوں نے اپنی کتاب الشفاء تصنیف کے ذریعے بیمار دلوں کو شفا کے عالم سے ہمکنار کیا ہے اور اس میں اہل ایمان کے لئے

لہ (ترجمہ) جیسے سمندر پر بادل برستا ہے لیکن بادل کا سمندر پر کوئی احسان نہیں کیونکہ یہ پانی تو اس کا اپنا ہے ۱۲ اختر

حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن و محامد کے باغیچے لگاتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ فضائل رسول بیان کرنے میں یکتا اور ان کی یہ تصنیف اپنے فن میں بے مثال ہے اور اس کے باعث انہیں اپنے بعد والوں پر فضیلت و فوقیت ہے غالباً انہیں بلحاظ زمانہ بھی ولایت حاصل ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عرفان کی شہرت میں انگشت نمائی کی ہو۔ اکابر کے فرمودات نقل کرتے وقت میں نے فوائدِ حسنہ کی قلت و کثرت کا لحاظ نہیں رکھا اگر میں اس کا لحاظ رکھتا تو شیخ اکبر و غوثِ زمان حضرت عبدالعزیز دبانغ رحمۃ اللہ علیہ کو ان جملہ ائمہ کرام پر فوقیت دیتا حالانکہ ان تمام حضرات نے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی خدمت کا وافر حصہ پایا ہے۔ یہ علم کے سمندروں کے جواہرات سے اہل ایمان کے گوشِ ہوش مزین کرنے اور سید المرسلین علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التحیۃ کے محبتیں کی ارواح کو معطر کرنے کا وقت ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ فضائل و کمالاتِ محمدیہ کو زیادہ سے زیادہ نشر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان صاحبانِ علم و فضل پر بارانِ رحمت نازل فرمائے جو اسے قبولیت کی نظر سے دیکھیں نیز مجھے اور انہیں تمام نہاد مدعیانِ اسلام کے شر سے منون رکھے۔ اب میں اپنی منزلِ مقصود کی جانب روانہ ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلِ عظیم سے استمداد کرنے والے سمندوں سے ایک، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۷۵۴ھ) ہیں۔

امام کبیر و محدث شہیر
 ابو الفضل قاضی عیاض رضی اللہ عنہ
 کے
 فرمودات گرامی

مقام مصطفیٰ

قاصی عیاض رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۵۴ھ) کے جواہر فرمودات سے ان کی تصنیف ”کتاب الشفاء“ ہے۔ اس کی القسم الاول نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر تعظیم و توقیر اور آپ کی قوی و فعلی قدر و منزلت پر مشتمل ہے جس شخص کو علم و فہم سے محوڑا سا بھی حصہ ملا ہو اس پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس درجہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قابل تعظیم و توقیر ٹھہرایا ہے اور ایسے بیشمار فضائل و کمالات اور محامد و محاسن سے سرفراز فرمایا ہے جو صرف آپ ہی کا حصہ ہیں اور اس عظیم الشان منصب کے لحاظ سے آپ کی قدر و منزلت بیان کرنے سے زبانیں اور قلمیں تھک کر رہ جاتی ہیں۔

فضائل مصطفیٰ سے بعض وہ امور جن کی باری تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب میں تصریح فرمائی ہے اور اس جلیل نصاب میں جن پر متنبہ فرمایا ہے اور جن آداب و اخلاق پر آپ کی تعریف و توصیف کی ہے اور اپنے بندوں کو ان کے التزام و اتباع پر ابھارا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے اس فضل و کرم باعث ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے مقدم و ممتاز کیا، پاک صاف فرمایا پھر آپ کی مدح و ثناء کی اور کامل جزاء عنایت فرمائی کیونکہ باری تعالیٰ شانہ ہی اول و آخر فضل و کمال کا مالک ہے اور دنیا و آخرت میں اسی کی حمد و ثنائے حقیقی ہے اور اسی نے اپنی مخلوق میں سے آپ کو جلالت و کمال کے انتہائی مقام پر فائز کیا اور محاسن جمیلہ و اخلاق حمیدہ اور کرامت جلالہ دین اور بے انتہاء فضائل سے آپ کو خصوصیت بخشی۔ ظاہر معجزات، واضح براہین اور روشن کرامات سے آپ کی تائید فرمائی جس کا معاصرین نے مشاہدہ اور اہل علم نے ادراک کیا اور بعد

والوں تک ان کا یقینی علم پہنچا جس کے باعث ان کی حقیقت پر مطلع ہو کر آپ کے انوار سے ہم بھی فائز ہوئے۔

امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ شبِ اسری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لگام اور زین سمیت براق لایا گیا جو سواری کے وقت اچھلنے لگا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں ایسی حرکت کرتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو باری تعالیٰ شانہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز ہو۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب الشفاء کی القسم الاول کے پہلے باب میں اس امر کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدح و ثناء میں فرمایا اور باری تعالیٰ شانہ کے نزدیک جو سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے اس کا اظہار کیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ کلامِ الہی میں ایسی آیات کثیرہ ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکرِ جمیل پر مشتمل اور آپ کے محاسن و محامد تعظیمِ امر اور قدر و منزلت کو بیان کرتی ہیں۔ ہم ان کے ظاہری مفہوم و مطلب پر اعتماد رکھتے ہیں جو سابق و سیاق سے ظاہر ہے۔ ہم نے اس بیان کو دس فصلوں میں جمع کر دیا ہے، ہر فصل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ پھر جو اس کے مناسب مافی وہ تفسیر اور مزید فوائد کا اضافہ کر دیا ہے۔ میں ان بیانات کو مفید اقتصار کے ساتھ مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس آیت کا ذکر ہے جو باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَّا بَيْنَكُمْ حَبِيبٌ
عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِينَ تَأْوَفُ
بیشک تمہارے پاس تشریف لائے
تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت
میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے

نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر

کمال مہربان مہربان۔

بعض نے اس اَنْفُسِکُمْ کی "نا" کو مفتوح پڑھا ہے جبکہ جمہور کی قرأت ضمّہ کے ساتھ ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا ہے کہ اس نے اپنے اس عظیم الشان رسول کو ان کے نفوس ہی میں مبعوث فرمایا ہے جسے وہ اچھی طرح جانتے اور اس کا مرتبہ پہچانتے ہیں۔ اس کی صداقت و امانت سے واقف ہیں اور اسے جھوٹ سے متہم نہیں کر سکتے، علاوہ بریں عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ولادت یا قرابت کا تعلق نہ ہو۔

اَنْفُسِکُمْ کی دوسری قرأت یعنی بفتح الفاء کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں شرف و رفعت و فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہیں، بھلا اس سے بڑھ کر خوبی اور کیا ہو سکتی ہے؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوصاف حمیدہ اور محامد کثیرہ کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جن میں سے ایک وصف یہ ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ لوگ رشد و ہدایت سے بہرہ مند ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں اور ہر وہ بات آپ پر گراں گذرتی تھی جس میں اُنکے لئے دنیا و آخرت میں خسارہ ہو، ایسی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور مسلمانوں پر آپ کی چشم عنایت اور نگاہِ رحمت رہتی تھی۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے اسمائے حسنیٰ میں سے دو اسم یعنی "رؤف و رحیم" بھی اپنے محبوب علیہ افضل الصلوٰۃ و التسلیم کو عنایت فرمائے ہیں مثلاً ارث و خداوندی ہے،

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا
مسلمانوں پر کہ ان میں اُنھیں میں سے

اَنْفُسِهِمْ^۱

ایک رسول بھیجا۔

دوسری آیت میں ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي
الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ^۲

وہی ہے جس نے اُن پڑھوں

میں اُنہیں میں سے ایک

رسول بھیجا۔

ایک اور مقام پر ہے :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا
مِّنكُمْ الْآيَةُ^۳

جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک

رسول۔

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے من انفسکم کی تفسیر میں حسب و نسب اور صہر یعنی
سسرال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی زنا سے پیدا نہیں ہوا بلکہ
سب نکاح کے ذریعے پیدا ہوئے۔

ابن کلبی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچ سو اہمات کے حالات
معلوم کئے لیکن کسی میں زنا اور جاہلیت کا کوئی اثر نہیں پایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
ارشادِ خداوندی وَ تَقَلَّبْتَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ سرورِ کون و مکان
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ایک نبی سے دوسرے نبی کی جانب منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ
نبی مبعوث ہوئے۔

لے پ ۴، سورہ آل عمران، آیت ۱۶۴ لے پ ۲۸، س حجۃ، آیت ۲ لے پ ۲، س بقرہ، آیت ۱۵۱

لے پ ۱ تفسیر کے لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ میرا محبوب بلحاظ حسب و نسب اور صہر تم میں سے ہے لیکن دوسری تفسیر
کے اعتبار سے مطلب یہ ہو گا کہ ہمارا محبوب حسب و نسب اور صہر کے اعتبار سے تم میں سب سے فضل و شرف والا ہے ۱۲

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی مخلوق کا اطاعت میں عجز ظاہر ہے، انہیں ان پر مطلع کرنا منظور تھا کہ وہ براہ راست بارگاہِ خداوندی سے کسبِ کمال نہیں کر سکتے اس لئے باری تعالیٰ شانہ نے خالق و مخلوق کے درمیان ایک ایسی ہستی کو رکھا جو بزرگ کبرئے کا کام دے۔ اسے انسانی شکل و صورت میں پیدا فرمایا لیکن اپنی حکمتِ کاملہ سے اسے رافت و رحمت کا لباس پہنا کہ مخلوق کی جانب سے ایسا کامل و مکمل نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اس کی موافقت کو اپنی موافقت ٹھہرایا، جیسا کہ خود فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ نِزَارِ شَاخِداً وَخِداً وَنَدَىٰ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

ابوبکر بن طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت کی زینت سے مزین فرمایا اور آپ کو رحمت کا ایسا پتلا بنایا ہے جس کی جملہ عادات و صفات مخلوق خدا کے لئے بارانِ رحمتِ خداوندی ہیں جسے اس سرکار سے محوڑی سی بھی رحمت کی بھیک مل گئی وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوا یعنی ہر مصیبت سے نجات پا گیا اور دارین میں اپنی مراد کو پہنچے گا۔

جانِ برادر! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ باری تعالیٰ شانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضور پر نور شافعِ یومِ الشُّور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ ممات دونوں ہی رحمت ہیں۔ فرمانِ نبوی ہے کہ میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے اور میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اسی کے مطابق فرمانِ رسالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فرمانا چاہتا تو اس کے ختم ہونے سے پہلے نبی کو قبض کر لیتا تاکہ وہ امت کی بخشش کے لئے مقدمہ اور ذخیرہ بن جائے۔

۱۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ (پ ۵) سورہ نساء، آیت ۱۹
۲۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ (پ ۱، ۱) اس انبیاء، آیت ۲۰

امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لئے رحمت ہیں۔ کتنے ہی بزرگانِ دین نے فرمایا ہے کہ آپ ساری مخلوق کے لئے رحمت ہیں۔ مومنوں کے لئے اس لحاظ سے رحمت ہیں کہ انہیں ہدایت آپ ہی کے سبب ملی، منافقوں کے لئے باین وجر رحمت ہیں کہ انہیں قتل سے امان ملی۔ کافروں کے لئے بھی رحمت ہیں کہ آپ کے باعث ان سے عذاب مؤخر ہو گیا۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ مومنوں اور کافروں کے لئے رحمت ہیں۔ قرونِ سابقہ میں اپنے انبیاء کو جھٹلانے والی امتوں پر جس طرح کے عذاب اُسے اگر اسے پیشِ نظر رکھا جائے تو آپ کا رحمۃ للعالمین ہونا بخوبی ذہن نشین ہو جائے۔

حکایت ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، کیا تمہیں بھی اس رحمت سے کوئی حصہ ملا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ ہاں یا رسول اللہ! میں اپنی عاقبت کے بارے میں بڑا خائف تھا لیکن اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کیوں کہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے آخری پیغام میں متعلق یوں فرمایا ہے ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ نَّحْنُ آمِنِينَ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ مِّمَّہٗ کَمِیْشٰکُوۃٍ فِیْہَا مِصْبَاحٌ الْاٰیۃ کعب بن جبریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے:

المراد بالنور الثانی پھرنا محمد مذکورہ آیت میں دوسرے نور سے مراد

صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ارشاد

لے جو قوت والا ہے مالکِ عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے (پ) اس اشکورا آیت (۲۱/۲۰) لے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے (پ) انور آیت (۲۵)

فقولہ مثلاً نُورِ اِی نور محمد خداوندی ہے مثلاً نُورِ اِی یعنی نور محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم و قد سماہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس آیت
 فی القرآن فی غیر ہذا المواضع نوراً کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات
 و سراجاً منیراً۔ پر اپنے محبوب کو نور اور سراج منیر
 (صلی اللہ علیہ وسلم)

فرمانِ باری تعالیٰ ہے قَدْ جَاءَ كُحْمٌ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ
 دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّا اَنْزَلْنٰكَ شَاهِدًا قَٰمُ بِشَرِّ اَقْ سَدِیْرًا وَّ دَاعِیًا
 اِلَی اللّٰهِ بِاِذْنِیْ و سِرَاجًا مُّنِیْرًا۔ ایک مقام پر اسی سلسلے میں یوں فرمایا ہے
 اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرًا وَّ اَنۡزَلْنٰکَ اِلَی الْاٰخِرِ السُّوْرَۃِ فِیۡہِیۡ سَیۡئَرٌ مِّنۡ رَّبِّکَ
 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ کا شرح صدر اسلام کے ساتھ ہوا
 ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نور رسالت کے ساتھ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آپ کے قلبِ اطہر کو علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔

مذکورہ تقریر کے بعد قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اور بارگاہِ
 خداوندی میں آپ کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہے کیونکہ آپ کے قلبِ اطہر کو ایمان و ہدایت
 کے لئے کھول دیا، نیز علم کو محفوظ رکھنے اور حکمت کا متحمل ہونے کے لئے وسیع کر دیا گیا اور
 اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر کے امورِ جاہلیت و غیرہ کا بوجھ آپ سے دور کر دیا اور
 منصبِ نبوت و رسالت کی ذمہ داری سے آپ کو بخیر و خوبی عہدہ برا کر دیا کیونکہ آپ نے

۱۔ یہ شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب (پک، سورہ المائدہ، آیت ۱۵)
 ۲۔ شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری اور ڈرنا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چکا دینے
 والا آفتاب (پک، سورہ الاحزاب آیت ۴۶) ۳۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔ (پ، ۳، س، الشرح، آیت ۱)

احکاماتِ الہیہ پوری طرح لوگوں تک پہنچا دئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی باری تعالیٰ شانہ نے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظیم منصب اور جلیل رتبہ کے ساتھ ممتاز فرمایا اور آپ کے ذکر کو اس درجہ بلند کیا کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا یا۔

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو دنیا و آخرت میں اس طرح بلند فرمایا کہ کوئی خطیب، شہادت دینے والا اور نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو یہ نہ کہے کہ: "میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔"

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم، نور مجسم، فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ کب آپ جلتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ارشادِ خداوندی ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ یعنی پروردگارِ عالم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو، اپنی اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت کو اور اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام نامی اہم گرامی کو ملا یا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ، وَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ**۔ پس ان دونوں اسمائے گرامی (اللہ و رسول) کو واؤ عاطفہ سے ملا یا ہے جو اشتراک کو چاہتی ہے اور ایسا کلام حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:۔

۱۔ اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ (پ ۲۶، سورہ محمد، آیت ۳۳)

۲۔ اور ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ (پ ۵، سورہ النساء، آیت ۱۳۶)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
الآية له
اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی بیشک
ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری
دیتا اور ڈر سناتا۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رتبہ عالیہ کے نشانات اور
کثیر اوصافِ مدح جمع فرما دیے ہیں۔ امت تک احکاماتِ الہیہ پہنچانے کے باعث آپ کو
”شاہد“ ٹھہرایا اور یہ سرکارِ ابدِ قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خصائص سے ہے فرمانبرداروں
کے لئے آپ ”مبشر“ اور نافرمانوں کے لئے ”نذیر“ بنائے گئے۔ توحید کا پرچار کرنے
اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا لوگوں کو درس دینے کے باعث ”داعی“ ہوئے اور
دنیا والوں کو باطل کے اندھیرے سے حق کے اجالے میں لے جانے کے سبب ”سراجاً
منیراً“ کہلانے کے حقدار ہوئے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت
یوں نقل کی ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور خواہش
ظاہر کی کہ مجھے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطلع فرمائیں۔ فرمایا بہت خوب، آپ کی
صفاتِ توریت مقدس میں مذکور ہوئیں جیسے قرآن کریم میں بعض اوصاف کا ذکر ہے مثلاً:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَحُزْنَ الْأَمِّينِ إِنَّكَ عَبْدِي
وَرَسُولِي سَمِيتُكَ الْمُتَوَكِّلَ
لَيْسَ بَفُظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا
سَحَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ
اے غیب کی خبریں دینے والے بیشک
ہم نے تمہیں حاضر و ناظر، جنت کی بشارت
دینے والا، دوزخ کے عذاب سے
ڈرنا نیا والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم ان پڑھوں
کی حفاظت کرنے والے میرے بندے
اور رسول ہو۔ ہم نے تمہارا نام متوکل

ولا یدفع بالسیت
السیت والکن یعفو و
یغفر ولن یقبضہ اللہ حتی
یقرب الملة العوجاء
بان یقولوا لا اله
الا اللہ ویفتحہ اعینا
عمیا واذانا صمًا و
قلوبًا غافلاً
(ص)

رکھا ہے جو بدخلق، سخت اور بازاری آدمی
نہیں اور بُرائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے
بلکہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
تمہیں اس وقت تک نہ اٹھائے گا جب
تک کہ بگڑی ہوئی قرین تمہارے ذریعے
سیدھی نہ ہو جائیں اور یہ اقرار نہ کر لیں
کہ ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود
نہیں اور اس کے ذریعے انہی آنکھوں
بہرے کانوں اور غافل دلوں کو کھول دیا
جائے گا۔

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما اور کعب احبار رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے
ابن اسحاق رضی اللہ عنہ مزید یوں فرماتے ہیں :

ولا صخب فی الاسواق
ولا متزین بالفحش و
لا قوال للفتاء اسدہ بكل
جمیل و اھب له کل
خلق کریم و اجعل
السکینۃ لباسہ والبر شعارہ
والتقوی سمیرہ والحکمت
مقولۃ الصدق والوفاء
طبیعتہ والعفو والمعروف خلقہ

نبی آخر الزمان ایسا نہیں ہوگا کہ بازاروں
میں آوازیں بلند کرے اور قواش کو طبعاً
نا پسند فرمائے گا، یا وہ کوئی سے
متنفر ہوگا۔ میں انہیں ہر خوبی سے آراستہ
کر دوں گا اور انہیں اخلاقِ جمیلہ سے مزین
کر دوں گا۔ ان کا لباس سکینہ، ان کا
طرزِ عمل بھلائی، تقویٰ ان کا ضمیر، حکمت
ان کا کلام، صدق و وفا ان کی طبیعت،
معاف کرنا اور حسن سلوک ان کی عادت،

والحق شریعت والہدی
امامہ والا سلام ملت
واحمد اسم اہدی بہ
بعد الضلالة واعلم بہ بعد
جهالة وارفع بہ بعد الجمالة
واسمى بہ بعد النصرة
واکثر بہ بعد القلة و
اغنى بہ بعد العيلة واجمع
بہ بعد الفرقہ واقلف
بہ بین القلوب مختلفہ و
اھو امتشئتہ وامم
متفرقتہ واجعل امت
خیر امتہ اخرجت للناس۔

حق ان کی شریعت ، ہدایت ان کا
امام ، اسلام ان کی ملت اور احمد
ان کا نام نامی و اسم گرامی ہوگا۔ میں
ان کے ذریعے گمراہی کے بعد ہدایت
جہالت کے بعد علم ، پستی کے بعد
رفعت و ترقی ، نکارت کے بعد
شہرت ، قلت کے بعد کثرت ، کنگالی
کے بعد غنار ، جدائی کے بعد ملاپ
پیدا کروں گا۔ ان کے ذریعہ مخالف
دلوں ، متفرق خواہشوں اور بکھری
ہوئی قوموں کو اکٹھا کروں گا۔ ان کی
امت کو تمام امتوں سے بہتر پیدا
کروں گا جو نبی نور ان کی بھلائی
کے لئے ظاہر ہوگی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے
ان اوصاف عالیہ کی خبر دی جو توریت میں مذکور تھے۔ اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ
میرے اس بندے کا اسم گرامی احمد مختار ہے۔ ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور
جائے ہجرت مدینہ منورہ ہے یا قریبا طیبہ ، ان کی امت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ
حمد و ثنا کرنے والی ہوگی جیسا کہ باری تعالیٰ شانہ نے آیہ کریمہ الذین یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ

لہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ (پہ سورۃ الاعراف ، آیت ۱۵۷)

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْآيَةِ فِي خَبَرِي هِيَ، ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

فَيَسْمَا حُصْمَةً مِنَ اللَّهِ
لَنْتَ لَهُمْ وَكَوُكُنْتَ فَظًا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تُفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ ۝

تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے
محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے
اور اگر تند مزاج، سخت دل ہوتے
تو وہ ضرور تمہارے گرد سے
پریشان ہو جاتے۔

علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان جتلیا
کہ اس نے ایمان والوں کے لئے اپنے آخری رسول کو سراپا رحیم بنایا جو ان کے ساتھ
رحمد لی سے برتاؤ کرتے ہیں اور فرمایا کہ وہ اگر بدخلق اور سخت زبان ہوتے تو لوگ ان سے
دور بھاگتے، کہ پروردگارِ عالم نے انہیں تو چشم پوشی کرنے والا، نرم، خندہ پیشانی والا بنک
اور لطف و کرم فرمانے والا بنایا ہے۔ جن آیات میں باری تعالیٰ شانہ نے اپنے محبوب کی
شانِ محبوبی دکھائی، لطف و کرم اور محبت بھرے لہجے میں ان سے خطاب فرمایا۔ ایسی بعض آیات
پیش کی جاتی ہیں، ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ
لَهُمْ ۝

اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں
کیوں اذن دیا۔

ابو محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اکابر کا ارشاد ہے، جس طرح بزرگ اپنے
عقیدت مندوں سے کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری اصلاح کرے، خدا تجھے عزت دے،
باری تعالیٰ شانہ نے بھی اسی انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا
ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے دیگر اقوال بھی نقل فرمائے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشادِ
خداوندی ہے۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَمَيِّتٌ ۚ لِيَعْلَمَنَّكَ الَّذِي
يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ

ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ
بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تمہیں نہیں

الایۃ ۱

جھٹلاتے۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض خصائص اور باری تعالیٰ شانہ کی آپ پر
خاص کرم نوازیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارا
مثلاً فرمایا اے آدم! اے نوح! اے ابراہیم! اے داؤد! اے زکریا! اے یحییٰ!
اے عیسیٰ! لیکن اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا
المرسل، یا ایہا المدثر جیسے پیارے پیارے القاب ہی سے مخاطب فرمایا۔ باری تعالیٰ
شانہ نے اپنے حبیب کی عظیم قدر و منزلت کا اظہار فرمانے کی خاطر ان کی قسم یاد فرمائی چنانچہ
قرآن کریم میں ہے:-

لَعَنَّاكَ إِن تَهْمِلْ فَيَسْكُتَ رَبُّكَ
يَعْمَهُونَ ۚ

اے محبوب! تمہاری جان کی قسم بے شک
وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔

جملہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں باری تعالیٰ شانہ نے اپنے
حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدتِ حیات کی قسم یاد فرمائی ہے اس میں آپ کی بے نہایت تعظیم اور
غایت درجہ شرف و محبت کا اظہار ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم سے مکرم و معزز اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت ابوالجوزاء فرماتے ہیں کہ فخر
دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات میں سب سے بلند مرتبہ ہیں اسی لئے مالکِ حقیقی
نے آپ کے سوا کسی دوسرے کی عمر کی قسم یاد نہیں فرمائی ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

يَسِّرْ . وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ . ۱
حکمت والے قرآن کی قسم۔

علامہ نقاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا باری تعالیٰ شانہ
بچے اپنی کتاب میں کسی رسول کی رسالت پر قسم یاد نہیں فرمائی، ارشاد خداوندی ہے :-

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝
چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے

اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کرامت و
رفعت و عظمت عطا فرمائی ہے اس سورۃ مبارکہ میں اس کا چھوٹا درجہ سے اظہار فرمایا ہے جو حسب
ذیل ہیں :-

پہلی وجہ :- اللہ تعالیٰ نے حالت محبوب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا
سَجَىٰ یعنی دوپہر جیسے روشن چہرے والے اور رات جیسی زلفوں والے محبوب کے رب کی قسم !
اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت و کرامت غایت درجہ کی ہے۔

دوسری وجہ :- دربار خداوندی میں جو آپ کا عالی منصب و اعلیٰ درجہ ہے اسے بیان فرمادیا
گیا کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ یعنی تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ
جانا۔ بعض علمائے کرام نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ آپ کو ساری مخلوق میں سے چُن
لینے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔

تیسری وجہ :- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ابن اسحاق علیہ الرحمۃ نے فرمایا،
کہ آخرت میں آپ کا مقام دنیاوی منصب سے اظہار کرامت و بزرگی کے سبب زیادہ معظّم ہوگا۔
حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شفاعت اور مقام محمود جو آپ کے لئے مخصوص فرمائے
گئے ہیں، ان کے سبب نبوتی زندگی سے آپ کی آخری زندگی زیادہ بہتر ہوگی۔

۱۔ سورہ یس ۱۲ آیت ۱۔ ۲۔ سورہ الفیل ۱ آیت ۱۔ ۳۔ سورہ النجم ۱ آیت ۱۔ ۴۔ سورہ النجم ۱ آیت ۱۔ ۵۔ سورہ النجم ۱ آیت ۱۔
احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ نے منکرینِ نبوت کی رسالت کی گواہی کے بارے میں یوں یقین فرمائی ہے،

۱۔ وَالضُّحَىٰ ہجرات، الم نشرح سے پھر
مومنو! اتمم محبت کیجئے

چوتھی وجہ :- وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت کریمہ وجوہ کرامت، انواع سعادت اور دونوں جہانوں میں مختلف قسم کے انعامات کثیرہ کی جامع ہے۔

ابن اسحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ شانہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ثواب سے خوش کر دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو صحن کوثر اور شفاعت عطا فرمائے گا۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شہزادوں سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے بڑھ کر دوسری کوئی آیت ڈھارس بندھانے والی نہیں ہے کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں داخل کیا گیا تو آپ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔

پانچویں وجہ :- اس سورت میں باری تعالیٰ شانہ نے اپنے ان انعامات اور لطف و کرم کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کئے، یہاں تک ان کا بیان ہے، اس سے آگے آپ کو اس عظیم الشان منصب تک پہنچانے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے کا بیان ہے۔ نیز آپ کے پاس بظاہر مال نہ تھا (جیسا کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے) لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے کر یا آپ کے دل کو اپنے ماسومی سے تغنی کر کے غنی بنا دیا۔ آپ کے والدین انتقال فرما گئے تو چچا (ابوطالب) کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان کر دیا اور ان کے پاس جگہ دی۔

مقامِ غور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں، ان کی بظاہر کس پیری اور یتیمی کے زمانے میں بے یار و مددگار نہ چھوڑا تو ساری مخلوق میں سے انہیں چن لینے اور اپنا حبیب ٹھہرا لینے کے بعد کس طرح چھوڑا جاسکتا ہے، چھٹی وجہ :- پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جن انعامات سے تمہیں نوازا گیا ہے ان کا اظہار کرو اور جس عالی منصب پر تمہیں فائز کیا ہے لوگوں میں

اس کی نشر و اشاعت کر کے شکر گزاری کرو۔ اسی لئے باری تعالیٰ شانہ نے **وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** فرمایا ہے کیونکہ تحدیثِ نعمت بھی شکر گزاری ہے اور یہ امر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے خاص اور آپ کی امت کے لئے عام ہے۔

مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کے اظہار میں ارشادِ خداوندی ہے :-

وَالنَّجَّارِ اِذَا هَوَّیْ — تَا — اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج
لَقَدْ تَرَاۤیْ مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهِ اترے۔ تا بے شک اپنے رب کی بہت بڑی
الکبریٰ لے نشانیاں دیکھیں۔

یہ آیات فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے فضائل و کمالات بیان کر رہی ہیں جن کا تفصیلی شمار زبان و بیان کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ہادی ہونے کی قسم یاد فرمائی نیز نفسانی خواہشات سے پاک اور صدق و امانت سے مالا مال ہونے کا ذکر فرمایا جس کا خصوصی تعلق وحی الہی سے ہے جو جبریل علیہ السلام بارگاہِ خداوندی سے لاتے اور بتایا کہ وحی لانے والا جبریل امین بھی زبردست طاقت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرا الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فضیلت کا ذکر فرمایا جو آپ کو معراج و اسری کے ذریعے عطا فرمائی اور سورۃ المنتہیٰ تک پہنچنے کا ذکر فرمایا اور دستِ قدرت کے جن کمالات و نشانات کا نگاہِ مصطفیٰ نے معائنہ کیا۔ باری تعالیٰ شانہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔

اس واقعہ (معراج) کے ابتدائی حالات سورۃ اسراء کے شروع میں مذکور ہیں لیکن جو کچھ جبریل سے آپ پر منکشف ہوا اور عالم ملکوت کے جن عجائبات کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، زبان و قلم ان کے احاطے سے قاصر ہے اور عقلمیں ان کے ادنیٰ حال کو سننے اور سمجھنے سے عاجز ہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اشارے اور کنائے کے طور پر فرمایا ہے، علاوہ بریں اس لئے کہ

۱۔ یہ سورہ و انجم آیت ۱۸۔ اسی لئے تو حضرت اخترا الحامدی نے لکھا ہے :-
جب سورۃ النجم کی ہوتی ہے تلاوت
آجانی ہے محبوبِ مدینہ کی ادا یاد

کے ذریعے آپ کی تعریف و توصیف فرمائی جو آپ کو عطا کئے ہیں، اور عظمتِ محبوب کا مکمل اظہار فرمانے کی وجہ سے اسے دو حرفوں سے مؤکد کر کے فرمایا اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقْتَ عَظِيْمًا۔

اس کی تفسیر میں بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کریم آپ کا اخلاق ہے جبکہ بعض نے اس کی تفسیر فطرتِ سلیمہ سے کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی منزل مقصود و مقصدِ حیات صرف معرفتِ الہی ہے واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح انعاماتِ الہیہ کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی تعریف فرمائی اور اس شکر گزاری کے سبب آپ کو دوسروں پر فضیلت دی اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ خلقِ عظیم کو آپ کی شرت بنا دیا گیا۔

پاکی ہے اس محسنِ حقیقی کے لئے جو خود ہی لطف و کرم فرماتا، احسان اور بخشش سے نوازتا، نیکی کو اپنے بندے کیلئے آسان کر کے اس کی جانب راغب کرتا ہے پھر نیکی کو اختیار کر لینے پر اپنے بندے کو بہتر جزا عطا فرماتا ہے اور تعریف کرتا ہے۔ پاک اور قابلِ حمد و ستائش ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کو اتنا عام اور فضل و کرم کو اس درجہ وسیع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایفاءِ عہد کی آپ کو تسلی دی جیسا کہ وعدہ فرمایا ہے جو انجام کار آپ کی کامیابی اور کفار کے عذاب پر مبنی ہے چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ ۱۷

عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ

لیں گے۔

یہ تین آیات ہیں جن کے متصل ہی آپ کی تعریف و توصیف کے بعد دشمنِ مصطفیٰ کی مذمت اور اس کی بد خلقی مذکور ہوئی۔ بارگاہِ رسالت کے گستاخ کے عیوب بیان کر کے باری تعالیٰ شانہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور آپ کے فضل و کمال کا اظہار فرمایا۔ اس مقام پر دس سے زیادہ بری عادتوں کے ساتھ اس گستاخ کی مذمت کی ہے۔ اس بیان کی ابتداء فلا تَطْعَمِ

۱۷ بے شک تمہاری خوبو (اخلاق، بڑی شان کی ہے) (سورہ القلم آیت ۴)

۱۸ پ، سورہ القلم، آیت ۵

الْمُكَذِّبِينَ سَہ ہوتی ہے اور انتہاءِ اساطیرِ الاولین پر، پھر اس سلسلے کو اس کی بدبختی اور بُرے خاتمے کی سچی وعید پر ختم کیا چنانچہ فرمانِ خداوندی ہے:

سَنَسِمْ عَلَى الْخُرْطُومِ قَرِيبٌ هَہ ہم اس کی سوز کی سی ٹھوٹھنی پر داغ

دیں گے۔

باری تعالیٰ شانہ کا اپنے حبیب کی مدد کرنا، آپ کی خود مدد کرنے سے اہم و اتم ہے اور اللہ رب العزت کا گستاخ رسول کی تردید فرمانا خود آپ کے رد کرنے سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس سے آپ کے فضل و کمال کے دیوان میں ایک نرالے باب کا اضافہ ہوتا ہے، جن آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کمال شفقت و مہربانی ثابت ہوتی ہے ان سے ایک آیت یہ ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:-

ظَلَمَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ اے محبوب! ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے

الْقُرْآنَ لِيَشْقَىٰ لَہ نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔

اس آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا جب فخر آدم و نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری ساری رات قیام فرماتے اور شب بیداری کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے لکھا ہے کہ نبی اکرم، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پاؤں پر قیام فرماتے اور دوسرا اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب! زمین پر پوری طرح قرار پکڑو۔ میں نے قرآن کریم کو اس لئے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔

اس ارشادِ باری تعالیٰ سے اظہر من الشمس ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں آپ کا اعزاز و اکرام کیسا ہے اور آپ کے حال پر ذاتِ باری کا کس درجہ لطف و کرم ہے۔ اگر بقول بعض لغوی

ظاہر کو اسمائے مصطفیٰ سے شمار کیا جائے تو اس سے آپ کے حق میں ایک قسم کی فضیلت اور ثبات ہوتی ہے، اسی طرح کی شفقت و مہربانی فرمانے کے باب سے یہ آیت ہے :

قَلْعَلَكَ بِاخِيعَةٍ تَنْفُسَكَ عَلَى
اَثَارِ هَحْرَانٍ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
الْحَدِيثِ اَسْفَا ۝
تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے
آپ کے پیچھے اگر وہ اس بات
پر ایمان نہ لائیں۔

بَاخِيعَةٍ سے مراد قتل کرنا اور ہلاک کر ڈالنا ہے۔ مذکورۃ الصدر قسم کی آیات سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے :-

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ
عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ اِلٰی ۝ وَلَقَدْ
نَعَلَمُ اَنَّكَ يَصْبِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا
يَسْقُوْنَه ۝ اِلٰی آخِر السُّورَةِ
تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور
مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ تا۔ اور
بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے
دل تنگ ہوتے ہو۔

(آخر سورت تک)

یہ اس قسم کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کمال شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک آیت کریمہ یہ ہے :

وَلَقَدْ اَسْتَشِرْتُ نَزِيْرًا مِّنْ قَبْلِكَ ۝
اے محبوب! تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ
میں ضرور مشیختا کیا گیا۔۔۔۔۔

امام مکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے اور مشرکین کی جانب سے پہنچی ہوئی تکالیف کا بوجھ ہلکا کیا ہے آپ کو خبر دی ہے کہ جو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آئے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جیسا اگلی امتوں کے ساتھ کیا تھا

اس قسم کی تسلی دوسری آیت میں یوں دی۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے

رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ

ہی رسول جھٹلائے گئے۔

اسی کی مانند یہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

كَذَٰلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ

یونہی جب ان۔۔۔ لگاؤں کے پاس کوئی

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

رسول تشریف لایا، بولے کہ جادوگر

قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۚ

ہے یا دیوانہ۔

اہم سابقہ کا اپنے انبیاء کے ساتھ بدکلامی کرنا اور انہیں تکالیف دینا، یا ڈالنا کہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ کفارِ مکہ کی طرح سابقہ انبیاء کی قوموں نے بھی انہیں ایسی ہی تکالیف پہنچائی تھیں لہذا تمہارا ایسے مصائب و آلام سے دوچار ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب کو خوش کرنے اور عذر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا :

فَقُولَ عَنْهُمْ مَعْرِفَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ۚ

اے محبوب! تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر

کچھ الزام نہیں۔

یعنی ان سے اعراض فرمائیجئے اور احکامات کی تبلیغ کے سلسلے میں آپ پر کسی کوتاہی کا الزام عائد نہیں ہوتا اسی کے مثل ایک آیت کریمہ اور ملاحظہ ہو :

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ

اور اے محبوب! تم اپنے رب کے حکم

بِأَعْيُنِنَا۔۔۔ ۚ

پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت

میں ہو۔

۱۷۷ پ، سورہ الذاریات، آیت ۵۲۔

۱۷۸ پ، سورہ فاطر، آیت ۴۔

۱۷۹ پ، سورہ الطور، آیت ۴۸۔

۱۸۰ پ، سورہ ابراہیم، آیت ۵۲۔

یعنی کفار کی ایذا رسانی پر اپنے رب کے حکم سے صبر کرو کیونکہ تم اس عالی منصب پر فائز ہو کہ تمہاری دیکھ بھال اور مکمل حفاظت باری تعالیٰ شانہ کے ذمے ہے۔ ایسے مفہوم و مطالب پر مشتمل کتنی ہی آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے آخری رسول کو ایذا رسانی کے حوصلہ شکن مواقع پر تسلی دی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انبیائے سابق علیہم السلام سے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منصب کی بلندی اور بلحاظ قدر و منزلت بزرگی کا متعدد مقامات پر اظہار فرمایا ہے مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اِلٰى
قَوْلِهِ تَعَالٰى مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝
اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد
لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں تا
میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

ابوالحسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس فضیلت عظمیٰ سے ممتاز فرمایا ہے دیگر انبیائے کرام کو اس سے نہیں تو ازا جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب بھی وہ کسی نبی کے پاس وحی لے کر جائے تو اس کے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے اور آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے بعد اس نبی سے عہد لے کر اگر وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ انبیائے کرام سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے ان سے اس بات کا عہد لیتے رہا کریں کہ وہ اپنے بعد والوں کو فضائل مصطفیٰ سے آگاہ کرتے اور حبیب پروردگار کے خطبے پڑھتے رہیں گے۔

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ كَرَّمَكَ عَلَيْهِ زَمَانُكَ سِرُّكَ كُنَاتُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَے

لے پارہ ۳، سورہ البقرہ، آیت ۸۱ لے اسی لیے امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

۱۔ خلق سے انبیاء، انبیاء سے رسل
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی

اہل کتاب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیائے کرام سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پائیں تو انھیں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضروران کی مدد کرنی ہوگی نیز اپنی اپنی امت سے بھی اس بات کا عہد لینا ہوگا۔ امام سدی اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسرے انبیائے کرام پر کئی وجہ سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اُن میں سے ایک وجہ یہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ (الانبیاء)
عہد لیا اور تم سے اور نوح سے
کہنا اَوْحَيْنَا اِلٰی نُوحٍ.... وَكَيْلًا (الانبیاء)
ہم نے وحی کی نوح کی طرف۔

امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران گفتگو گریہ فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں گریہ و زاری کیسی جبکہ باری تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں آپ کو ایسا مقام رفیع حاصل ہے کہ اس نے آپ کو جملہ انبیاء سے بعد میں مبعوث فرمایا لیکن آپ کا ذکر خیر سب سے پہلے نشر فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ (الانبیاء) میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی فضیلت اس درجہ ہے کہ جہنم میں عذاب پانے والے دوزخی بھی یہ خواہش کریں گے کہ انہوں نے فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی تھوتی اور یوں پکاریں گے: يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔
ہم نے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔

لے پارہ ۲۱، سورہ الاحزاب، آیت ۷۰ لے پ ۷، سورہ النسا، آیت ۱۴۳

لے اسی لیے تو امام احمد رضا خاں بریلوی نے منکیرین شان رسالت کو فہمائش کی ہے کہ:

آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اُن سے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں پیدائش میں جملہ انبیاء سے مقدم اور بعثت کے لحاظ سے سب میں آخری ہوں“ اسی لیے مذکورہ بالا آیت میں آپ کا ذکر نوح اور دیگر انبیاء علیہم السلام سے پہلے فرمایا گیا ہے۔

امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمارے آقا کی دیگر انبیائے کرام پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، اسی لیے تو آخری نبی ہونے کے باوجود آپ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا گیا یعنی یہاں تقدیم بلحاظ تفضیل ہے بلحاظ زمانہ نہیں۔ یہ عہد باری تعالیٰ شانہ نے جملہ انبیائے کرام کو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں نکال کر لیا تھا۔ افضلیت مصطفیٰ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ میں لفظ بَعْضٌ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کیونکہ گروہ انبیاء میں آپ ہی ایک ایسے فرد ہیں جو ساری بنی نوع انسان کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ غنیمت صرف آپ کے لیے حلال قرار دی گئی، آپ کے ہاتھوں بے شمار معجزات کا ظہور ہوا نیز کوئی فضیلت اور کرامت ایسی نہیں کہ جو کسی نبی کو حاصل ہو مگر وہ آپ کو ضرور مرحمت فرمائی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دیگر انبیائے کرام کے اسمائے گرامی لیے گئے لیکن اپنے محبوب کے نبوت و رسالت کے ذریعے مخاطب فرمایا، جیسا کہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنی سچی کتاب میں جا بجا یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اور یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ وغیرہ الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ مزید ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک کہ آپ ان میں تشریف فرما ہو۔

۱۔ پارہ ۳، سورہ البقرہ، آیت ۲۵۳ ۲۔ اسی لیے تو کہا ہے ۳

یا آدم است با پدر انبیاء خطاب
یا ایہا النبی خطاب محمد است

۳۔ پارہ ۹، سورہ انفال، آیت ۳۳

یعنی جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے تو اس شہر کو یہ شرف سب سے زیادہ حاصل تھا کیونکہ یہ برکت صرف آپ کے وجود کی ہے۔ جب وہ پناہ بے کساں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما گئے اور مکہ معظمہ میں تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تو اپنے محبوب کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے والوں کی تسکین کی خاطر ارحم الراحمین نے یہ مشرکہ سنایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب سے محفوظ و مامون رکھے گا جب تک وہ گناہوں سے تائب ہوتے رہیں گے۔ آپ کے عظیم الشان منصب کی یہ آیت کریمہ بھی واضح نشان دہی کر رہی ہے اسی کے مثل یہ مشرکہ جانفزا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ^۱ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سب جہانوں کے لیے۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ بدعات سے اور بعض فرماتے ہیں کہ اختلافات اور فتنوں سے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائناتِ ارضی و سماوی کی امانِ اعظم ہیں۔ وصال کے بعد آپ کے نقوشِ قدم اصلاحِ عالم کے ضامن ہیں۔ آپ کے اُسوۂ حسنہ اور سنتِ قائمہ سے روگردانی ہی مصائب اور فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا^۲ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب تبارنے والے (نبی) پر۔ اے ایمان والو! ان پر درود اور

خوب سلام بھیجو۔

اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صلوٰۃ اور فرشتوں کی صلوٰۃ کے ساتھ اپنے آخری نبی کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو آپ پر صلوٰۃ و سلام

۱۔ پارہ ۱۷، سورہ الانبیاء، آیت ۱۰۷

۲۔ پارہ ۲۲، سورہ الاحزاب، آیت ۵۶

بھیجنے کا مطلق حکم دیا ہے۔ ابوبکر بن فزک رحمۃ اللہ علیہ حکایتاً بیان کرتے ہیں کہ بعض علمائے کرام نے اس فرمان رسالت یعنی قُرَّةٌ عَلَيَّ فِي الصَّلَاةِ کی یہ تاویل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو مجھ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ کہ قیامت تک میری امت کو مجھ پر صلوٰۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ فرشتوں کی اور ہماری صلوٰۃ ایک قسم کی دعا ہے اور باری تعالیٰ شانہ کی صلوٰۃ اپنے محبوب پر خاص بارانِ رحمت کے نزول کا نام ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَطَّاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْمَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
الْمُؤْمِنِينَ

اور اگر ان پر روز باندھو تو بے شک
اللہ ان کا مددگار ہے اور حبیبِ ایل اور
نیک ایمان والے۔

یہاں مولیٰ کو ولی کے معنی میں سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ صَالِحُ
الْمُؤْمِنِينَ کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔ بعض کے نزدیک انبیائے کرام مراد ہیں، بعض کے نزدیک
ملائکہ اور بعض کے نزدیک حضرات ابوبکر و عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں۔ فرمانِ الہی ہے:

إِنَّ فَتْحَنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا... يَدُ
اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

بیشک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح
فرمادی اُن کے ہاتھوں پر اللہ کا

ہاتھ ہے۔

ان آیات نے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی صفت و ثنا بیان کی ہے اور بارگاہِ خداوندی
میں آپ کا وہ مرتبہ ظاہر کیا گیا ہے نیز ایسی نرالی نوازشات کی خبر دی ہے جن کی حقیقت کو بیان
کرنے سے زبان و قلم عاجز ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خصوصی نوازشات کا
ذکر فرمایا جو سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مخصوص فرمادیے تھے
نیز آپ کو دشمنوں پر غلبہ دینے، آپ کی شہرت کے جھنڈے بلند کرنے، آپ کی شریعتِ مطہرہ کو
دیگر شرائع پر غالب رکھنے کا تذکرہ کیا نیز یہ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے معذور ہیں

۱۔ پارہ ۲۸، سورہ تحریم، آیت ۴

۲۔ پارہ ۲۶، سورہ الفتح، آیت ۹ تا ۱۰

جن سے کسی گزشتہ اور آئندہ بات پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کے ہر قول و فعل پر مغفرت کی مہر لگانا چاہتا ہے جو وقوع پذیر ہوا یا جس کے واقع ہونے کی نوبت آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ امام مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمانے کی خاطر مغفرت کو سبب قرار دے لیا ہے پس ہر وہ شخص جس نے اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں ٹھہرایا وہ باری تعالیٰ شانہ کے اس دریائے فضل و کرم سے خوب سیراب ہوتا رہے گا۔

اس کے بعد باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا: وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (لہ) کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ انعام فرمایا کہ جن مشرکین مکہ کی گردنیں اکڑتی ہی جا رہی تھیں، ایسے تمام مشکروں کو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں میں جھکا دیا۔ بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مکہ مکرمہ اور طائف کی فتح مراد ہے جبکہ بعض یوں کہتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد دنیا میں آپ کے ذکر کو بلند کرنا اور نصرت و مغفرت سے نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا (الایہ) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن و خصائص بیان فرمائے ہیں وَتُعْزِزُوهُ وَّتُؤَيِّدُوهُ یعنی آپ کی غایت درجہ تعظیم و توقیر کرو۔ بعض مفسرین اسے وَتُعْزِزُوهُ (دونوں را) پڑھتے ہیں یعنی آپ کی سب سے زیادہ عزت کرو اور یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ یہ منصب و مرتبہ صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور یہ جو باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ وَتُسَبِّحُوهُ تو اس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجح ہے۔

حضرت ابن عطاء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان بہت سی نعمتوں کا بیان ہے جن پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو نوازا۔ فتح مبین کا شroud سنایا جو اجابت دعا کی نشانی ہے۔ مغفرت کی بشارت دی جو علامت محبت ہے۔ اتمام نعمت کی خوشخبری سنائی جس سے

لہ اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے۔ (سورہ الفتح، آیت ۲)

لہ بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا۔ (سورہ الفتح، آیت ۸)

خاص الخاص منصب کی نشان دہی ہو رہی ہے۔ ہدایت کا علمبردار بنایا جو دوستی کی نشانی ہے۔ مغفرت میں گناہوں سے پاکیزگی ہے، اتمامِ نعمت میں درجہ کاملہ تک پہنچانا اور ہدایت کے ذریعے مشاہدے کی جانب بلایا جاتا ہے۔

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتمامِ نعمت سے یہ مراد ہے کہ:

ان جعلہ حبیبہ واقسم
بخیاتہ ونسخ بہ شرائع
غیرہ وعرج بہ الی المحل
الاعلیٰ وحفظہ فی المعراج
حتی ما زاغ البصر وما
طغی وبعثہ الی الاحمر
والاسود واحل لہ ولامتہ
الغنائم وجعلہ شفیعاً
مشقاً وسید ولد آدم
وقرن ذکرہ بذكرہ و
رضا برضا احد رکنی
التوحید۔ (ص ۳۱)

اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور آپ کی حیات مبارک کی قسم کھائی اور آپ کی شریعت مطہرہ سے دیگر شرائع کو منسوخ کر دیا اور آپ کو بلند ترین مقام تک پہنچایا اور معراج میں آپ کی کمال حفاظت فرمائی یہاں تک کہ آپ نے کسی طرف آنکھ بھی نہ پھیری اور نہ آپ کی نظر حد سے بڑھی۔ آپ کو ہر سرخ و سفید یعنی جملہ بنی آدم کا نبی بنایا آپ کے لیے اور آپ کی اُمت کے لیے غنیمت کا مال حلال قرار دیا۔ آپ کو گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا اور شفاعت کا ماذون و مختار بنایا اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا آپ کو سردار بنایا اور آپ کے ذکر کو اپنے ذکر سے اور آپ کی رضا کو اپنی رضا سے ملایا اور آپ کو عقیدہ توحید کا ایک رکن قرار دیا۔

اسی علیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ

اللہ یعنی ان کا آپ سے بیعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا ہے۔ آگے فرمایا ہے: يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونے سے بعض کے نزدیک قوتِ خداوندی
 بعض کے نزدیک ثواب، بعض کے نزدیک احسان اور بعض کے نزدیک عہد مراد ہے۔ یہ استعارہ
 اور تجنیسِ کلام کے طور پر ہے۔ اس سے عقدِ بیعت کو موکد کرنا اور بیعت لینے والے کے منصب کی
 رفعت کا اظہار مقصود ہے۔ اسی قبیل سے باری تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد ہے:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۖ
 تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں
 قتل کیا اور اسے محبوب! وہ خاک جو تم
 نے پھینکی، وہ تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ
 نے پھینکی۔

اگرچہ بادی النظر میں یہ مجازی کلام معلوم ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے حقیقت پر مبنی ہے کہ فی الحقیقت
 قاتل و رامي صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کیونکہ افعالِ عباد کا خالق بھی تو وہی ہے۔ کنکریاں
 اور مٹی پھینکنا بھی تو اسی کی قدرت و مشیت کے باعث ہوا ورنہ کسی انسان میں یہ ذاتی قدرت
 و طاقت کہاں کہ کنکریوں اور مٹی کو اتنی دُور پہنچا دے یہاں تک کہ کوئی مقابلے پر آنے والا
 کافر ایسا نہ بچے جس کی آنکھیں غبار آلود نہ ہو گئی ہوں۔

اللہ جل شانہ نے اپنی کتابِ عزیز میں اپنے حبیبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 فضائل و کمالات اور منصب و خصائص کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے جس سے بارگاہِ خداوندی
 میں آپ کے قرب و منزلت کا پتہ لگتا ہے۔ جن کمالات کے ذریعے باری تعالیٰ شانہ نے اس
 فخرِ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص فرمایا ہے ان میں سے ایک واقعہ معراج

آیت ۱۰، سورہ الفتح، آیت ۱۰

آیت ۱۰، سورہ انفال، آیت ۱۰

کہ اس عقیدے میں مصنفِ تقویۃ الایمان اور ان کے متبعین نے سخت دھوکا کھایا ہے جو امکانِ کذب کے
 قائل ہو کر افعالِ عباد اور قدرتِ خداوندی کا باہم موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ (آخر شانہ بھان پوری)

واسر بھی ہے، جس کا سورہ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِسُورَةِ النَّجْمِ میں بیان فرمایا ہے۔
وہاں آپ کے مرتبے کی بلندی، قُربِ الہی اور عجیب و غریب مشاہدات کا ذکر ہے۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ارشادِ الہی ہے:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔

نیز یہ بھی فرمایا ہے:

إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا..... ۲

اے محبوب! یاد کرو جب کافر تمہارے
ساتھ مکر کرتے تھے۔

اسی سلسلے میں یہ ارشادِ باری تعالیٰ بھی ہے:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ..... ۳

اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک
اللہ نے اُن کی مدد فرمائی۔

اس مٹی پھینکنے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ شانہ نے اس امر کا اظہار
فرمایا ہے کہ اس نے آپ سے اس اذیت کو کیسے دُور فرمایا جبکہ مشرکین مکہ نے خفیہ مشورہ کر کے اپنے
دارالندوہ کے پروگرام کے مطابق ایک رات محبوب پر وردگار کے دولت خانے کا محاصرہ کر لیا تھا
تاکہ اپنی ناپاک چھوٹکوں سے مشعلِ نورِ الہی کو بجھا دیں۔ وہ جانِ جہاں جب درِ دولت سے تشریف
لے جاتے ہیں اور جب غارِ ثور میں آرام فرما ہوتے ہیں تو حفاظت کا یہ مجرا العقول منظر سامنے آتا ہے
کہ دشمن آپ کو دیکھنے سے غافل بلکہ اندھے ہو کر رہ گئے اور مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے جاتے
وقت آپ سے جن معجزات کا ظہور ہوا نیز اُس سرِ ایا ناز پر سکینہ کا نازل ہونا، ساتھ ہی سرقہ

۱۔ پ ۶، سورہ المائدہ، آیت ۶۷ ۲۔ پ ۹، سورہ الانفال، آیت ۳۰ ۳۔ پ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۱۱
۴۔ دشمنانِ مصطفیٰ کی اس کیفیت کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا ہے:

سے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یونہی خوار پھرتے ہیں

بن باک کا واقعہ پیش آنا ایسے واقعات ہیں جنہیں محدثین اور مورخ حضرات غار اور ہجرت کے واقعات میں بیان کرتے آئے ہیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ عالی کی تشہیر میں یوں بھی ارشادِ باری تعالیٰ شانہ ہوا:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَعْيَنُ ۝
اے محبوب! بے شک ہم نے تمہیں
بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے
رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر

خیر سے محروم ہے۔

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مطلع فرمایا ہے کہ انہیں کیا کچھ عطا فرمایا گیا ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے اور اس لفظ کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں۔ اپنے خاص انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد باری تعالیٰ شانہ نے دشمنِ مصطفیٰ کی نازیبا گفتگو کا جواب دیا اور اپنے حبیب کو تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ محبوب! تمہارا دشمن ہی نسلِ بریدہ ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنے والے کی نسل منقطع ہو جاتی ہے، وہ ذلت و خواری اور کس میرسی کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو کر رہتا ہے جس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں خالق کائنات جلّ جلالہ نے اپنے آخری پیغام میں مخلوق کو مقامِ مصطفیٰ سے یوں مطلع فرمایا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الثَّمَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝
اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں
دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا

قرآن۔

کہا گیا ہے کہ سب سے ثمانی سے قرآن کریم کی وہ اولین سورتیں مراد ہیں جو طویل مفصل کہلاتی ہیں اور

یہ بھی قول ہے کہ سبع مثانی سے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ اور القرآن العظیم سے باقی قرآن کریم مراد ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ
اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی
رسالت سے جو تمام لوگوں کو گھیرنے والی ہے
خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔

اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب کی تشہیر میں منعم حقیقی کا فرمان ہے:
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۚ
تم فرماؤ اے لوگو! میں تم سب کی طرف
اس اللہ کا رسول ہوں۔۔۔۔

یہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم ۚ يَعْنِي دِيكِرَ انْبِيَاءِ كَرَامٍ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
والسلام کو ان کی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا لیکن نبی آخر الزماں، امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و
التسلیم کو ساری مخلوق کی جانب مبعوث فرمایا گیا جیسا کہ آقائے نامدار، مدنی تا جدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے ہر سرخ و سیاہ یعنی ہر گورے اور ہر کالے کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے
فضیلت مصطفیٰ کی نشر و اشاعت میں یہ فرمان الہی بھی ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنفُسِهِمْ وَأَنزَوَا جَهُ أَقْرَبَهُمْ
یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ
اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں۔

اولیٰ بالمؤمنین کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
فرمان مسلمانوں میں اسی طرح نافذ العمل ہے جیسے ایک آقا کا حکم غلام پر جاری ہوتا ہے۔ بعض
مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا نفس کی
مرضی پوری کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ

۱۵۸ آیت ۹، سورہ الاعراف

۱۵۹ آیت ۶، سورہ الاحزاب

۱۶۰ آیت ۲۸، سورہ سبا

۱۶۱ آیت ۴، سورہ ابراہیم

تعالیٰ اغنیٰ کو حرمت میں ماؤں کی طرح قرار دیا گیا اور آپ کے پروردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں پر ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا کیونکہ دوسرے کا اُن سے نکاح کرنا ناموس مصطفیٰ کے منافی ہے نیز وہ آخرت میں حبیب پروردگار (جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہی کی بیویاں ہوں گی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔
فرمان الہی ہے:

وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری
اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور
اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فضل عظیم سے منصب نبوت مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ادل روز آپ کو مرحمت فرمایا گیا وہ مراد ہے۔ علامہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اپنی رؤیت کی جانب اشارہ ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تھے۔

فطری محاسن و اخلاقی کمالات

قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل و کمالات نبوی کے جواہرات لٹاتے ہوئے اپنی تصنیف لطیف کتاب الشفاء کے دوسرے باب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقی اور فطری محاسن و کمالات بیان فرمائے ہیں، جن کی تکمیل اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے فرمائی ہے کیونکہ پروردگار عالم نے تمام دینی اور دنیاوی فضائل و کمالات کو ذات مصطفویٰ سے منسوب کر دیا ہے۔
نبی اکرم، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے، جو اپنے آقا کی اجمالی قدر و منزلت کی تفصیل کے خواہاں ہیں کہ جلال و کمال کے خصائل آدمی میں دو قسم کے ہوتے ہیں: (۱) ضروری دنیاوی جس کا انسانی جبلت اور دنیوی حیات تنافضاً کرتی ہے۔ (۲) اکتسابی دینی، جس کے باعث فاعل کی تعریف کی جاتی ہے اور اسے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ اول الذکر کی مزید دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو دونوں قسم کے اوصاف میں سے ایک کے

لے پ ۵، سورہ النساء، آیت ۱۱۳

اگر خیریت دنیا و عقیل آرزو داری !
بدرگاہش پیاد ہر چہ می خواہی تمنا کن

ساتھ خاص ہو اور دوسری وہ جو دونوں میں مشترک ہو۔ ضروری محض وہ ہے جس میں انسان کے کسب و اختیار کا کوئی دخل نہ ہو۔ جیسے حبیب پروردگار کی جبلت کریمہ میں کمال خلقت اور حسن و جمال کے ساتھ قوت عقل، صحت فہم، فصاحت زبان و بیان، قوت حواس و اعضاء، اعتدال حرکات، شرافت نسب، قومی اعزاز اور وطن عزیز کا عزت و شرف وغیرہ اور آپ کی ضروریات زندگی کا شمار بھی کمالات مصطفوی میں ہوتا ہے یعنی آپ کی غذا، نیند، لباس پہننا، سکونت پذیر ہونا نکاح کرنا نیز مال اور جاہ و جلال کا ہونا۔ ان مؤخر الذکر خصائل کا تعلق آخری حیات کی بہتری سے ہو جاتا ہے جبکہ سلوک و طریقت کے طور پر ان سے تقویٰ و طہارت اور اعانتِ بدن کا قصد کیا جائے۔ ان میں ضرورت کے مطابق نہیں بڑھا جاتا بلکہ قوانین شریعت کا پورا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ وہ اکتسابی خصائل جو آخرت میں کام آتے ہیں ان کا تعلق اخلاقِ عالیہ حسنہ اور آداب شرعیہ دینیہ سے ہے اور علم، حلم، صبر، شکر، عدل و انصاف، زہد و قناعت، انکساری، عفو و درگزر، عفت، سخاوت، شجاعت، حیا، مروّت، خاموشی، محبت، وقار، مہربانی، حسنِ ادب، حسنِ معاشرت اور ان جیسے دوسرے کمالات کا پایا جانا حسنِ اخلاق کی دلیل ہے اور ان میں مہنیک اطوار بھی شامل ہیں جو بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر حاصل ہوتے اور ان کی فطرتِ ثانیہ یا جبلت معلوم ہوتے ہیں جبکہ دوسرے کے کسب کو ان کمالات کے حصول میں دخل ہوتا ہے لیکن جبلت کے خیر میں ان عادات کے بعض اصولوں کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ ان تمام اخلاق و عادات کو ہمیشہ ہر صاحب عقل و دانش نے محاسن و فضائل میں شمار کیا ہے لیکن یہ عمدہ عادتیں بھی اس وقت دنیاوی اور غیر مفید ہو کر رہ جاتی ہیں جبکہ انھیں رضاے الہی اور آخرت کی بہتری کے لیے اختیار نہ کیا گیا ہو۔

کمال و جمال کے جن خصائل و عادات کا اوپر ذکر ہوا ہے، اگر کسی بھی زلنے میں، ان سے کسی شخص کے اندر ایسی ایک یا دو خوبیاں پائی جائیں مثلاً کسی کو نسب، جمال، قوت، علم، حلم، شجاعت اور سخاوت وغیرہ میں کوئی امتیاز حاصل ہو تو ایسا شخص قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا نام مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور دلوں میں اس کی عزت و عظمت سرایت کر جاتی ہے اور مدتوں اس کا نام روشن رہتا ہے۔ اے صاحب عقل و دانش! تیرا اس

ہستی کی قدر و منزلت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے اخلاقِ کریمہ اور جبلتِ حسنیہ میں پسندیدہ عادتیں اس کثرت سے پائی جائیں کہ انہیں شمار کرنے سے عدد عاجز اور زبانیں گنگ ہو کر رہ جائیں۔ ساتھ ہی وہ کمال کے اس درجے پر ہوں کہ کسب و جیدہ کے ذریعے ان کمالات کا حصول ناممکن ہو، ہاں خدائے بزرگ و بخشندہ کی خاص کرم نوازی کا معاملہ اور ہے۔

مصطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے فضائل سے خلقت، محبوبیت، اصطفاء، اسراء، رؤیت، باری تعالیٰ، دنو، وحی، شفاعتِ گنہگاروں، وسیلہ، درجہ رفیع الشان، مقام محمود، براق، معراج، ساری کائنات کی طرف بعثت، انبیاء کے ساتھ (امام بن کر) نماز پڑھنا، انبیائے کرام اور ان کی اُمتوں کے درمیان شاہد ہونا، بنی آدم کی سرداری، لواءِ الحمد، بشارت و نذارت، مالکِ عرش و فرش کے نزدیک منصب، اطاعت، امانت، ہدایت، ہر فرد مخلوقات کے لیے رحمت، رضا کا عطیہ، سوال، حوضِ کوثر، کلامِ الہی کا سُنا، اتمامِ نعمت، اگلوں اور پھلوں کی فروگذاشتوں کی معافی، شرحِ صدر، سہولتِ قرآن، رفعِ ذکر، تائیدِ خداوندی کا اعزاز، نزولِ سکینہ، ملائکہ کی امداد، کتاب و حکمت اور سبعِ مثانی و القرآن العظیم ملنا، امت کا تزکیہ، مخلوق کو خالق کی طرف بلانا، اللہ اور فرشتوں کا صلوة بھیجنا، لوگوں کے درمیان حکمِ الہی سے حاکم و منصف ہونا، اگلی اُمتوں والی سختیوں اور تکلیفوں کو اس امت سے ہٹانا، آپ کے اسم مبارک کی قسم، اجابتِ دعا، آپ کا جہادِ ات سے کلام کرنا حالانکہ وہ زبان سے محروم ہیں، مُردوں کو زندہ کرنا، بہروں کو سُنا، انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے بہا دینا، تھوڑے طعام کو زیادہ کر دینا، چاند کو شق کرنا، سورج کو واپس لوٹانا، قلبِ اعیان، رعب کے ذریعے مدد کیے گئے، غیوب پر اطلاع، ابر کا سایہ کرنا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، رنج و الم کو دور فرمانا، آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا وغیرہ ایسے کمالات ہیں جن کا کوئی محفل

لے اسی لیے تو مرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی نے کہا ہے:۔

غالبِ ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتیم
کاں ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد امت

بھی احاطہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ باری تعالیٰ شانہ کے سوا کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کمالاتِ مصطفویٰ کا احاطہ کر سکے۔ علاوہ بریں جو اللہ رب العزت نے اگلے جہان میں شایانِ شان منازل، مقدس درجات اور سعادت و خوبی کے مراتب اس کثرت سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمائے ہیں جن کا احاطہ عقل کی حد سے باہر ہے بلکہ یہاں تو مرغاب و ہم و گمان کے بھی پر چل جاتے ہیں۔

اگر تو کہے اللہ تعالیٰ تجھے سرفراز فرمائے کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدر و منزلت اور عزت و عظمت کے لحاظ سے دایرین میں سب سے ممتاز ہیں جیسا کہ اس کے دلائل و شواہد اظہر من الشمس ہیں اور اس امر کا اجمالی بیان بڑے خوب صورت انداز میں ہو چکا اور خواہشمند ہے کہ تفصیلی بیانات پر مطلع ہو کر اپنی کشتِ ایمان کو سیراب اور گلشنِ دین کو بہاروں ہم آغوش کرے تو اے طالبِ صادق! اللہ تعالیٰ تیرے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور عشقِ مصطفیٰ کی جتنی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے اس سے بدرجہا زیادہ اور عطا فرمائے۔

جاننا چاہیے کہ حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن عالیہ ایسے ہیں جن میں کسب کو قطعاً دخل نہیں بلکہ وہ آپ کی جبلت میں پیدائشی طور پر پائے جاتے ہیں۔ آپ کی ذاتِ مقدسہ میں فطری محاسن و کمالات اس طرح جمع ہو گئے ہیں کہ کوئی کمال اس احاطے سے باہر نہیں رہا۔ بے شمار احادیث میں جو آپ کے حسن و جمال کا چرچا ہے ان کی صحت میں کلام نہیں بلکہ بعض اخبار و آثار تو صحت سے قطعیت اور وہاں سے حق الیقین کے درجے تک پہنچے

لے خاتم المحققین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ۱۰

ما یکن الشناء کا کان حقہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

۱۱ نہ نجت کی بیداری کے ایسے ہی مواقع کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ: ۱۲

باغِ عرب کا سروِ ناز، دیکھ لیا ہے ورنہ آج

قریٰ جانِ غزوه، گونج کے چھپائی کیوں

ہوئے ہیں۔ آپ کے حسنِ جمال اور تناسبِ اعضاء کے بیان میں آثارِ صحیحہ، کثیرہ، مشہورہ وارد ہیں۔ ایسی احادیث حضرت علی اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں۔ جن کا ماحصل یہ ہے کہ آپ کا رنگ اُجلا تھا، آنکھیں سیاہ، گہری اور قدرے سُرخ مائل تھیں۔ رنگ ایسا سفید تھا جو سُرخ کی جانب مائل ہو۔ آنکھوں کے بال لمبے تھے۔ دونوں حاجب جدا اور لمبائی میں اُن پر باریک بال تھے۔ ناک لمبی اور منور تھی۔ سامنے والے دانت ایک دوسرے سے جدا تھے۔ چہرہ کسی قدر گول، پیشانی کشادہ، ریش مبارک بھاری جو سینہ اقدس کو ڈھانپ لیتی تھی۔ سینہ اور شکم مبارک برابر رہتے تھے۔ صدر انور کشادہ، بڑے جوڑ موٹے، بازو، کلاہیاں اور پٹلیاں بھاری، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں موٹی اور لمبی تھیں۔ جسم پر بال بہت کم تھے۔ سینہ فیض گنجینہ سے ناف تک بالوں کی ہلکی سی دھاری تھی۔ میانہ قد یعنی نہ زیادہ لمبے نہ بہت چھوٹے۔ لیکن لمبے قد والا آدمی بھی آپ کے برابر چلتا تو اُونچے آپ ہی معلوم ہوتے۔ بال شکن دار تھے۔ جب تبسم فرماتے تو بجلی کی روشنی یا بادلوں کی چمک کی طرح ذہن مبارک کھلتا اور حیبِ کلام فرماتے تو سامنے والے اُوپر اور نیچے کے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ حسین ترین گون تھی جو زیادہ لمبی یا بہت چھوٹی نہ تھی۔ آپ زیادہ فرج نہ تھے۔ چہرہ پُر نور بالکل گول نہ تھا۔ جسم پُھرتیلا اور کم گوشت تھا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجہال والکمال)

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں کی کوتھک بال رکھنے والے کسی شخص کو سرخ لکیروں والی چادر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا خوب صورت نہیں دیکھا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے کسی کو تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا۔ آپ کی جانب دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا جیسے سورج کی شعاعیں اس چہرہ پُر نور میں تیر رہی ہیں اور تبسم فرماتے تو سامنے کے در و دیوار

اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں

اے جانِ جاں! میں جانِ تجلی کہوں تجھے

(اعلیٰ حضرت)

منور ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اُن سے ایک آدمی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی مانند تھا؛ تو آپ نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا کہ شمس و قمر جیسا نورانی اور گولائی کی جانب مائل تھا۔

حضرت امّ مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے اوصافِ عالیہ کا کیا ٹھکانا؛ اگر آپ کو دُور سے یا قریب سے دیکھتے ہر حالت میں حسین و جمیل ہی نظر آتے تھے۔ ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا حضرت علیؑ نے آپ کی مدح و ثنا کرتے ہوئے آخری وصف یہ بیان کیا کہ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا وہ ڈر جاتا اور جو ملتا جلتا رہتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ کے اوصاف بیان کرنے والا یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں ہی ایسا کوئی نظر آیا ہے۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسمِ اطہر کی نظافت، ریح اور پیستے کی خوشبو اور غلاظت سے پاکیزگی اور عوراتِ جہانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی گئیں حالانکہ آپ کی ان خصوصیات کو شرعی نظافت اور پاکیزگی والے دس فطری خصائل عطا فرمانے کے ساتھ کامل و مکمل کر دیا تھا اسی لیے تو آپ نے فرمایا ہے کہ دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر، کستوری اور کسی بھی خوشبودار چیز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریحِ اطہر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس میرے رخسار سے لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کا دستِ مکرم ٹھنڈا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی عطار کی صندوقچی سے نکالا ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کا بیان ہے کہ اگر کوئی خوشبو لگائے یا نہ لگائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

لے اسی لیے تو ہر مومن بارگاہِ رسالت میں یوں عرض گزار ہوتا ہے : ہ

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے

(اعلیٰ حضرت)

میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے

علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا تو سارا دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کرتا اور جب وہ نور مجسم کسی نیچے کے سر پر دستِ شفقت پھیرتے تو ایسا بچہ دوسرے بچوں میں سے پہچان لیا جاتا تھا۔ امام محمد بن اسمعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے اُدھر آنے جانے والوں کو آپ کی خوشبو کے باعث پتہ لگ جاتا تھا کہ آپ کا اس راستے سے گزر ہوا ہے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کا اس درجہ معطر ہونا پیدائشی اور فطری تھا کسی قسم کی خوشبو لگانے کے باعث نہ تھا۔ اسحاق بن راہویہ نے دیگر چند احادیث آپ کے پسینہ مبارک اور فضلاتِ طاہرہ کے خوشبودار ہونے کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ نیز امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کے ساتھیوں سے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشاب اور پاخانے کی طہارت نقل کی اور بطور ثبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے، جیسا کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا جیسا کہ بیت سے نجات خارج ہونے کا غالب گمان ہوتا ہے تو اُس موقع پر عینِ یقین کی خاطر مجھے اس امر کی جستجو ہوئی، تو ایسی کوئی چیز نہ پا کر بے ساختہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ زندگی میں پاک صاف تھے وصال کے بعد بھی آپ کی طہارت میں سب سے بڑا فرق نہیں آیا، ساتھ ہی آپ کے جسدِ اطہر سے ایسی خوشبو آرہی تھی کہ اُس جیسی خوشبو کبھی سونگھنی نصیب نہ ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کے جسمِ معطر کے بارے میں ایسا ہی منقول ہے جبکہ وصال کے بعد آپ کو بوسے دیئے گئے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے آپ کا خون اور کئی حضرات نے حضور کا پیشاب بھی پیا ہے لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی کو آپ نے

اے امام احمد رضا خاں بریلوی فرماتے ہیں،

اُن کی ہلک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں

جس راہ چل دیے ہیں گویا بسا دیے ہیں

کلی تک کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ آئندہ ایسا کرنے سے ہی منع فرمایا۔
وہ جانِ جہاں اس حالت میں پیدا ہوئے تھے کہ غنہ ہو چکا تھا اور پیدائشی
ناف بریدہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ بوقت پیدائش
اس شہکارِ دوستِ قدرت کے جسم پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ تھی، بالکل پاک صاف تشریف فرمائے علم
ہوئے تھے۔

حبیبِ پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وافر عقل، ذکاوت و دانشمندی، قوتِ حواسِ
مدرکہ، فصاحتِ زبان و بیان، حرکات کا اعتدال اور حُسنِ اخلاق کے بارے میں قطعاً کوئی شبہ
نہیں ہے کہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ عقلمند اور ذہین و فہیم تھے۔ اگر صاحبِ علم و دانش
آپ کی اُن تدابیر کے ظاہر و باطن میں غور کرے جو آپ نے اصلاحِ نفوس کے لیے اختیار کیں،
نفعِ عوام و خواص کی خاطر جو سیاست متعین فرمائی نیز اپنے تعجب خیز اخلاقِ حسنہ اور دنیا کو امن
امان کا گوارہ بنا دینے والی سیرتِ مقدسہ پیش فرمائی جس کے سونے پر فیضانِ علم سہاگے کا
کام کر رہا ہے اور شرعی قوانین کو جس محیر العقول و دانشمندی سے مقرر اور بیان فرمایا ہے حالانکہ ان
امور کا پڑھنے، تجربہ کرنے اور مطالعہ کتب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تو ماہرِ ناظر کو آپ کی عقل
کے زاویہ نظر اور فہم و فراست کی روشنی میں کسی قسم کا شک و شبہ پہلی نظر میں بھی لاحق نہیں ہوگا۔
مذکورہ بالا بیان ایسا تحقیق کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور مستند ہے جس کو ثابت کرنے کے لئے
کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی نہیں۔

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اکثر آسمانی کتابوں کا
مطالعہ کیا ہے اور سب میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام
انسانوں سے عقلمند اور رائے میں افضل ہیں۔ اُن کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے مذکورہ
آسمانی کتابوں میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل سے ساری
دنیا کی مجموعی عقل کو وہی نسبت ہے جو سارے عالم کے ریگھائے ذرات سے ایک ذرے
کو ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس
طرح سامنے کی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ اسی طرح پیچھے کی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی تھیں نیز آپ

تمام انسانوں سے بڑھ کر طاقتور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے وقت کے نامی گرامی پہلوان رکاز کو آپ نے ایک لمحہ میں پچھاڑ دیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تیز چلنے والا کوئی نہیں دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا گویا زمین آپ کے سامنے سے سمٹتی جا رہی ہے۔ آپ جب بالکل آرام سے چل رہے ہوتے اُس وقت بھی ہم تیز چلنے کی پوری کوشش کرتے تو ساتھ چل سکتے۔ آپ کا ہنسنا صرف تہمت تک محدود تھا۔ جب کسی کی جانب توجہ فرماتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے۔ چلتے وقت آگے کو ذرا سا جھکاؤ رکھتے۔ جیسے کسی اونچی جگہ سے اُترا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اُس خلیفہ اعظم کو زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت میں وہ امتیازی شان حاصل تھی کہ آپ کے اس اعلیٰ منصب سے کوئی سلیم الطبع بے خبر نہیں۔ کسی بلند ہمت، کم گو، فصیح البیان، ماہر علم و فن، غواصِ معانی اور تکلف سے بچنے والے سے یہ امر مخفی نہیں کہ:

ادتی جوامع الکلم وخص بیدائع	آپ کو جامع کلمات دیے گئے اور زالی
الحکم وعلم السنة العرب	حکمتوں کے ساتھ خصوصیت بخشی گئی۔
فکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	عرب کی تمام زبانیں سکھائی گئیں اسی لیے
یخاطب کل امۃ منهم بلسانہا	آپ عرب کے ہر قبیلے والوں سے اُن کی
ریحاً وریبغتها ویباریہا	بولی میں کلام فرماتے اور ان کی روزمرہ
فی منزع بلاغتها واما کلامہ	بول چال کا لحاظ رکھتے۔ ہر زبان میں گفتگو
المعتاد و فصاحتہ المعلومۃ	فرماتے ہوئے مخاطب پر بلحاظ بلاغت
وجوامع کلمہ و حکمہ	نمایاں غالب رہتے۔ آپ کی روزمرہ کی
الماثورۃ صلی اللہ علیہ وسلم	گفتگو، معروف فصاحتِ کلام،
فقد الف الناس فیہا الدواوین	جامع کلمات اور حکمت بالغہ کو خصوصیت
وجمعت فی الفاظہا ومعانیہا	سے بیان کرنے کی خاطر کتنے ہی حقیقات

الکتاب و ذکر جملہ من حکمہ و
جوامع کلمہ صلی اللہ علیہ
وسلم۔ (ص ۱۷)
نے کتابیں مرتب کی ہیں جو آپ کے الفاظ
و معانی کی خوبیوں سے مزین ہیں اور
اُن میں آپ کے تمام حکیمانہ ارشادات
و جامع کلمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

ان حضرات کو آپ کے چند جامع کلمات کا ذکر کرنے کے بعد یہی لکھنا پڑا کہ
ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں جیسا کہ ایک گروہ نے آپ کے بعض مقامات، محاضرات، خطبے، دعائیں،
مواعظ حسنہ اور معاہدے وغیرہ نقل کیے ہیں لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سرور کون و مہاں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بلند ترین منصب و مرتبہ حاصل ہے جس پر کائنات کے کسی دوسرے فرد
کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ جملہ افراد کائنات سے اس درجہ بے بقیت لے گئے ہیں کہ آپ کی
رفعت کا کسی سے اندازہ بھی نہیں لگایا جاسکتا۔

فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بارگاہ رسالت
میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم نے کسی کو آپ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ
میرے اس راستے میں کوئی چیز حائل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ خالق و مالک نے قرآن کریم کو عرب کی
اُسی زبان میں نازل فرمایا ہے جو میری زبان ہے اور جس کو باری تعالیٰ نے عَرَبِیُّ مُبِیْن قرار
دیا ہے۔ دوسرے مواقع پر اسی سلسلے میں فرمایا کہ میرا قریش سے ہونا اور قبیلہ بنی سعد میں پرورش
پانا علیحدہ بات ہے۔ نبی اکرم، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دیہاتیوں کے
ساتھ ان کی زبان میں گفتگو کرنے اور شہریوں سے ششہ الفاظ اور دل آویز و رونق افروز طریق پر
کلام فرمانا اکتسابی نہیں بلکہ تائید الہی اور وحی ربانی کی کرشمہ سازی ہے جس کے باعث کوئی بشر
آپ کے علم و عرفان کا اندازہ تک نہیں کر سکتا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی توصیف
میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیریں کلام تھے۔ گفتگو کا ہر لفظ دوسرے سے جدا
ہوتا اور بغیر ضرورت کلام نہ فرماتے۔ آپ کا ہر بیان ایسا ہوتا جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے
موتی۔ آپ کی آواز بلند اور دلکش تھی۔

فخر کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کی شرافت اور آپ کے شہرہ اور جائے پیدائش کی عظمت محتاج بیان و دلیل نہیں اور نہ اس میں کوئی اشکال و اخفا ہے کیونکہ وہ سرورِ انس و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام بنی ہاشم و قریش میں اباً و اجداد کے لحاظ سے ممتاز اور سارے عرب میں شریف النسب اور معزز ترین ہیں جیسے کہ آپ کے والدین تھے۔ آپ اہل مکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے نزدیک سب سے عظمت والا شہر ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہتر افراد میں منتقل ہوتا آیا ہوں یہاں تک اب جن میں پیدا ہوا ہوں وہ اس وقت سب سے بہتر ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اُن میں سے جو بہتر تھے ان میں رکھا۔ پھر قبائل کا انتخاب فرمایا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں پیدا کیا۔ پھر گھروں پر نظر انتخاب پڑی تو مجھے سب سے بہتر گھر میں پیدا فرمایا۔ میں ذاتی اور نسبی لحاظ سے تمام انسانوں سے بہتر ہوں۔ حضرت دائد بن اسحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسمعیل علیہ السلام کو چن لیا۔ اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کا انتخاب فرمایا۔ بنی کنانہ سے قریش کو ممتاز کیا۔ قریش سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں بلحاظ عزت و عظمت مجھے سرفہرست رکھا۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

(طبرانی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ کونین کے مختار،

۱۔ اسی مضمون کو ایک عربی شاعر نے یوں باندھا ہے، ۲۔

وَحَيْرُ قُرَيْشٍ بَنُو هَاشِمٍ	قُرَيْشٌ خَيْرٌ بَنِي آدَمَ
رَسُولُ الدُّلَى إِلَى الْعَالَمِ	وَحَيْرُ بَنِي هَاشِمٍ أَحْمَدُ
كَشَفَ الدُّجَى بِجَنَابِهِ	بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ	حَسَنَتْ بِحَيْمِهِ خِصَالِهِ

(سعدی علیہ الرحمہ)

حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے بنی آدم کو معزز کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد سے اہل عرب کو، اہل عرب سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھے پسند فرمایا۔ پس میں ہمیشہ بہترین خاندانوں سے متعلق رہا ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی اہل عرب سے محبت کرنے تو میری وجہ سے محبت کرے اور جو عرب کے کسی فرد سے نفرت کرے تو میرے ساتھ بغض رکھنے کے باعث نفرت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ:

ان قریشکان نوراً بین یدی
 اللہ تعالیٰ قبل ان یخلق آدم بالفی
 عام لیسبح ذالک النور وتسبح الملائکۃ
 بتسبیحہ فلما خلق اللہ آدم القی
 ذالک النور فی صلبہ قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہبطنی
 اللہ الی الارض فی صلب آدم و
 جعلنی فی صلب نوح وقذفنی
 فی صلب ابراہیم ثم یزل اللہ تعالیٰ
 ینقلبنی من الاصلاب الکریمۃ
 والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی
 من بین ابوی علی تقیاً علی سفاح
 قط۔ (ص ۱۹)

بیشک یہ قرشی النسل آقائے کائنات
 آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار
 سال پہلے بارگاہِ خداوندی میں بصورت نور
 موجود تھے۔ آپ کا نور باری تعالیٰ شانہ
 کی تسبیح بیان کرتا اور اس نور کے ساتھ
 ملائکہ بھی تسبیح میں مشغول رہتے تھے جب
 آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ نور ان
 کی پشت میں رکھا۔ فرمان رسالت ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلب آدم میں زمین
 پر اتارا۔ اُن سے نوح علیہ السلام اور
 اُن سے ابراہیم علیہ السلام کی جانب
 منتقل کیا۔ یہاں تک کہ نیک اصلا ب اور
 پاکیزہ ارحام سے اللہ تعالیٰ نے ایک
 دوسرے کی جانب منتقل کرتے ہوئے
 میرے والدین کریمین سے مجھے پیدا فرمایا۔
 یہ حضرات بدکاری کے سائے سے بھی
 دور رہے۔

ضروریاتِ زندگی تین قسم کی ہیں: وہ جن کی قلت بہتر ہے۔ بعض وہ جن کی کثرت پسندیدہ ہے۔

اور کئی ایک ضروریات ایسی بھی ہیں جن کے حالات مختلف رہتے ہیں۔ عادت اور شریعت کے لحاظ سے جن کی قلت کمال سمجھی جاتی ہے وہ غذا اور نیند وغیرہ ہیں۔ نبی اکرم، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے اتنا قلیل حصہ اختیار فرمایا جس سے صرف یہی معلوم ہو سکے کہ ایسے امور آپ کی سیرت مبارکہ سے خارج نہیں رہے ہیں اور یہی راستہ اختیار کرنے کا آپ نے دوسروں کو حکم دیا اور رغبت دلائی ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں متعدد احادیث پیش کر کے اپنے بیان کو مدلل فرمایا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ دوسری قسم، جس کی کثرت قابلِ تعریف اور جس کی تکمیل باعثِ فخر ہے اس سے نکاح اور وجاہت وغیرہ امور مراد ہیں کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو مکمل مرد ہونے اور صحتِ ذکوریت کی علامت ہے۔ اس کی کثرت کے باعث لوگوں کا ایک دوسرے پر فخر کرنا ایک مشہور عادت ہے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تعریف کرنا زمانہ قدیم سے مروج ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قوت کے حظِ وافر سے بہرہ ور تھے کیونکہ وہ اب مطلقاً نہ یہ کمال بھی آپ کو پوری قیاضی سے مرحمت فرمایا تھا۔ اسی لیے باری تعالیٰ شانہ نے علاوہ لونڈیوں کے آپ پر اتنی عورتیں حلال کر دیں جتنی کسی دوسرے لیے حلال نہیں فرمائیں۔ ہم تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن یارات کے تھوڑے سے وقفے میں اپنی تمام ازواجِ مطہرات کے پاس بھی تشریف فرما ہو جاتے تھے حالانکہ وہ گیارہ تھیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو تین مردوں کی قوت عطا فرمائی گئی تھی، جیسا کہ نسائی شریف میں ہے جبکہ دیگر محدثین نے چالیس آدمیوں کی طاقت نقل کی ہے۔

لے امام احمد رضا خاں بریلوی نے فرمایا ہے: ۷۷

گل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا

اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

آپ کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی نوازاواجِ مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے نیز ایک سے فارغ ہونے اور دوسری تک جانے پہلے غسل بھی فرمایا کرتے تھے اور تلقین فرمایا کرتے کہ اس صورت میں غسل کر لینا طہارت پسندی اور انتہائی پاکیزگی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بلحاظِ عادات دوسرے لوگوں پر چار وجہ سے فضیلت مرحمت فرمائی گئی ہے: (۱) سخاوت (۲) شجاعت (۳) کثرتِ جماع (۴) قوتِ بازو جہاں تک وجاہت کا تعلق ہے تو عقلاً نے اسے اوصافِ مدح میں ہی شمار کیا ہے کیونکہ وجاہت کے مطابق ہی لوگوں کی نگاہوں میں قدر و منزلت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ لہ
رودار ہو گا دنیا و آخرت میں
اور قرب والا۔

لیکن وجاہت کے راستے میں بے شمار آفات ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اگلے جہان میں نقصان کا باعث ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کی مذمت کی ہے اور اس کی ضد کو قابلِ تعریف ٹھہرایا ہے۔ شرع میں عاجزی و انکساری کی تعریف کی گئی ہے جبکہ زمین میں اگر غانی دکھانے کو مذموم قرار دیا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ شانہ نے جاہ و حشمت کی دولت سے مالا مال فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر و منزلت کا سکہ بٹھایا۔ اعلانِ نبوت سے پہلے جاہلوں تک کے دلوں میں آپ کی عظمت جاگزیں کر دی جبکہ اعلانِ نبوت کے بعد کافر آپ کی تکذیب کرتے اور اس طرح صحابہ کرام جیسے شمعِ رسالت کے عیدمِ النظر پڑانوں کو تکلیف پہنچاتے اور اس نازیبا حرکت سے آپ کو پریشان کرنا مقصود ہوتا کیونکہ جب وہ آپ کے روبرو ہوتے تو عزت کیے ہی بنتی تھی اور اگر انہیں کوئی حاجت ہوتی تو آپ بھی اسے پورا کرنے سے دریغ نہیں فرمایا کرتے تھے اور کتبِ احادیث میں ایسے متعدد واقعات مذکور ہیں۔

لہ پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت ۲۴
وہ اپنے پرانے کاغذ کھانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
(حالی)

اگر کسی نے فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال جہاں آراء پہلے دیکھا نہ ہوتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی اور رعب چھا جاتا تھا۔ چنانچہ قیلہ نے جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مارے خوف کے لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: اے غریب عورت! سکون و اطمینان کا دامن تھام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آپ کے رعب کی وجہ سے کانپنے لگا۔ بادی برحق نے فرمایا کہ ڈرتے کیوں ہو میں کوئی دنیاوی بادشاہ ہوں؟

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبوت میں آپ کو عظیم المثال قدر و منزلت اور رسالت میں انتہائی عزت و شرف والا منصب حاصل ہے۔ بایں ہمہ آپ کو جو مقام اصطفا حاصل ہے، وہ قدر و منزلت کی انتہا ہے، اس کے باعث آپ دنیا میں سب سے ممتاز اور آخرت میں بھی جملہ اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔

اسی سلسلے کی تیسری قسم کہ جس میں تعریف، افتخار اور فضیلت کی حالت مختلف رہتی ہے مثلاً مال کی کثرت ہو لیکن مالک محض اپنی ضروریات میں کھل کر خرچ کرتا ہے تو دنیا دار لوگ اُس کی تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دنیاوی لحاظ سے وہ اسے فضیلت اور برتری شمار کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص راہِ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور اُس کا مقصد صرف رضائے الہی ہو تو قیامت کی سُرخروئی بہر حال اس کا مقدر ہو کر رہے گی اور اُس کی فضیلت سب کے نزدیک مسلمہ ہے۔ اگر صاحبِ مال خرچ ہی نہ کرے تو بخل کی مذمت اور کمینگی کے شرمناک گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔

ہمارے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ کا مطالعہ کیا جائے تو آفتابِ نصف النہار کی طرح آپ کی عادات و واضح نظرائیں گی کیونکہ باوجود اس کے کہ زمین کے جملہ خزانے اور دنیا کی چابیاں باری تعالیٰ شانہ نے آپ کو مرحمت فرمادیں۔ غنائم آپ کے لیے حلال

مالک کو نہیں ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

(اعلیٰ حضرت)

کر دیے جبکہ آپ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ تھے، آپ کی حیات طیبہ میں حجاز کا علاقہ، یمن، عرب کے جزائر اور گرد و نواح میں شام و عراق وغیرہ فتح کر لیے گئے، جہاں سے آپ کے پاس خمس، جزیرہ اور صدقات آتے تھے حالانکہ کسی بادشاہ کو اس کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا، علاوہ بریں کتنے ہی بادشاہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہدایا اور تحفے بھیجے مگر آپ نے دولت کو اپنے پاس جگہ نہ دی بلکہ دوسروں میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ چاروں طرف سے دولت آتی اور قدم بوسی کرتی لیکن اس کے ذریعے آپ دوسروں کو دولت مند بناتے رہتے تھے اور مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کرتے تھے۔

فرمانِ رسالت ہے کہ اگر میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اس میں سے مجھے ایک دینار کے برابر سونا اپنے پاس رکھ کر رات گزارنا منظور نہیں ماسوائے اس کے کہ کسی کا قرض ادا کرنا ہو۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ دینار آئے جنہیں آپ نے تقسیم فرمایا لیکن کچھ بچے رہے جو اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے پاس رکھ دیے اور ان کے باعث ساری رات بے چینی سے گزاری اور اس وقت تک مطمئن نہ ہوئے جب تک صبح اٹھتے ہی انہیں تقسیم نہ فرما دیا۔ حد تو یہ ہے کہ بوقتِ وصال آپ کی زیرِ خانگی ضروریات کے باعث کسی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ گھریلو اخراجات، لباس اور مکان وغیرہ کے بارے میں اتنی مقدار پر اکتفا فرماتے تھے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو اور اس کے علاوہ کو زائد از ضرورت سمجھتے اور اس سے اعراض فرماتے تھے۔

اُس خواجہ کونین کی یہ حالت تھی کہ جو لباس میسر آ جاتا وہی پہن لیتے۔ عموماً دستار، معمولی کبل اور موٹی چادر زیب تن فرماتے۔ سونے سے مرقع ریشمی کوٹ حاضرین میں تقسیم فرما دیتے اور جو وقت پر مہو جڑ نہ ہوتا اس کا حصہ محفوظ کر دیتے کیونکہ لباس کے ذریعے فخر کرنا یا زینت چاہنا عزت و شرف کے خصائل سے نہیں ہے بلکہ یہ تو عورتوں کی عادات میں سے ہے۔ ہاں اچھا لباس وہ ہے جو صاف ستھرا اور عام طور پر پہنا جائے۔

شاندار اور وسیع مکانات اور کثرتِ خدام وغیرہ کو باعثِ فخر سمجھنا بھی غلط ہے۔ کمالِ توبہ ہے کہ ایک شخص دنیا و مافیہا کا بادشاہ ہو اس کے باوجود زہد و قناعت اختیار کرے، اپنے پاس رکھنے سے نفرت کرتا ہو اور اسی وجہ سے اپنی ضروریات میں خرچ کرنا ترک کر دے۔ یہ مال کے سلسلے میں ایسی مقدس عادت ہے جو سب کے نزدیک باعثِ فضیلت ہے اور یہ ہے وہ

خصلت حمیدہ جو سراپا افتخار ہے۔ چنانچہ مال سے اس طرح اعراض کرنا اور فانی ہونے کے باعث اس کی جانب رغبت نہ رکھنا بلکہ دوسرے جن مقامات پر اسے خرچ کر دینا چاہیے وہاں خرچ کر دینا، یہ قابلِ ستائش و لائقِ تحسین عادتِ مبارکہ انسانی کمال کی معراج ہے۔ بہر حال خصالِ مکتسبہ، اخلاقِ حمیدہ اور آدابِ شرعیہ کے لحاظ سے ایسے شخص کے صاحبِ فضل و کمال ہونے پر تمام عقلاً کا اتفاق ہے عقلاً کا اس شخص کی فضیلت پر بھی اتفاق ہے جو ان میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف ہو یا اس میں ایک سے زیادہ اوصاف پائے جائیں۔

شریعتِ مطہرہ نے ایسے تمام اشخاص کی تعریف کی ہے اور ایسی عادات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو سارے اوصافِ حسنہ سے متصف ہو اس کے لیے دائمی سعادت کا وعدہ کیا ہے اور بعض نیک عادتوں کو اجزائے نبوت ٹھہرایا ہے جنہیں حسنِ اخلاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور وہ نفس کے قوی و اوصاف میں اعتدال اور میانہ روی ہے یعنی ایسا درمیانی راستہ جس میں کسی جانب انحراف نہ ہو۔

مذکورہ بالا جملہ اوصافِ کمالیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کا حصہ ہیں۔ آپ کمال میں ان کی اثناء کو پہنچے ہوئے تھے اور غایت کے لحاظ سے اعتدال پر تھے۔ اسی لیے تو باری تعالیٰ شانہ نے خلقِ محمدی کی توصیف میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا ہے یعنی اے محبوب! خلق کے لحاظ سے بھی تم عظیم منصب پر فائز ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا خلق قرآن تھا۔ آپ کی رضا مندی اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ناراضگی کے ساتھ تھی۔ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اخلاقِ عالیہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلحاظِ خلق آپ سب سے اچھے تھے۔ جیسا کہ محققین نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاقِ حسنہ کے

لے مجدداتِ حاضرہ قدس سرہ نے اسی لیے کہا ہے : ۷

ترے خلق کو حق نے عظیم کہا، تری خلق کو رب نے جمیل کیا

کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، ترے خالقِ حُسن و ادا کی قسم

زیور سے پیدائشی طور پر مزین کیا گیا تھا اور یہ کمالات آپ کی اصل فطرت میں داخل تھے جن میں کسب کا دخل نہیں تھا اور نہ ریاضت کا۔ یہ جو والہی اور باری تعالیٰ شانہ کی زالی کرم نوازی ہے، جس سے علیٰ قدر مراتب جملہ انبیائے کرام کو نوازا گیا تھا۔ جو شخص انبیائے کرام کے بچپن سے اُن کے ادوارِ نبوت تک کی سیرتوں کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے حالات سے یہی ثابت ہوتا ہے۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون بنت وہب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق خبر دی کہ جب وہ جانِ حیات رونق آرائے گیتی ہوئے تو آپ نے زمین کی جانب ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اور سیرِ اقدس آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ فرزدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں بڑا ہوا تو دیکھا کہ بتوں اور شاعری سے مجھے پیدائشی طور پر نفرت ہے۔ میں نے کسی ایسے کام کا کبھی ارادہ تک نہیں کیا جو دورِ جاہلیت میں معمول بنے رہے تھے، ہاں دو مرتبہ ایسا ہونے لگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور میں نے پھر کبھی ان کی جانب توجہ بھی نہ فرمائی۔ ان مذکورہ دونوں مواقع پر آپ نے جملہ کے غناء اور محفلِ لہو و لعب میں کسی مصلحت کے تحت جانے کا ارادہ فرمایا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارادے کو دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے پورا نہ ہونے دیا۔

عقلِ مصطفیٰ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و تحقیقی جواہرات سے مزید جواہر ریزے پیش خدمت ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقی محمودہ اور عاداتِ جمیلہ تو شمار سے باہر ہیں لیکن ہم اُن کے اصول کا ذکر کریں گے اور اشارے تمام اوصاف کی جانب کہ دیے جائیں گے۔ یہ التزام رہے گا کہ آپ کی صفات کو میزانِ تحقیق پر تول کر پیش کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ اوصاف کے فروع کی اصل، اُن کا چشمہ اور اس سارے دائرے کا مرکزی نقطہ عقل ہے۔ اسی سے علم و معرفت کے چشمے چھوٹتے ہیں۔ اسی سے روشن خیالی،

ذہن کی تیزی، رائے کی درستی اور گمان کی صداقت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے باعث مستقبل پر نظر رکھنے، اصلاحِ نفس کے طریقے، شہوت سے مجاہدہ، حسنِ سیاست و حسنِ تدبیر، فضائل کی تحصیل اور رذائل سے اجتناب کی خوبیاں متفرع ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلحاظ علم کے ایسے منصب پر فائز تھے جہاں تک آپ کے سوا کسی بشر کی رسائی نہیں ہوئی۔ عقلِ مصطفیٰ کی جلالت و عظمت ہر اس شخص پر بخوبی واضح ہے جس نے آپ کے احوال و اخلاق کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا ہو، نیز جامع کلمات، شمائلِ حسنہ، عاداتِ مبارکہ اور ارشادات کی حکمتوں کو چشمِ بصیرت سے دیکھا ہے۔ آپ کی علمی جلالت کا اندازہ کرنے کی خاطر توریت و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کے مندرجات، حکماء کی حکمتیں، گزشتہ اُمّتوں کے حالات و واقعات، ضرب الامثال، لوگوں کی سیاسیات، شرعی احکام، پسندیدہ آداب، اچھے اطوار جو مختلف علوم و فنون کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور جنہیں علماء کرام سند ٹھہراتے اور آپ کے اشاروں کو عبارت کی طرح حجت قرار دیتے ہیں اور طب، ریاضی، وراثت و میراث اور انساب وغیرہ ایسے علوم و فنون ہیں جن میں آپ کے بے شمار معجزات ہیں حالانکہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا اور نہ گزشتہ اُمم کی کتابوں ہی کا مطالعہ کیا تھا اور نہ ان کے علماء سے مجالست رہی کیونکہ آپ تو اُمّی نبی تھے۔ مذکورہ علوم و فنون کے بارے میں آپ نے کسی سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا تھا اور آپ کے مقصد کو ظاہر فرما دیا اور آپ کو خود تعلیم دی جو آپ کے حالات کا مطالعہ کرنے سے پہلی نظر ہی میں ماننا پڑ جاتا ہے اور آپ کی نبوت کا قطعی ثبوت نظر آنے لگتا ہے۔ ہم ایسے جملہ واقعات و قضایا کو کیسے بالتفصیل بیان کریں جب کہ عقلِ انسانی ان کی متحمل نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ علوم و معارفِ مصطفیٰ کی وسعت بھی آپ کی عقل ہی کے مطابق ہے جیسا کہ مرقوم ہے:

وہ تمام علوم جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا یعنی جو ہوا اور جو کچھ ہوگا نیز اپنی قدرت کے عجائبات اور اپنی عظیم بادشاہی کا علم جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب! ہم نے تم کو سکھا دیا وہ سب کچھ	الی سائر ما اطلعہ اللہ علیہ من علم ما یكون وما کان و عجائب قدرته و عظیم ملکوتہ قال اللہ تعالیٰ وعلیک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ
--	---

علیک عظیماء حارت العقول جو تم نہ جانتے تھے اور تم پر اللہ کا فضل عظیم
فی تقدیر فضله علیہ و خیر ست ہے۔ آپ کے فضل و کمال کا اندازہ کرنے
اللسن دون وصف یحیط میں عقلیں حیران اور آپ کی توصیف کے
بذلک اوینتھی الیہ صلی میدان میں زبانیں گونگی ہیں۔ یہ چیزیں نہ
اللہ علیہ وسلم۔ (ص ۲)

پہنچ سکتی ہیں۔

علم اور قدرت کے باوجود درگزر کرنے نیز تکالیف پر صبر کرنے کی
علم، عفو، صبر باری تعالیٰ شانہ نے آپ کو تعلیم دی جیسا کہ فرمان الہی ہے:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝

اے محبوب! معاف کرنا اختیار کر و اور
بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ

پھیر لو۔

روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مہرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل
علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی تاویل کیا ہے؟ انھوں نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے دریافت
کر کے عرض کروں گا، اور چلے گئے۔ دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تم سے تعلقات منقطع کرنا چاہے اُسے ملاؤ، جو محروم رکھے اُسے بھی
عطا فرماؤ اور جو ظلم کرے اُسے بھی معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عام حکم بھی دیا:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۝

اور جو افتاد تجھ پر پڑے اُس پر

صبر کر۔

نیز توں بھی ارشاد باری تعالیٰ شانہ ہے:

۱۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعُرْسِ

تو تم صبر کرو، جیسا ہمت والے رسولوں

لہ پ ۹، سورہ الاعراف، آیت ۹۹

لہ پ ۲۱، سورہ لقمان، آیت ۱۷

مِنَ الرَّسُولِ ۝

نے صبر کیا۔

۲۔ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا ۝

اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ

درگزر کریں۔

۳۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ

اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا

لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔

سرورِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم جیسا کہ منقول ہے، وہ روزِ روشن کی طرح عیاں ہے۔ کونسا حلیم اور بُردبار ہو گا جس سے ایسے مواقع پر لغزش سرزد نہ ہوئی ہو یا کوئی نامناسب بات کہنی اُس کے منہ سے نہ نکلی ہو؟ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جھلائے زیادتی کرنے اور ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا لیکن آپ نے صبر اور بُرد باری کے دامن کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑا بلکہ خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم ملا، تو آپ نے اُن میں سے آسان ہی کو پسند فرمایا، جبکہ اُس کے کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، اگر شرعی قباحت ہوتی تو دوسروں کی نسبت آپ اُس سے زیادہ دُور رہتے تھے۔ اُس مجسمہ رحمت نے اپنی ذات کا کبھی انتقام نہ لیا، ہاں جب کوئی باری تعالیٰ شانہ کی متعین کردہ حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتا تو اُس پر حد ضرور قائم فرماتے تھے۔

روایت ہے کہ جب غزوہ اُحد کے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے والے دندانِ مبارک کسی کا تیر لگنے سے شہید ہوئے اور چہرہ زخمی ہو گیا، تو صحابہ کرام کو اس حادثے کا سخت صدمہ ہوا اور وہ بارگاہِ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ کفار کی تباہی و بربادی کے لیے دُعا فرمادیجئے۔ اُس سراپاِ رفت و جانِ رحمت نے فرمایا کہ مجھے لعنت بھیجنے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا۔

۱۔ پ ۲۶، سورہ احقاف، آیت آخری ۱۸، سورہ النور، آیت ۲۲

۲۔ پ ۲۵، سورہ النور، آیت ۲۴

بلکہ میں راہِ ہدایت کی جانب بلائے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہِ رب العزت میں عرض گزار ہوئے: اے اللہ! میری قوم کو راہِ ہدایت دکھا دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے جس عظیم الشان فضل، غایت درجہ احسان، کریم النفسی اور انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا وہ سب کے لیے دعوتِ غور و فکر ہے۔ ملاحظہ ہو فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جاں نثاروں کے جواب میں سکوت پر بھی اکتفا نہ فرمایا بلکہ زبانِ مبارک سے معافی کا اعلان فرما دیا۔ مزید برآں یہ شفقت و رحمت فرمائی کہ بارگاہِ رب العزت میں اُن کی بخشش اور ہدایت کے لیے دستِ دعا دراز فرمائے۔ ساتھ ہی اس شفقت و مہربانی کا سبب بھی بارگاہِ خداوندی میں قیومی کے لفظ سے بیان کر دیا اور قیامتہم لا یعلمون کے ذریعے اُن کی جانب سے عذر بھی پیش کر دیا۔

جب ایک آدمی نے تقسیمِ غنائم کے وقت آپ پر اعتراض کیا کہ عدل کیجئے، آپ کی تقسیم اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ نے ایسے الفاظ میں دیا، جن سے اُس کی جہالت بھی واضح ہو جائے اور نصیحت بھی فرما دی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: تجھ پر افسوس ہے، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو اور کون ہے جو عدل و انصاف کرنے لگا؟ اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو خسارے میں رہ جاؤں گا۔ بعض صحابہ کرام نے اسے قتل کرنا چاہا تو رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔

ایک غزوہ میں آپ کسی درخت کے نیچے بوقتِ دوپہر تنہا قیلولہ فرما رہے تھے کہ اچانک غورث بن حارث ارادہ قتل سے آپ کے پاس آ پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ادھر ادھر قیلولہ فرما رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ غورث نے کہا کہ میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا؟

لے دم نزع یوں جو دیدار کرنا
کہ مشکل ہو آساں مدینے کے والی
(اختر شاہ بھانپوری)

آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ: اللہ۔ اتنا سنتے ہی اُس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھالی اور فرمایا: بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ عرض گزار ہوا کہ بہتر قابو پانے والا ہی ثابت کیجئے یعنی چھوڑ دیجئے تو آپ نے درگزر کرتے ہوئے اُسے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ میں بہترین انسان کے پاس سے تمہاری طرف آیا ہوں۔

آپ کے عفو و درگزر کے بارے میں یہ واقعہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا۔ یہ بھی ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اُس عورت نے اپنے ارتکابِ جرم کا اقرار بھی کر لیا تھا، اس کے باوجود آپ نے اُسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح لبید بن اسلم نے آپ پر جادو کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس واقعے کی ساری تفصیلات سے مطلع کر دیا۔ اس کے باوجود آپ نے اُس پر عتاب نہ فرمایا اور نہ کوئی انتقامی سلوک ہی کیا۔ ایسے ہی منافقین کے سرگروہ، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں سے جو ناروا حرکتیں آپ کے حق میں صادر ہوئیں، اُن پر مواخذہ نہ فرمایا بلکہ جس شخص نے بعض منافقین کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اسے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا کہ ایسا کرنے سے دشمنوں کو یوں طعنہ زنی کا موقع مل جائے گا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہِ رسالت میں حاضر تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹی چادر تھی۔ کوئی اعرابی آیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ رگڑ سے آپ کی گردن مبارک سُرخ ہو گئی۔ اس کے بعد اعرابی کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، مجھے اُس میں سے دو اونٹ عنایت فرمائیے اور یہ اونٹ مجھے آپ اپنے مال سے یا اپنے باپ کے مال سے تو نہیں دیں گے۔ اس پر آپ خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مال تو واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں تو اُس کا بندہ ہوں۔ لیکن اسے اعرابی! کو نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اُس کا تجھ سے بدلہ لیا جائیگا اعرابی نے عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وجہ پوچھی کہ بدلہ کیوں نہ لیا جائے گا تو اعرابی نے

وضاحت کی کہ آپ بُرائی کے جواب میں کسی سے بُرا سلوک کرتے ہی نہیں۔ اتنا سُن کر ہادیؑ برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حکم صادر فرمایا کہ اسے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لا کر دے دیجیے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے محارم کا احترام ہوتا ہو۔ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اور کسی وقت، کسی شخص کو اپنے ہاتھوں نہیں مارا اور نہ میں نے یہ دیکھا کہ کسی خادم یا عورت کو مارا ہو۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا اور بتایا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اُس کے مقرر تھرانے پر آپ نے فرمایا: گھبراؤ مت، اگر تم ایسا ہی ارادہ رکھتے ہو تو مجھے ہرگز قتل نہ کر سکو گے۔

زید بن سعنے مسلمان ہونے سے پہلے بارگاہِ مصطفویٰ میں حاضر ہوا اور قرض کا مطالبہ کرنے لگا اس کے ساتھ ہی آپ کے کندھے سے کپڑا کپڑ کر زور سے کھینچنے اور سخت کلامی کرنے لگا۔ اُس نے کہا: اے بنی عبد المطلب! تم قرض ادا کرنے میں بہت سست ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے ڈانٹا اور سخت الفاظ میں جواب دینا شروع کر دیا تو اس معکم کا سنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم ریز لہجے میں فرمایا: اے عمر! اس انتقامی گفتگو کی نسبت ہمیں نصیحت کی زیادہ ضرورت تھی آپ مجھ سے جلدی قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور ایسے نصیحت کرتے کہ قرض کا مطالبہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے زید بن سعنے سے کہا کہ ادائیگی کی مقررہ میعاد میں تو ابھی تین دن باقی ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دیجئے اور اسے خوف زدہ کرنے کے عوض بیس صاع زیادہ دیجیے۔ یہی واقعہ زید بن سعنے کے مسلمان ہونے کا سبب بنا وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے نبوت کی تمام نشانیاں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں

لے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میرے کریم سے گزرتا ہے کسی نے مانگا دیا بہا دیے ہیں، دُور جے بہا دیے ہیں

دیکھیں اور پہچان لی تھیں۔ صرف دو امور باقی رہ گئے تھے جن کی مجھے خبر نہ تھی۔ ایک یہ کہ آپ کے حوصلے اور ہر دہائی کو جہل پر سبقت ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرنا آپ کے صبر و تحمل کو زیادہ ہی کرتا ہے۔ جب میں نے اس طرح امتحان لیا تو آپ کو ویسا ہی پایا جیسے کہ مجھے خبر دی گئی تھی۔

سزور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم، صبر اور عفو کا بیان طاقت سے باہر ہے صحاح اور دیگر کتب احادیث سے بطریق تواتر ثابت ہونے کے باعث یہ امر یقین کا درجہ رکھتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش نے آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی لیکن آپ نے اُن کے حوصلہ شکن تکالیف کے مقابلے میں صبر ہی سے کام لیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مقابلے میں آپ کو فتح و ظفر سے نوازا اور وہ آپ کے زیر فرمان آگئے حالانکہ وہ اپنی قوت و شوکت اور چہل پہل کی بربادی کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ کامیاب ہونے پر آپ نے بانیانِ ظلم و ستم کے ساتھ عفو و درگزر ہی سے کام لیا اور انھیں مخاطب کیا کہ آیاتم بتا سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اب کیسا سلوک کروں گا؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے کیونکہ آپ ایک شریف بھائی اور شرفاء کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنعیم سے اتنی آدمی آئے تاکہ صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ وہ سارے گرفتار کر کے بارگاہِ رسالت میں پیش کر دیے گئے تو آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ اُس موقع پر باری تعالیٰ شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ
عَنْكُمْ
وہی (اللہ) ہے جس نے ان کے ہاتھ
تم سے روک دیے۔

وہ ابوسفیان جو بارہا لشکرِ جرار لے کر آپ پر حملہ آور ہوتا رہا، آپ کے محترم چچا (ابیر حمزہ) اور کتنے ہی

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا، شہادت کے بعد بعض حضرات کے چلے تک بگاڑ دیے، لیکن جب فتح مکہ کے وقت اُسے بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے معاف فرما دیا اور اُس کے ساتھ بڑی نرمی سے شفقت آمیز گفتگو کی اور اُسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے ابوسفیان! کیا تجھ پر ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ابوسفیان نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بڑے حلیم و کریم اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاذ و نادر ہی کبھی غصے میں آتے تھے اور جب ایسا اتفاق ہوتا تو جلد ہی عاضی ہو جاتے تھے۔

اخلاقِ کریمہ کے لحاظ سے دیکھا جاتے تو آپ جیسا دوسرا نظر نہیں آتا۔ جس نے بھی جو د و کرم آپ کو جانا اور پہچانا وہی آپ کا مدح خواں ہو کر رہ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال کیا گیا، آپ نے کبھی اُس کا جواب نفی میں نہیں دیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں تو آپ بہت ہی خیرات کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو آپ کو چلنے والی ہو اسے زیادہ سخی دیکھتے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اُس وقت اتنی بکریاں تھیں جن سے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی، آپ نے اُسے وہ ساری بکریاں عطا فرمادیں۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو اہل قبیلہ سے کہنے لگا: بھائیو! مسلمان ہو جاؤ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ مال کے ختم ہو جانے کا ذرا سا اندیشہ بھی دل میں نہیں لاتے۔

لے مجددائے حاضرہ قدس سرؤ نے اسی لیے تو اعلان کیا تھا، سہ

مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے

سرکار میں نہ لاسے نہ حاجت اگر کی ہے

کتنے ہی مواقع پر آپ نے سو سو اونٹ تک عطا فرما دیے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ سو اونٹ مرحمت فرمائے، اتنے ہی دوسری دفعہ اور اتنے ہی تیسری مرتبہ۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی سخاوت کا یہی عالم تھا۔

قبیلہ ہوازن کو آپ نے ان کے چھ ہزار جنگی قیدی واپس فرما دیے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سونا مرحمت فرما دیا جسے وہ اٹھا بھی نہ سکے۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ نو ہزار درہم لائے گئے تو آپ نے انہیں چٹائی پر رکھوایا اور تقسیم فرمانے لگے۔ جو بھی مانگنے والا آتا آپ اُسے عنایت فرماتے جاتے اور آخر تک کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تقسیم کے بعد ایک شخص نے اگر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تم ہمارے نام پر مطلوبہ چیزیں خرید لو، جب کسی جانب سے مال آئے گا تو ادائیگی ہم کر دیں گے۔ اُس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! جس کام کی آپ میں طاقت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم تو نہیں ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مشورہ پسند فرمایا۔ کوئی دوسرے صحابی، جو گروہ انصار سے تعلق رکھتے تھے، بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ راہ خدا میں سخاوت فرماتے رہیے اور یہ خطرہ بھی دل میں نہ لائیے کہ عرش کا مالک کبھی مال کی قلت سے آپ کو دوچار کر دے گا۔ سرور کوٹن و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر تبسم فرمایا اور بشارت کے آثار آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔

معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ انھوں نے ایک

طباق ترکجوریں اور کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بارگاہ رسالت میں پیش کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انھیں تھیلی کے بھراؤ کے برابر سونا مرحمت فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی آنے والی کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کسی چیز کا سوال کیا آپ نے کسی سے آدھا دستی قرض لے کر اسے مرحمت فرما دیا۔ جب وہی آدمی قرض

ادا کرنے کی نیت سے حاضر بارگاہ ہوا تو آپ نے پورا دستِ اسے مزید دے کر فرمایا کہ اُدھاتو قرص کے بدلے میں ہے اور باقی نصف العام۔ خزینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دو کرم میں بے شمار روایات ہیں۔

شجاعت و دلیری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجاعت و دلیری میں جو شہرہ آفاق مقام ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ آپ انتہائی خطرناک مقامات پر بھی بے دھڑک تشریف لے جاتے اور متعدد نامی گرامی پہلوان آپ سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے جبکہ آپ ثابت قدم رہتے بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور پیچھے کبھی نہ ہٹے۔ کوئی ایسا بہادر دیکھا نہ گیا جس نے آپ کے مقابلے پر اگر شکست نہ کھائی ہو۔ حالانکہ آپ نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حنین کی لڑائی میں تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ انھوں نے جواب دیا ہاں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کے خچر پر سوار دیکھا، جن کی باگ ابو سفیان بن حارث نے تھام رکھی تھی، آپ اس وقت میدان جنگ میں بار بار یہ فرما رہے تھے: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ (میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں)۔ دوسرے راوی نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ آپ اس وقت یہ بھی فرما رہے تھے: أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں)۔ ان دنوں ہم نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ دلیر نہیں دیکھا۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں اور کافروں کے مابین لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سواری کو ایڑہ لگا کر کفار کی جانب بڑھا رہے تھے۔ میں سواری کی نگام پکڑ کر روک رہا تھا مباہراتیزی سے زیادہ آگے نہ نکل جائے۔ ابو سفیان بن حارث رکاب کو پکڑے ہوئے تھے۔ آپ برابر آگے بڑھتے اور مسلمانوں کو جوش دلانے کی خاطر بار بار اللہ کا رتے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غصے کا اظہار فرماتے تو صرف حقوق اللہ کے مسئلے میں اور اپنے کسی ذاتی معاملے کی بنا پر تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور سخی نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان شدت اختیار کرتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ لیا کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر تمام مجاہدین کی نسبت آپ دنوں کے زیادہ نزدیک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ہم آپ کی پناہ میں تھے حالانکہ آپ کفار کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے۔ اُس روز آپ نے سارے مجاہدین سے بڑھ کر جنگ آزمائی کی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب لشکر کفار عین سر پر آپ پہنچا اُس وقت جو مجاہد آپ کے قریب ہوتا اُسے بہادر شمار کیا جاتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین، سب سے بہادر اور سب سے سخی تھے۔ ایک روز اہل مدینہ بہت گھبراٹے کیونکہ شہر سے باہر ایک ہولناک آواز سنی گئی تھی۔ کتنے ہی حضرات اس آواز کی جانب بھاگے دوڑے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں واپس آتے ہوئے بلے۔ آپ گلے میں تلوار لٹکا کر اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر حالات کا جائزہ لینے سب سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔

حضرات عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لشکر کفار جب نزدیک آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر حملہ آور ہوتے تھے۔ جنگِ اُحد میں ابی بن خنیف نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا: محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کہاں ہیں؟ اگر آج وہ بچ کر نکل گئے تو میری خیر نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اس سے پہلے وہ جنگ بدر میں قید ہوا اور ندیہ لے کر اُسے بھی چھوڑ دیا گیا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے لڑائی کے لیے ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے، جسے ہر روز چار سیر دانہ کھلاتا ہوں، اُسی پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تجھے میں قتل کروں گا۔ اُحد کی جنگ میں ابی بن خنیف اُسی گھوڑے پر سوار تھا۔ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ پر سخت حملہ کیا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اُس کے بلے پر آ گئے، لیکن آپ نے انہیں درمیان سے ہٹ جانے کا حکم دیا اور حارث بن صمد کا

نیزہ لے کر پہلے اُسے خوب حرکت دی۔ جب صحابہ کرام درمیان سے ہٹ گئے تو آپ اُبی بن خلف کے مقابلے پر معرکہ آراء ہو گئے اور اُس کی گردن پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ بعض روایات میں ہے کہ اُس کی پسلی توڑ دی۔ جب وہ لشکرِ کفار میں واپس پہنچا تو کہنے لگا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ کافر اُسے تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہیں کون سا کاری زخم آگیا ہے؟ اُبی بن خلف نے کہا کہ اگر تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا جو میرے ساتھ ہوا ہے تو وہ سب کو قتل کر دیتے۔ کیا انھوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ خدا کی قسم، اگر وہ کسی پر تھوک بھی دیں تو ہلاک کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی جانب لوٹتے وقت وہ سرف کے مقام پر دم توڑ گیا تھا۔

حیا اور چشم پوشی سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صاحبِ حیا تھے اور عورتوں سے بھی زیادہ چشم پوشی سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ
فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ (الاحزاب، ۵۳)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرم و حجاب میں کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر تھے۔ جب آپ کسی بات کو ناپسند فرماتے تو ہم چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے۔ آپ لطیف اور نرم و نازک لبثہ والے تھے۔ اگر کوئی کراہت والی بات دیکھتے تو حیا اور کریم النفسی کے باعث اُس سے اس سلسلے میں گفتگو نہ فرماتے۔ جب کسی کی ناگوار گفتگو آپ تک پہنچتی تو آپ یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ جو یہ کچھ کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے جبکہ وہ ایسا کرتے یا کہتے ہیں گویا اُس ناپسندیدہ فعل سے منع فرما دیتے اور فاعل کا نام تک ظاہر نہ کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص آیا، جس کے جسم پر زرد نشان لگا ہوا تھا۔ آپ نے اُس سے کچھ نہ کہا، کیونکہ کسی کی ناپسندیدہ بات دیکھ کر آپ اسے مخاطب نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اُس سے کہہ دینا، اُس رنگ کو اپنے جسم یا کپڑوں سے دھو ڈالے۔ صحیح حدیث میں ہے: ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، نہ تکلف فرماتے، نہ بازاروں میں چلاتے اور نہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دیتے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر سے کام لیتے۔ تورات شریف میں بھی آپ کے یہ اوصاف مذکور ہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے کہ حیا کے باعث آپ کسی کی جانب ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے تھے۔ جس سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے اور اُس سے کسی خاص وجہ سے کلام کرنا ضروری ہو جاتا تو اشاروں کنایوں میں گفتگو کرتے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا۔

حسن معاشرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرت میں جو اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا اُس کے متعلق بے شمار احادیث صحیحہ منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثناء میں فرمایا ہے کہ آپ سب لوگوں سے بڑھ کر وسیع القلب، گفتگو میں سچے، نرم طبیعت والے اور ذرہ نواز تھے۔ ابو داؤد نے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا اور آخر میں فرمایا کہ جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو والد ماجد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری پر کپڑا ڈالا اور آپ کے نزدیک لے آئے۔ جب آپ سوار ہو گئے تو والدِ محترم نے فرمایا: اے قیس! تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے بھی سوار ہونے کے لیے فرمایا۔ میں نے اذراہ ادب انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا واپس ہو جاؤ۔ مجبوراً میں واپس لوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے نفرت نہ کرتے بلکہ تالیفِ قلوب

فرمایا کرتے تھے۔ ہر قوم کے معزز افراد کا اکرام فرماتے اور ایسے ہی اشخاص کو ان پر حاکم مقرر کرتے، لوگوں کو خوفِ خدا سے ڈراتے، عام لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرتے لیکن کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آتے۔ اپنے اصحاب کے ہاں بھی تشریف لے جاتے۔ ہر شریکِ مجلس کو اُس کی شان کے مطابق حق دیتے۔ شمعِ رسالت کا ہر پروانہ یہی گمان کرتا تھا کہ خصوصی نظرِ کرم میری ہی جانب ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے پاس بٹھاتے یا کوئی شخص اپنی حاجت لے کر آتا تو آپ اُس وقت تک وہیں ٹھہرے رہتے جب تک وہ شخص خود اجازت حاصل نہ کرتا۔ اگر کوئی حاجت پیش کرتا تو اُسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ کچھ بھی میسر نہ آتا تو دل نواز سخن سے مالا مال فرما دیتے۔ آپ تمام لوگوں سے وسیع القلب اور وسیع الاخلاق تھے۔ آپ سب کے لیے بمنزلہ باپ کے تھے اور سب کے حقوق آپ کی نظر میں یکساں تھے۔ اسی لیے ابنِ ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی توصیف کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پھول کی مانند کھلے رہتے، خوش اخلاق اور نرم خو تھے۔ آپ بد اخلاق، سنگدل، بازاروں میں آواز بلند کرنے والے، گالی گلوچ سے کام لینے والے، دوسروں میں کڑے بھگانے والے، اور چاپلوس وغیرہ ہرگز نہیں تھے۔ جس چیز کی ضرورت نہ ہوتی اس کی جانب توجہ نہ فرماتے۔ کوئی طلبگار اس بارگاہِ بیکیناہ سے مایوس نہ کوٹتا۔ ارشادِ خداوندی ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
(الایہ)

تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوبِ اتم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔

دوسرے مقام پر اسی سلسلے میں ارشادِ باری تعالیٰ یوں ہے:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيلَةِ

سب سے اچھی بھلائی سے

برائی کو دفع کرو۔

اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو ضرور قبول فرماتے۔ ہدیہ اگرچہ کتنا ہی ہلکا کیوں نہ ہوتا،

قبول فرمالتے اور اُس کا بدلہ دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن مجھے آپ نے کبھی اُٹ تک نہ کہا۔ جب میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؛ اور اگر میں نے کوئی کام نہ کیا تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہ کیا؛ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں تھا۔ جب بھی آپ کے صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی نے آپ کو بلایا تو فوراً تشریف لے جاتے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی مجھے آپ نے اپنے پاس آنے سے منع نہیں فرمایا اور جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو بتسم فرماتے ہی دیکھا۔ فخر و وعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی دلنوازی فرماتے، اُن سے خذہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرتے، اُن کے بچوں کی دلجوئی کرتے اور انھیں گود میں اٹھالیا کرتے تھے۔ ہر آزاد، غلام، لونڈی اور مسکین کی دعوت قبول فرمالتے۔ مدینہ منورہ کے کسی گوشے میں بھی کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی عیادت کرتے اور عذر خواہ کا عذر قبول فرمایا کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے گوش مبارک سے بات کرنے کی خاطر منہ لگاتا تو آپ سر کو ہرگز پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص خود ہٹ جاتا۔ جب بھی کسی نے آپ کے دست مبارک کو کپڑا تو آپ نے کبھی اپنا ہاتھ نہ چھڑایا جب تک وہ خود نہ چھوڑتا۔ صحابہ کرام سے مصافحہ کرنے میں پہل کرتے۔ جب بھی کوئی شخص ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے پہلے سلام کرتے۔ اپنے اصحاب کے درمیان کبھی اس طرح پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے جس سے دوسرے کو تنگی ہو۔ جو شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کی عزت کرتے۔ بعض اوقات کپڑا پھیلا دیتے اور اپنا تکیہ عنایت فرما دیتے۔ اگر کوئی صحابی انکار کرتا تو آپ اصرار کر کے بٹھاتے اور قسم تک دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ پیارے پیارے ناموں سے پکارتے، کسی کی بات کو نہ ٹوکتے۔ اگر کوئی کلام میں تجاویز کرتا تو اسے روک دیتے یا خود اٹھ کر چلے جاتے۔ دوسری روایت میں متنبہ کرنے یا اٹھ جانے کا ذکر ہے۔ روایت ہے کہ کوئی شخص کسی حاجت کے پیش نظر آپ کے پاس کر بیٹھ جاتا اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تو نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ اُس کی

ضرورت معلوم کر کے پہلے اُسے فارغ کرتے پھر نماز میں مشغول ہوتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
 نزولِ قرآن، وعظ اور خطبہ کے علاوہ آپ ﷺ اور ہشاش بشاش نظر آتے۔
 حضرت عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کا جو کرا اور کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ:

کان خدام المدینۃ یأتون النبی	جب آپ صبح کی نماز پڑھتے تو مدینہ منورہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی	خدام اور بچے اپنے اپنے برتن لے کر حاضر
الغداۃ بانیتهم فیہا الماء فعمما	ہو جاتے، جن میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا۔
یا تونہ بانیتہ الا غمس یدہ فیہا	جو پانی کے برتن وہ لاتے اُن میں آپ
وسربہا کان ذالک فی الغداۃ	دست مبارک ڈبوئے جاتے حالانکہ بعض
الباردة یریدون التبرک۔ (ص ۲)	اوقات سخت سردی بھی ہوتی۔ اس طرح
	وہ برکت حاصل کرتے تھے۔

اس بارے میں خود باری تعالیٰ شانہ نے یوں آپ کی مخلوق خدا پر شفقت و رحمت تعریف بیان فرمائی ہے،

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ	جی پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے
عَنكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ	تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ	اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے مخصوص فضائل سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام آپ کو عطا فرمائے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں پر رؤف و رحیم ہے۔ اُمت پر آپ کس درجہ مہربان تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جاسکتا ہے کہ جب قریش نے

آپ کی تکذیب کی اور پیغام الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو جبرئیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو سن لیا ہے جو قوم کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ پروردگار عالم نے پہاڑوں کے نگران فرشتے کو بھیجا ہے، جو بھی آپ حکم فرمائیں گے، یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ عکب جبال نے بارگاہ سبکیں پناہ میں سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور! اگر آپ فرمائیں تو تعمیل ارشاد میں تہہ مکرر کے پہاڑ کو اٹھا کر کافران قریش پر رکھ دوں۔ یہ سماعت فرما کر اس مجسمہ رحمت نے صفحہ تاریخ عالم پر یہ عظیم الشان فیصلہ ثبت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو خدا کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور صرف ایک خدا ہے بزرگ و برتر کی عبادت کریں گے۔ میں اس بارے میں پُر امید ہوں۔

ابن مکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت روح الامین علیہ السلام نے بارگاہ مصطفویٰ میں عرض پیش کی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو حکم فرما دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی اُمت کے بارے میں دُور رس نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق مرحمت فرمادے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دُور میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم ملا تو آپ آسان ہی کو اختیار فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پریشان خاطر ہونے کے خوف سے گاہے بگاہے ہماری دلجوئی فرماتے رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز میں ایسے اونٹ پر سوار ہو گئی جس میں شدت تھی۔ میں نے اُسے ادھر ادھر دوڑانا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔

ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ سے روایت کی۔
وفا، ایفائے عہد، صلہ رحمی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

۱۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا
 ۲۔ اندیش کے دل میں گھر کرنے والا (حالی)

اعلانِ نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ خرید و فروخت کی تھی۔ آپ کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی لے کر حاضر ہوتا ہوں، آپ اسی جگہ تشریف رکھیں۔ میں اس وعدے کو بھول گیا اور تین روز کے بعد مجھے یاد آیا تو مال لے کر آپ کی جانب چل پڑا۔ دیکھا کہ آپ اُسی جگہ انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے نوجوان! تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں تین روز سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہریرہ پیش کیا جاتا تو فرماتے: اے قلاں عورت کے گھر پہنچا دو کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی ہے اور اُن سے محبت کیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنا غبطہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیا کرتی اتنا کسی دوسری عورت پر نہیں کیا کیونکہ میں سُنتی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اُن کا تذکرہ فرماتے۔ آپ بکری فوج کرتے تو اُن کی سہیلیوں کے لیے ہریرہ بھیجتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ نے ایک دفعہ دروازے پر اجازت طلب کی تو آپ اُن کی آواز سُن کر بچہ خوش ہوئے اور اُن کی جانب پکے۔ اسی طرح ایک عورت آپ کے پاس آئی تو بڑے احسن طریقے سے اُس کا حال دریافت فرمایا اور جب وہ چلی گئی تو فرمایا: یہ خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی اور حُسنِ عہدِ ایمان کی نشانی ہے۔

بعض حضرات نے آپ کے اوصاف میں بیان کیا ہے کہ آپ ذی رحم میں صلہ رحمی فرماتے لیکن اُن میں افضلیت کا لحاظ ضرور کرتے تھے۔ آپ نے اپنی نواسی امالہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھا کر نماز پڑھی۔ جب آپ مسجد سے میں جاتے تو اُنھیں زین پر اُتار دیتے اور جب قیام کرتے تو پھر اٹھا لیتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شجاشی (شاہِ حبشہ) کا وفد آیا تو آپ نے اُن کی خود خاطر داری فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! خدمت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تاجدارِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں ہمارے ساتھیوں کی دل کھول کر خاطر و مدارات کی تھی، میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔

قبیلہ ہوازن کے قیدیوں میں آپ کی رضاعی ہمشیرہ شیماء بھی تھیں۔ آپ نے

انہیں پہچان لیا اور اُن کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہتی ہو تو بڑے اعزاز و اکرام سے رکھا جائے گا اور اگر واپس جانا چاہو تو مع اپنے ساز و سامان واپس جاسکتی ہو۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس جانا پسند کیا تو آپ نے کافی سامان دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ جب قریب ہوئی تو آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا: یہ عورت کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ ہے۔

عمر بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک روز تشریف فرما تھے کہ آپ کا رضاعی باپ آگیا، تو آپ نے اُن کے لیے کپڑا بچھا دیا، جس پر وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد رضاعی والدہ آگئیں، اُن کے لیے کپڑے کا دوسرا حصہ پھیلا دیا، جس پر وہ بیٹھ گئیں۔ ان کے بعد آپ کا رضاعی بھائی آگیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضاعی والدہ توہبہ کے لیے کپڑے بھیجا کرتے تھے، جنہیں ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو آپ نے اُن کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ اُن کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، عاجزوں سے بوجھ دور ہٹاتے، غرباء کو مال مرحمت فرماتے، مہمان نوازی کرتے اور حقوق اللہ میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ درقبن نوفل نے بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہی اوصاف بیان کیے تھے جن کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اظہار فرمایا ہے۔

تواضع اور انکساری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع تھے۔ اس بارے میں طالب حقیقت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ نبی بادشاہ ہونا چاہتے ہیں یا نبی عبد۔ آپ نے نبی عبد بننے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس

تواضع کے باعث یہ مقرر فرمایا ہے کہ قیامت میں جملہ بنی آدم کے سردار آپ ہوں گے، سب سے پہلے آپ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور سب سے پہلے آپ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔

ابوداؤد نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصائے مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم تعظیم بجالانے کی خاطر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا: عجیبوں کی طرح مت کھڑے ہوا کرو جو آپس میں ایک دوسرے کی غایت درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جیسے دوسرے بندے کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں اور جس طرح دوسرے بیٹھتے ہیں ویسے ہی میں بیٹھتا ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گدھے کی سواری بھی فرمایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ سواری پر دوسرے کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ مساکین کی تیمارداری کرتے اور غریبوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ غلاموں کی دعوت بھی قبول فرمالیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اکثر مجالست رکھتے اور مجلس میں اُن کے درمیان جہاں جگہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں بیٹھ جاتے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری تعریف میں اس قدر مبالغہ نہ کرنا جتنا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا تھا (یعنی اُنھیں خدایا خدا کا بیٹا کہنے لگے) میں تو خدا کا بندہ ہوں۔ میرے متعلق یہی کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کم عقل عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا: اے فلاں کی والدہ! بیٹھ جاؤ، مدینہ منورہ میں جہاں بھی آپ کا کام ہوگا، پورا کروں گا (ان شاء اللہ تعالیٰ)۔ جب تک اُس عورت کی حاجت پوری نہ ہوگئی اُس وقت تک بیٹھی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اُس وقت تک وہیں تشریف فرما رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عند ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گدھے پر بھی سواری فرمایا کرتے تھے اور غلاموں تک کی دعوت قبول کرنے میں تامل نہیں ہوتا تھا۔ جس روز بنی قریظہ قتل ہوئے اُس روز آپ ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس پر کھجور کی رستیوں کا پالان تھا۔ اگر جو کی روٹی یا رنگ بدلی ہوئی چربی سے چکایا ہو کھانا کھانے کے لیے بھی آپ کو بلایا جاتا تو انکار نہ کرتے۔

اُن سے ہی روایت ہے کہ حج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کچاوس پر جلوہ افروز تھے جس کے اوپر معمولی سی چادر تھی، جس کی قیمت صرف چار درہم تھی۔ اُس موقع پر آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار! یہ فریضہ حج ریاکاری سے قطعاً خالی رہے۔ اس موقع پر بہت فتوحات ہوئیں۔ ایک سو اونٹوں کا ہدیہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔

جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو تواضع سے سواری پر اپنا سر اقدس اتنا جھکایا ہوا تھا کہ گھٹنوں سے لگتا تھا۔ آپ کی تواضع کا حال تو یہ ہے کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور انبیاء کرام میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو اور مجھے موسیٰ علیہ السلام سے نہ بڑھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہم شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ جتنی تکالیف یوسف علیہ السلام کو زنداں میں اٹھانی پڑیں اگر میں اُن سے دو چار ہوتا تو داعی اجل کو لبیک کہہ جاتا۔ ایک شخص نے مخاطبے کے وقت آپ کو یا خیر النبیۃ (اے ساری مخلوق سے بہتر) کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے مصداق ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

یہ تمام ارشادات تواضع کے طور پر فرمائے ہیں ورنہ یہ یقینی بات ہے کہ آپ جملہ انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، امام حسن، ابو سعید اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی روایات میں آپ کی افضلیت مذکور ہے۔

بعض حضرات کے ارشادات میں آپ کی تواضع کا مزید بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھریلو کاموں میں بھی مشغول ہو جاتے، اپنے کپڑے کی اصلاح کر لیتے، بکری دوہتے، کپڑے کو پیوند لگا لیتے، نعلین مبارک کی سلائی کر لیتے، اپنا ذاتی کام خود کرتے، گھر کا انتظام کرتے، اونٹ کو خود باندھتے، اونٹنی کے آگے چارہ ڈال دیتے،

نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے بلکہ اُس کے ساتھ آٹا گوندھ لیتے اور بازار سے اپنا سودا سلف خود اٹھا کر لے آتے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے اگر کوئی آپ سے اعانت و مدد کی طلبگار ہوتی تو آپ اُس کی اعانت فرماتے، جہاں وہ لے جانا چاہتی وہاں تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ اُس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ ایک شخص حاضر بارگاہ رسالت ہوا تو آپ کی ہیبت سے اُس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں تو ایک قرشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بازار گیا، آپ نے شلوار کے لیے کپڑا خریدا۔ رقم گننے والے سے فرمایا کہ قیمت ادا کر دو بلکہ کچھ زیادہ دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور اُس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ دکاندار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ کرم کو بوسہ دینے کے لیے لپکا تو آپ نے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو اہل عجم کا وطیرہ ہے۔ وہی اپنے بادشاہوں کی ایسی تعظیم کرتے ہیں۔ میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں بلکہ میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کپڑا اٹھالیا۔ میں اٹھانے کے لیے بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ مالک اپنی چیز کو اٹھانے کا زیادہ حق دار ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عدل، امانت، عفت، صداقت لوگوں سے بڑھ کر امین اور قول کے سچے تھے۔

آپ کے مخالفین و اعداء کو بھی اس امر کا اعتراف تھا چنانچہ وہ اعلانِ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ ابو اسحق کا قول ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاقِ صالحہ کا مجموعہ بنایا تھا، بایں وجہ آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفسرین نے مَطَاعِ ثَمَّ امین سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات مراد لی ہے۔

لے پ ۳۰، سورہ التکویر، آیت ۲۱۔ (ترجمہ) اُس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ امانت دار ہے۔

تعمیر کعبہ کے وقت جب قریش میں اختلاف رونما ہوا۔ وجہ اختلاف یہ تھی کہ حجرِ اسود کو اٹھا کر کون اُس کی جگہ پر رکھے گا۔ آخر سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ (کل) جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو وہی حجرِ اسود کو رکھے گا۔ چنانچہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے حالانکہ یہ آپ کے اظہارِ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، چنانچہ لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی اس اعزاز کا اولین حق وارٹھرایا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم اس قدر ترقی فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں۔

ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلوعِ اسلام سے پہلے دورِ جاہلیت میں لوگ آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں آسمانوں اور زمین میں امین ہوں۔ ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے ہاں جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اُسی کو جھٹلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قَاتِلْهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ (الایہ)۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے اور نہ ہم میں کوئی آپ کو جھٹلانے والا ہے۔ انفس بن شریق جنگِ بدر کے موقع پر ابو جہل سے ملا اور کہنے لگا کہ اے ابوالحکم! (دورِ جاہلیت میں یہ قوم کی جانب سے ابو جہل کا لقب تھا) یہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی ہماری گفتگو سننے والا نہیں، لہذا اس خلوت میں مجھے حقیقت سے مطلع فرمائیے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سچے ہیں یا جھوٹے؛ ابو جہل نے کہا: خدا کی قسم محمد سچے ہیں۔ جھوٹ تو محمد نے کبھی بولا ہی نہیں۔ (صلی اللہ علیک یا رسول اللہ)

ہرقل (شاہِ روم) نے ابوسفیان سے پوچھا کہ اُن (نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے اعلانِ نبوت سے پہلے کیا تم نے یہ دیکھا کہ اُن پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو؟ ابوسفیان نے جواب دیا کہ ایسا تو قطعاً نہیں ہوا۔ نصر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے

کہا کہ تمہارے درمیان محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کم عمر تھے تو ان کی گفتگو تمہیں سب سے پیاری لگتی تھی اور تم ان کی ہر بات کو سچی جانتے اور انہیں سب سے بڑا امانت دار (ایمن) کہتے تھے لیکن جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے اور تمہارے پاس کلام الہی لے کر آئے تو انہیں جادوگر بتانا شروع کر دیا حالانکہ خدا کی قسم وہ جادوگر ہرگز نہیں ہیں۔

حدیث شریف میں ان سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کسی اجنبی عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توصیف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو میں سب سے سچے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو آپ نے عرف اتنا فرمایا: تجھ پر افسوس ہے، اگر میں انصاف نہ کروں تو انصاف اور کون کرے گا؟ اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو سر اسر میرا ہی نقصان ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان ہی کو اختیار فرمایا جبکہ اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو ورنہ آپ اس سے کوسوں دور رہتے۔

ابو العباس مبرّد نے کہا کہ کسری (شاہ ایران) نے اپنے دنوں کی تقسیم کر رکھی تھی۔ جس روز ہوا چلتی وہ سونے کا دن تھا، مطلع ابر آلود ہوا اس روز شکار، بارش کے دن نئے نوشی اور عیش و عشرت کے لیے اور جس روز مطلع صاف ہوتا وہ دن کام کاج یعنی امور مملکت انجام دینے کے لیے مقرر تھا۔ ابن خالوینہ نے کہا کہ وہ دنیاوی سیاست سے بھی بے بہرہ نکلا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ جَانِتِينَ فِي مَنَاجِبٍ
جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی

لے سے خطا کار سے درگزر کرنے والا

بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا

(حالی)

الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝

ہیں۔

لیکن ہمارے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا ایک حصہ عبادت الہی کے واسطے، دوسرا اہل و عیال کے لیے اور تیسرا اپنے واسطے تھا۔ اپنے وقت کو بھی اپنی ذات اور لوگوں کے مابین تقسیم کیا ہوا تھا نیز خاص لوگوں کو عوام الناس کی دشگیری کا حکم دے رکھا اور تلقین فرمائی تھی کہ جو شخص اپنی حاجت ہماری بارگاہ تک نہ پہنچا سکے اُس کی حاجت روائی کر دیکونکہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے خیرات عشرے امن دے گا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی شخص کو دوسرے کی غلطی کے بدلے نہ پکڑتے تھے اور نہ کسی کی دوسرے سے تصدیق کرواتے تھے۔ ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے کسی معمول کا کبھی قصد بھی نہیں فرمایا، ماسوائے دو مواقع کے لیکن اُن دونوں موقعوں پر حجب میں نے ارادہ کیا تو مشیت خداوندی درمیان میں حائل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی ناپسندیدہ کام کا قصد بھی نہیں فرمایا، یہاں تک کہ پروردگارِ عالم نے مجھے نبوت و رسالت کے ساتھ معزز و مکرم فرمایا۔ وہ دو چیزیں جن کا میں نے قصد کیا تھا یہ ہیں کہ ایک لڑکا میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا ایک روز میں نے اُس سے کہا کہ آج میری بھی بکریوں کی نگرانی کرنا کیونکہ میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں۔ وہاں نوجوانوں میں مبیٹھ کر دل لگی کی باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ اسی مقصد کے تحت میں شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ مگر مکرمہ کے پہلے ہی مکان سے دف اور مزامیر بجائے جا رہے تھے کیونکہ شادی کی تقریب تھی۔ میں سننے کے لیے نزدیک ہی مبیٹھ گیا لیکن حیران تھا کہ میری قوتِ سامعہ جواب دے گئی تھی اور اس کے بعد مجھے نیند آگئی یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے ہی مجھے بیدار کیا۔ غرضیکہ جیسا میں آیا تھا ویسا ہی واپس لوٹ گیا اور کچھ بھی نہ سُن سکا۔ اسی قسم کا

واقعہ دوسری مرتبہ پیش آیا۔ ان کے علاوہ کبھی میں نے کسی بُرے کام کا ارادہ تک نہیں کیا۔

وقار، خاموشی، سنجیدگی، ابوداؤد نے خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کبھی پاؤں نہ پھیلاتے بلکہ سب سے زیادہ باوقار نظر آتے تھے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے احتیاء فرمایا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر آپ اسی طرح بیٹھتے تھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر دونوں گھٹنوں کا گھیرا کر لیتے اور زانوؤں کو کھڑا رکھتے۔ (اسی کو احتیاء کہتے ہیں)

حضرت جابر بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار زانو بھی بیٹھ جاتے تھے اور کبھی کبھار دونوں گھٹنوں اور زانوؤں کو پیٹ سے ملا کر بھی بیٹھتے تھے۔

آپ عموماً خاموش رہتے اور ضرورت کے بغیر کلام نہ فرماتے۔ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے گفتگو نہ کرتا تو اس کی جانب سے منہ پھیر لیتے۔ آپ کا ہنسنا تبسم تک محدود تھا۔ کلام واضح ہوتا۔ اُس میں کوئی بے مقصد بات ہوتی نہ کسی قسم کی کمی۔ آپ کی تعظیم اور اتباع کے باعث صحابہ کرام کا ہنسنا بھی بارگاہِ مصطفویٰ میں صرف تبسم کی حد تک رہتا تھا۔ آپ کی محفلِ علم و حیاء اور خیر و خوبی کا مرقع ہوتی۔ بارگاہِ مصطفویٰ میں آوازیں بلند کرنے یا کسی کے خلاف الزام تراشی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ معلم کائنات اپنی زبان حق ترجمان سے علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے گوہر لٹاتا تو سامعین حضرات اپنے سر جھکا لیتے اور اس طرح ہم تن گوش ہو کر سُنتے گویا اُن کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔

آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آگے کی جانب قدرے جھک کر آرام سے چلتے تھے، جیسے چڑھائی سے اُترائی کی جانب آتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ چلتے وقت ہوشیار رہتے تھے کیونکہ اس سے کسی قسم کی تنگی اور سُستی نہیں ہوتی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھی ہدایت محمد رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرمؐ نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں آہستگی اور تریل تھی۔ ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاموشی حلم، احتیاط، تدبیر اور تفکر کی آئینہ دار ہوتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے کلمات کو شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔

آپ کو خوشبو سے محبت تھی اور اس کا بکثرت استعمال کرتے تھے۔ خوشبو کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے یعنی عورتوں اور خوشبو کی، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے۔ آپ کی مروت کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین فرمایا کرتے۔ مسواک کرنے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو صاف رکھنے اور خضائل فطرت کو معمول بنانے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ براجم اور رواجب سے مراد انگلیوں کی گرہیں (گانتھیں) ہیں، ہتھیلی کے اندر اور باہر دونوں جانب سے صفائی رکھنی چاہیے اور فطرتی یا پیدائشی خضائل دس ہیں، جن میں سے مونچھوں کا کٹوانا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور زیرین ناف بالوں کی صفائی کرنا ہے۔

دنیا سے بے رغبتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں طالب حقیقت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور اُس کی آرائشوں سے آپ نے ایسی حالت میں بھی اجتناب فرمایا جبکہ وہ آپ کے قدموں میں بکھری پڑی تھی اور پے درپے فتوحات ہو رہی تھیں۔ حتیٰ کہ اسی بے رغبتی کی حالت میں آپ نے دنیا کو خیر باد کہا اور اُس وقت خانگی اخراجات کے باعث آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا رزق دے کہ وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کبھی سیر ہو کر متواتر تین دن

کھانا نہیں کھایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کبھی متواتر دو دن سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو باری تعالیٰ شانہ، اشاعطا فرماتا رہتا کہ وہم و گمان بھی اس کا اندازہ نہ کر سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آلِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوقتِ وصال نہ تو ترکے میں درہم و دینار چھوڑے اور نہ اونٹ بکری وغیرہ۔ حضرت عمرو بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، وصال کے وقت آپ کے جنگی ہتھیار تھے، ایک خچر تھا اور کچھ زمین تھی لیکن یہ تمام چیزیں صدقے کے طور پر لوگوں کو عنایت فرمادی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کے وقت میرے گھر میں صرف تھوڑے سے جو تھے جنھیں میں نے گٹھلیا میں ڈالا ہوا تھا، ان کے علاوہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا:

انی عرض علی ان تجعل لی بطحا
مکتہ ذہباً فقلت لا یارب اجوع
یوماً و اشبع یوماً۔ فاما الیوم
الذی اجوع فیہ فاتضح الیک و
ادعوك و اما الیوم الذی اشبع
فیہ فاحمدک و اثنی علیک۔
(ص ۳۳)

میرے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی کہ میرے لیے
مکہ مکرمہ کی وادی سونے کی بنا دی جائے۔
میں نے گزارش کی: اے رب! میں
ایک روز بھوکا اور دوسرے روز شکم سیر
رہنا چاہتا ہوں کیونکہ جس روز میں بھوکا
رہوں گا تو تیری بارگاہ میں گریہ و زاری
پیش کروں گا اور دستِ دعا دراز کیا
کروں گا اور جس روز سیر ہوں گا تو
تیری حمد و ثنا بیان کیا کروں گا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار چوٹے کہ:

ان الله تعالى يقربك السلام
 ويقول لك أتعبد ان اجعل
 هذا الجبال ذهباً وتكون
 معك حثماً كنت فاطم
 ساعة ثم قال صلى الله
 تعالى عليه وسلم يا جبريل
 ان الدنيا دار من لا دار له
 ومال من لا مال له قد
 يجمعها من لا عقل له
 فقال له جبريل عليه السلام
 ثبتك الله يا محمد بالقول
 الثابت - (ص ۳۳)

بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام
 بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں
 تو آپ کے لیے اس پہاڑ کو سونا بنا
 دیا جائے اور جہاں کہیں بھی آپ
 تشریف فرما ہوں یہ آپ کے ساتھ ہے۔
 آپ نے تھوڑی سی دیر سر جھکائے رکھا
 پھر فرمایا: اے جبریل! دنیا اس
 شخص کا گھر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں
 اور اس کا مال ہے جس کے پاس حقیقی
 دولت نہیں۔ اسے وہی شخص جمع کرتا ہے
 جس کے پاس عقل و خرد کا توڑا ہو۔
 جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ
 اے ممدوح پروردگار! اللہ تعالیٰ
 نے آپ کو حقیقت آشنائی دالے
 مقام پر ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہم ایسے آلِ محمد
 (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہیں کہ بعض اوقات سارا مہینہ گزر جاتا لیکن ہمارے گھر میں
 آگ روشن کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ صرف کھجوروں اور پانی پر ہی گزر اوقات ہوتی رہتی۔
 حضرت عبدالرحمن بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ
 فرمانے تک کبھی سیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہ کھائی اور یہی حالت آپ کے گھر والوں کی رہی۔ اسی

لے مہدو ماتہ حاضرہ نے یوں نذرِ عقیدت پیش کی ہے:۔

گل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا

اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

طرح حضرت عائشہ صدیقہؓ، ابو امامہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال بعض اوقات کئی کئی راتیں متواتر اس لیے بھوکے گزار دیتے کہ گھر میں شام کے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ امراء کی طرح چھوٹی چھوٹی پیالوں میں کھاتے۔ آپ کے لیے چپاتی کبھی نہیں پکائی گئی اور بکری کا بھنسا ہوا گوشت تناول فرمانا بھی ناپسند تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس بچپونے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر پر مشتمل تھا، جسے ہم دوہری کر کے بچپا دیا کرتے اور آپ اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم نے اس کی چار تہہ کر کے بچھا دیا۔ صبح ہوتے ہی آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے لیے کیا بچھایا تھا، ہم نے عرض کیا کہ اسی چادر کی چار تہیں کر دی تھیں۔ فرمایا: اُسے پہلی طرح ہی بچھایا کرو کیونکہ آج اس کی نرمی نے مجھے نماز سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جب کبھی چار پائی پر آپ آرام فرما ہوتے جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی ہوتی تو اس سے آپ کی کروٹوں میں نشان پڑ جایا کرتے تھے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا اور اس امر کا کسی سے کبھی تذکرہ بھی نہیں فرمایا کیونکہ فاقہ آپ کو شکم سیری سے زیادہ عزیز تھا۔ جب کبھی آپ رات کو بھوکے سوتے تو اگرچہ ساری رات بھوک کے مارے بے قرار رہتے لیکن یہ حالت بھی دن کو روزہ رکھنے کے ارادے میں حائل نہ ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے اور اپنے رب کریم سے سوال کرتے تو وہ منعم حقیقی آپ کو بے بہا زمین کے خزانے اور دافر پھل وغیرہ مرحمت فرماتا رہتا، جن کے باعث آپ آرام سے زندگی بسر فرماتے رہتے۔ آپ کے فاقہ کشی کی حالت کو دیکھ کر بعض اوقات میں پڑتی تھی۔

ادھر آنکھوں سے قطار اندر قطار آنسو گر رہے ہوتے اور ادھر آپ کے شکم اظہر پر ہاتھ پھیرتی جاتی اور عرض گزار ہوتی کہ قربان جاؤں آپ دنیا سے کم از کم اتنا حصہ تو قبول فرمایا کریں جس سے فاقے کی اذیت نہ اٹھانی پڑے تو آپ زبانِ حق ترجمان سے فرماتے کہ عائشہ! مجھے دنیا سے کیا سروکار؟ میرے بھائی اولوالعزم پیغمبروں نے اس سے بھی کٹھن حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھا، حتیٰ کہ دنیا سے تشریف لے گئے اور جب باری تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صبر و قناعت کے باعث وہ عز و شرف سے نوازے گئے اور اجرِ عظیم پایا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی زندگی آرام سے بسر کرنے لگوں تو کل مجھے اُن سے کم اجر ملے گا جو میرے لیے یقیناً ندامت کا باعث ہوگا۔ مجھے خدا کے اُن دوستوں کی موافقت سے بڑھ کر کسی چیز کی رغبت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صرف ایک ماہ اس دنیا میں جلوہ افروز رہے اور پھر اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

خوفِ خدا و کثرتِ عبادت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے رب سے ڈرنا، اُس کے احکام کی اطاعت میں کوشاں رہنا اور کثرت سے عبادت کرنا، یہ اُس مخصوص علم کے باعث تھا، جو باری تعالیٰ شانہ نے آپ کو مرحمت فرمایا تھا اسی لیے تو سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو یقیناً کم ہنستے اور زیادہ روتے سنن ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں تفصیلاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اسامی ما لاترون واسمع ما	میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے
لا تسمعون اطت السماء وحق	اور میں وہ بھی سُننا ہوں جو تم نہیں سُننے
لہا ان تطما فیہا موضع اربع	آسمان چڑچڑاتے ہیں اور یہ درست ہے
اصابع الا و ملک واضم	کیونکہ اُن پر چار انگشت جگہ بھی ایسی
جہتہ ساجد اللہ تعالیٰ	نہیں جہاں کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ

واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکم
قلیلاً ولبکیتکم کثیراً وما
تلذذتکم بالنساء علی الفرش
ولخرجتکم الی الصعدات
تجأرون الی اللہ تعالیٰ۔

کے لیے اپنی پشیمانی سجدے میں رکھی
ہوئی نہ ہو۔ خدا کی قسم، جو میں جانتا ہوں
اگر تم بھی جانتے تو یقیناً تمہارا ہنسنا
گھٹ جاتا اور رونا بڑھ جاتا اور فرش
زمین پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز

(ص ۳۴)

ہونا چھوڑ دیتے اور باری تعالیٰ شانہ
کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے ہوئے
جنگوں کی طرف نکل جاتے۔

حضرت سفیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ فخر دو عالم صلی
تعالیٰ علیہ وسلم اس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے
جب بارگاہ رسالت میں یہ گزارش کی گئی کہ حضور! آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جب
اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے، تو اس فخر انسانیت نے جواب
دیا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملہ معمولات میں ہمیشگی ہوتی تھی۔ دوسرا کون شخص
جو ایسی طاقت رکھتا ہو؟ آپ فرماتی ہیں: سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے
رکھنے شروع کر دیتے تو ہمیں گمان گزرتا تھا کہ اب افطار نہیں فرمائیں گے اور افطار کرتے تو اب
معلوم ہونے لگتا کہ اب روزے نہیں رکھیں گے۔ اسی کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے بھی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو یقیناً انھیں نماز پڑھتے ہوئے پائے گا اور اگر تیری خواہش یہ
کہ آرام فرمانے کی حالت میں آپ کو دیکھوں تو آرام فرماتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں

سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے مسواک کی، پھر نماز
پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

و سلم نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی اور اس طرح کہ رحمت کی آیت پر ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے۔ اسی طرح عذاب کی آیت پر ٹھہر جاتے اور عذاب الہی سے پناہ مانگتے۔ سورہ بقرہ اس طرح پڑھتے ہوئے جب ختم ہوئی تو آپ نے رکوع کیا اور رکوع کی حالت میں اتنی ہی دیر رہے جتنی دیر قیام کیا تھا۔ رکوع کی حالت میں یہ کہتے تھے سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعُظْمَةِ۔ پھر سجدہ کیا اور اس میں بھی یہی پڑھتے رہے۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی، تیسری میں اُس سے اگلی اور چوتھی میں اُس سے اگلی پڑھی۔ قرأت کا طریقہ وہی تھا جو مذکور ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں بھی اتنی ہی دیر رہے جتنی دیر قیام کیا تھا اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اسی قدر بیٹھے رہے۔ آپ نے قیام کے دوران سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ ہائدہ پڑھی تھیں۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز پڑھنے میں مصروف ہوئے اور ساری رات ایک آیت کی بار بار تلاوت ہی میں گزار دی۔ حضرت عبداللہ بن شخبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اُس وقت آپ نماز پڑھنے میں مصروف تھے اور آپ کے شکم مبارک سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔

حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اکثر غناک اور دائم الفکر رہتے تھے۔ آپ کو آرام و راحت سے کوئی دل چسپی نہ تھی۔ سرور کون و مکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک سو مرتبہ بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں ستر مرتبہ کا ذکر ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ

لے پاک ہے وہ ذات جو حقیقی طاقت، حکومت اور عظمت والی ہے۔

ہیں اور تمہیں نیک توفیق دے۔ جملہ انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کمال تخلیق، حسن صورت، شرافت نسب، حسن اخلاق اور دیگر محاسن عالیہ میں یہی حالت تھی کیونکہ یہی اوصاف تو صفات کمال ہیں لہذا حضرات انبیائے کرام ہر کمال، بشری اوصاف اور جملہ فضائل سے بھرپور ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ سب سے بلند و بالا اور ان کا درجہ سب سے ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے لیکن فضائل کے میدان میں انہیں بھی پروردگارِ عالم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے جیسا کہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے آخری پیغام میں فرمایا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی یہ رسول ہیں ہم نے ان کے بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت احادیث نقل کی ہیں جو بعض انبیائے کرام کے فضائل و کمالات کو ظاہر کر رہی ہیں لیکن میں (تکرار کے خوف سے) ان کے نقل کرنے کی اس جگہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

شمال نبوی اور دیگر متعلقہ اوصاف

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ قارئین کرام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشا، ہم نے آپ کے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، فضائل مجیدہ اور متعدد خصائل کمالیہ بیان کیے ہیں اور ان اخلاق و خصائل حمیدہ کا فخر و وعاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت و صحیح ہونا میرا ہی کیا ہے اور اس سلسلے میں صرف بعض آثار نقل کرنے پر ہی قناعت کی ہے حالانکہ حقیقت نفس الامری نہایت وسیع ہے۔ آپ کے بارے میں اس میدان کی وسعت اتنی ہے کہ اُس تک پہنچنے کی ہر طویل سے طویل ترستی بھی کوتاہ اور نا کافی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ کے خصائص کے علم کا سمندر تو یقیناً ٹھاٹھیں مار رہا ہے جسے ڈول مکدر نہیں کر سکتے لیکن (بخوف طوالت) ہم نے بعض معروف احادیث ہی پیش کی ہیں، جن میں سے اکثر صحیح بخاری اور دیگر مشہور تصانیف میں موجود ہیں، جبکہ ان میں سے

بھی ہم نے ایک قلیل حصے ہی پر اکتفا کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ان فصلوں کو ان احادیث پر ختم کریں جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع کی تھیں، کیونکہ علیہ مبارک کے بارے میں یہ بھی کافی ہیں۔

امام ترمذی اور دیگر محدثین نے امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے ماموں ہند بن ابوہالہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علیہ شریف کے متعلق دریافت کیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں یگانہ و معروف تھے اور میں خواہشمند تھا کہ حضور اقدس کے علیہ شریف سے رُوشناسی حاصل کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز قامت تھے۔ آپ کا چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا دکھتا ہے۔ میانہ قد والوں سے آپ لمبے اور بلند قامت آدمی سے دیکھنے میں نیچے معلوم ہوتے تھے۔ سر اقدس بڑا اور بال شکن دار تھے لیکن کنگھی کرنے سے سیدھے بھی ہو جاتے تھے بصورت دیگر کانوں کی نو سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ کا رنگ چمکدار، پیشانی کشادہ اور حاجب باریک اور لمبے تھے لیکن ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت اُبھر آتی تھی۔ یعنی مبارک نورانی اور بلند تھی، جس نے اُسے غور سے نہ دیکھا ہوتا وہ باریک اور لمبی گمان کرتا۔ ریش مبارک بھاری، چشمان مبارک گہری سیاہ، جن میں ہلکی سی سُرخ کی جھلک تھی۔ رصاف و شفاف رخسار مبارک، دہن اقدس مناسب گھلا ہوا، خوب صورت اور سفید دندان پاک، جو جدا جدا تھے۔ سینے پر بالوں کی باریک سی دھاری، گردن گویا چاندی کی صراحی یا خوب صورت اور سُرخ مائل سفید تصویر کی گردن کے مانند، درمیانہ قد، مضبوط بدن، شکم اطہر و سینہ انور سامنے سے برابر تھے، سینہ فیض گنجینہ فراخ، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ، گیسوٹے مبارک گھنے، گردن کے نچلے حصے اور ناف کے درمیان بالوں کی باریک سی دھاری تھی، جو خط ساد کھائی دیتی تھی، اُس میں بال کم اور نورانی تھے۔ چھاتی اور شکم اطہر بالوں سے خالی، ان کے علاوہ بازوؤں اور کندھوں پر بال تھے۔ سینہ فراخ اور بلند، کلائی بڑی، ہتھیلی کشادہ، ہاتھ پیروں کی انگشتاٹے مبارک

موٹی اور لمبی تھیں۔ پٹھے صاف اور لمبے تھے، پاؤں درمیان سے ابھرے ہوئے جو زمین سے اٹھ رہتے۔ قدم انور صاف اور نرم تھے جن کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ زمین سے اٹھتے تو پوری قوت کے ساتھ اور چلتے وقت آگے کی جانب قدرے مائل ہو کر چلتے، تیز چلتے تھے لیکن بڑے آرام سے۔ محور فٹار ہوں تو یوں محسوس ہوتا کہ آگے کو گرنے والے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فرماتے تو مکمل طور پر اُدھر متوجہ ہوتے۔ نگاہیں نیچی رکھتے۔ آپ کی نظر آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کا ملاحظہ فرمالینا ایک جھک کی مانند ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے چلتے اور جو ملنا آ پہلے سلام کرتے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ہارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرزِ تکلم کی خوبیاں دریافت کیں تو انھوں نے بتایا کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً غمگین اور متفکر رہتے تھے۔ چونکہ آپ آرام سے زندگی نہیں گزار رہے تھے لہذا ضرورت کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے بلکہ زیادہ تر خاموش ہی رہتے۔ کلام میں ابتداء اور انتہا میں زیادہ وضاحت فرماتے۔ جامع کلمات کے ساتھ مفصل کلام کرتے لیکن اس میں ایک لفظ بھی زاید از ضرورت نہ ہوتا اور کسی ایک لفظ کو شامل کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ تند خو نہیں بلکہ طبیعت کے نرم تھے۔ کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے نعمت کی قدر کرتے اگر قلیل ہوتی اور اُس کی مذمت سے پوری طرح گریز کرتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قطعاً تعریف نہ کرتے کیونکہ یہ حرص کی ایک نشانی ہے اور نہ بُرائی بیان کرتے۔ جب حق کے درپے ہوتے تو اُس وقت تک غصہ و غضب دُور نہ ہوتا جب تک انتقام نہ لے لیتے، لیکن اپنی ذات کے لیے غیظ و غضب میں نہیں آئے اور نہ اپنی ذات کا کبھی انتقام لیا۔ جب اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی سے فرماتے۔ جب تعجب فرماتے تو ہتھیلی کو اوپر نیچے کرتے اور جب کلام فرماتے تو اُسے ملا دیتے اور دائیں انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی پر مارتے۔ جب غصے میں آتے تو منہ پھیر لیتے۔ خوش ہوتے تو نگاہیں جھکا لیتے۔ آپ کا ہنسنا صرف تبسم کی حد تک تھا۔ کلام فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ بارانِ رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔

اے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شاعر تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اپنے بھائی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کچھ عرصہ مخفی رکھنے کے بعد بیان کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے بتانے سے پہلے ہی آگاہ ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت والدِ محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے، باہر تشریف لے جانے، لباس، مجلس اور شکل و صورت کے متعلق دریافت کیا تھا تو انہوں نے ہر بات تفصیل کے ساتھ بتا دی تھی۔

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح گھر میں تشریف لایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا اپنی مرضی پر منحصر تھا۔ گھر میں جتنا وقت تشریف رکھتے اس کے تین حصے کیے ہوئے تھے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دوسرا اہل و عیال کی خاطر اور تیسرا اپنی ذات کے لیے تھا۔ پھر تیسرے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہوا تھا۔ عام پر خاص کو ترجیح دیتے لیکن کسی کو روکتے نہ تھے امت کے حق میں یہ آپ کی عادتِ کریمہ تھی کہ اہل فضل کو ترجیح دیتے اور دین میں فضیلت کے لحاظ سے حاجت مندوں میں تقسیم فرماتے۔ اُن میں بعض ایک حاجت والے، بعض دو حاجتوں والے اور بعض بے شمار حوائج والے ہوتے تو اُن کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اُن کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوتے اور آپ کا یہ اشتغال اُن کی بھلائی کی خاطر ہوتا تھا۔ اُمتیوں کے حالات پوچھتے اور جو اُن کے لائق ہوتا وہ مشورہ بھی دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ حاضرین کو چاہیے کہ یہ باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں جو شخص اپنی حاجت مجھ تک نہیں پہنچا سکتا تو دوسروں کو چاہیے کہ غائب کی حاجت یہاں تک پہنچا دیا کریں کیونکہ جو شخص کسی مجبور کی حاجت حاکمِ وقت تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اُسے ثابِتِ قدم رکھے گا، اُس کے سامنے صرف اُسی بات کا ذکر آئے گا اور اُس کے سوا دوسرے کی بات قابلِ قبول نہ ہوگی۔

سفیان بن وکیع کی حدیث میں ہے کہ لوگ آپ کے پاس علم سے خالی آتے اور دولتِ علم سے ایسے مالامال ہو جاتے کہ فقیہ بن کر نکلتے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ بیرونِ خانہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے کلام نہ فرماتے۔ لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے اور متفرق نہ ہونے دیتے۔ ہر قوم کے سردار کی عزت کرتے اور اُسی کو اُن پر والی (گورنر) بناتے۔ عام لوگوں سے علیحدہ رہتے لیکن کسی سے رُگردانی نہ فرماتے۔ اپنے بعض اصحاب کی غیر موجودگی میں اُن کے حالات بھی دریافت فرماتے۔ اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرتے اور بُرے کاموں کو ناپسند فرماتے۔ آپ کے معمولات میں اعتدال اور عدم اختلاف تھا۔ غفلت اور تساہل کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیتے تاکہ لوگ غافل اور کاہل نہ بن جائیں۔ ہر کام میں میانہ روی تھی۔ کسی کے حق میں کمی نہ کرتے اور غیر مستحق کو تجاوز نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ جو اشخاص آپ کا جتنا قُرب حاصل کر لیتے اُسی قدر دوسروں سے بہتر اور افضل شمار ہوتے۔ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح موافقت کرنے والے آپ کے نزدیک عظیم ٹھہرتے تھے۔

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور کوئی جگہ اپنے بیٹھنے کے لیے معین نہ فرماتے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی قوم کی مجلس میں تشریف لے جاتے تو مجلس کے آخری حصے میں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اپنے ہم نشینوں کو علی قدر مراتب نوازا کرتے تھے، جس سے ہر ایک یہی گمان کرتا تھا کہ آقائے دو جہاں کی سب سے زیادہ نظر کرم میرے ہی حال پر ہے۔ جو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، یا کسی حاجت کے سبب آنا پڑتا، تو جب تک وہ فارغ ہو کر چلا نہ جاتا اتنی دیر آپ اُس کے پاس تشریف رکھتے۔ جس نے بھی آپ کی بارگاہ میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ارسطو کی حکمت ہے شرب کی لونڈی

فلاطون طفل و بستان احمد

(نوٹ) موصوف چونکہ دیوبندی تھے لہذا لفظ شرب کو بید مٹک استعمال کر گئے برادران اہلسنت کو اس جگہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ (اختر)

اپنی حاجت پیش کی، اُس کی ضرورت آپ نے حاجت روائی فرمائی یا اُسے سمجھا بچھا کر مطمئن کر دیا۔
 آپ کی کرم نوازی اور اخلاقِ عالیہ کا دائرہ لوگوں کے درمیان بڑا وسیع تھا۔
 آپ سب کے لیے باپ کی طرح تھے اور وہ سارے آپ کے نزدیک حق ہیں ایک دوسرے سے
 قریب اور تقویٰ کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت والے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ
 آپ کے نزدیک لوگ حق ہیں برابر تھے۔ آپ کی مجلسِ حلم و حیا اور سبر و امانت کی محفل ہوا کرتی تھی
 اُس میں نہ کوئی آواز بلند کرتا اور نہ کسی کی بدگوئی کی جاتی تھی نیز ادھر ادھر دیکھ کر گفتگو نہیں کی جاتی
 تھی۔ یہ الفاظ پہلی دونوں روایتوں میں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام بھی آپ کی مجلسِ مبارکہ میں تقویٰ کے
 لحاظ سے محبت کرتے اور تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں
 پر شفقت کی نظر رکھتے، غریب کی حاجت روائی کرتے اور مسافروں کی حالتِ پُرس کھایا کرتے تھے
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ہالہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ ہم نشینوں کے بارے میں
 دریافت کی تو اُنہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش مزاج، کریم الخلق اور
 نرمی سے سلوک کرنے والے تھے۔ بدخلق اور سخت طبیعت والے نہ تھے اور نہ بازاروں میں
 آواز بلند کرتے اور نہ فحش باتیں کرتے، نہ کسی پر عیب لگاتے اور ایسا مزاج نہ فرماتے جو مقامِ
 ادب سے غافل کر دے یا جسے طبیعت نہ چاہے، کبھی مایوس نہ ہوتے۔ تین چیزیں آپ کی
 سیرتِ مقدسہ میں قطعاً نہ تھیں (۱) ریاکاری (۲) بیکار گفتگو (۳) غیر مفید کام۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو تین حالتوں میں رکھتے تھے۔ کسی کی
 مذمت نہ کرتے اور نہ کسی کا عیب تلاش کرتے۔ جس میں ثواب کی اُمید ہو اُسی کام کا حکم دیتے۔
 جب آپ زبانِ حقِ ترجمان سے کچھ ارشاد فرماتے تو اہلِ مجلس اپنے سروں کو اس طرح جھکایا کرتے
 تھے جیسے اُن کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاموش ہوتے اُس وقت صحابہ کرام
 گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ کسی بات پر آپس میں نہ جھگڑتے۔ جو شخص بارگاہِ رسالت میں عرض گزار
 ہوتا، اُس کی التجا بڑی توجہ سے سنی جاتی اور اُتنی دیر آپ خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ

اپنی بات ختم کر کے فارغ ہو جاتا۔

آپ کلام کی ابتدا فرماتے تھے۔ آپ ہنستے تو وہ بھی ہنستے اور آپ تعجب فرماتے تو وہ بھی متعجب ہوتے۔ اجنبی آدمی کی سخت کھلامی پر صبر فرماتے اور عام حکم تھا کہ جب کسی حاجمند کو دیکھو تو اُس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ مکافات کرنے والے کی مدح و ثنا قبول فرماتے کسی کی بات نہ کاٹتے اور اگر کوئی تجاوز کرتا تو اُسے روک دیتے یا وہاں سے اُٹھ کھڑے ہوتے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکوت کے متعلق دریافت کیا تو جواب ملا کہ آپ کی خاموشی چار باتوں پر منحصر تھی : (۱) حلم (۲) احتیاط (۳) اندازہ (۴) تفکر۔ آپ کا اندازہ یہ تھا کہ سب پر نظر رکھتے اور ہر ایک کی بات پوری توجہ سے سماعت فرماتے۔ آپ کا تفکر فانی اور باقی چیزوں کی حقیقت کے بارے میں تھا۔ صبر کرنے میں آپ بہت حلیم تھے یہاں تک کہ بے قرار کر دینے والے مواقع پر بھی آپ سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ چار چیزوں میں آپ احتیاط فرماتے تھے : (۱) اچھی چیز اختیار فرماتے، تاکہ لوگ پیروی کریں۔ (۲) بُری باتوں سے دُور رہتے تاکہ لوگ اُن سے اجتناب کریں (۳) جس بات میں اُمت کا فائدہ ہو تا اُس میں کوشاں رہتے (۴) جو چیز دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہوتی اُس کا اہتمام فرماتے۔

فائدہ یہ مشکل الفاظ کی تشریح کے بارے میں ہے۔ پہلی حدیث کی شرح میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ (المشذب) سے لمبا اور قدرے نحیف آدمی مراد ہے اور یہ دوسری حدیث ہی کے موافق ہے جس میں مذکور ہے کہ آپ بہت لمبے نہ تھے۔ (الشعر الرجل) سے وہ بال مراد ہیں جو نہ زیادہ شکن دار ہوں اور نہ بالکل سیدھے، گویا دستِ قدرت نے شانہ کیا ہوا ہے اور وہ اُلجھے ہوئے نہ ہوں۔ (العقیقۃ) سے سر کے ایسے بال مراد ہیں کہ اگر آپ اُنھیں جُدا کرنا چاہتے تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ورنہ ملے رہتے۔ دوسری روایت میں اس کے لیے لفظ عقیقتہ بھی استعمال ہوا ہے (ازہر اللون) سے روشن رنگ مراد ہے یا خوبصورت رنگ جیسا کہ زہرۃ الحیاۃ الدنیا ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح یوں ہے : لیس بالابيض الامهق ولا بالادم یہاں بھی امہق سے بالکل سفید اور ادم سے گندمی رنگ مراد ہے۔ ایک

اور حدیث میں ابیض مشرب ہے۔ یعنی ایسا سفید جس میں سُرخ کی جھلک ہو (الحاجب الازج) ایسے قوس دار حاجت جن کے بال گھنے ہوں۔ (الاقنی) لمبی ناک جو درمیان سے قدرے ابھری ہوئی ہو۔ (الاشم) ناک کی لمبی پوری۔

(القرن) حاجوں کے بالوں کا ملا ہوا ہونا مراد ہے۔ اس کی ضد بلج ہے یعنی جدا جدا ہونا۔ امِ معبد والی حدیث میں آپ کی یہ تعریف لفظ قرن سے کی گئی ہے۔ (الادعج) سے آنکھ کے گہرے سیاہ بال مراد ہیں۔ دوسری حدیث میں اشکل العینین مذکور ہے، جس سے مراد ایسی آنکھیں ہیں جن کی سفیدی میں سُرخ کی جھلک بھی ہو۔ (الضلیع) کا مطلب کشادہ ہے۔ (الشنب) سے دانتوں کی خوب صورتی یا اُن کے درمیان معمولی سا فاصلہ مراد ہے جیسا کہ عموماً نوجوان کے دانتوں میں ہوتا ہے۔ (الفلیج) سامنے والے دانتوں میں فاصلہ ہونا۔ (دقیق المسربة) یعنی بالوں کی دھاری جو سینے سے ناف تک ہو۔ (بادن) پُر گوشت۔ (متماکٹ) معتدل اور مضبوط جسم والے۔ دوسری حدیث میں ہے: لَمْ يَكُنْ بِالنُّطْقِ وَلَا بِالنُّكْلِشِمِ یعنی آپ ڈھیلے اور نرم گوشت والے نہیں تھے۔ (مکلم) چھوٹی ٹھوڑی کو بھی کہتے ہیں۔

(سؤ البطن والصدر) سے مراد یہ ہے اور شکم مبارک اور سینہ اقدس سامنے سے ایک ہی سطح میں نظر آتے تھے۔ (مشیح) اگر یہ لفظ درست ہے تو اس کا مطلب اقبال ہے۔ اس سے سینے میں کسی جانب ہونا بھی مراد ہوتا ہے اور اس معنی سے سؤ البطن والصدر کی تشریح بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے سینہ فیض گنجینہ سے شکم مبارک باہر کو نکلا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ممکن ہے یہ لفظ مَسَّح ہو یعنی سین اور سیم مفتوحہ کے ساتھ، جس سے مراد چوڑا ہے۔ دوسری روایت میں انکراویس یعنی ہڈیوں کے سر، جن سے جوڑ مراد ہیں۔ ایک اور حدیث میں جلیل المشاش والکتند ہے۔ مشاش سے کندھوں کے سرے اور کتند سے کندھوں کا اجتماع مراد ہے۔ (ثثن الکفین والقدمین) سے ہتھیلیوں اور قدموں کا پُر گوشت ہونا مراد ہے۔ (الزندان) کلاشیوں کی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ (سائل الاطراف) یعنی لمبی انگلیاں۔ (دعب الراحة) وسیع ہتھیلی کو کہتے ہیں یا انتہائی سخی۔ (خصان اخصین) یعنی ایسے قدم جو درمیان سے اونچے اور زمین سے اُٹھے ہوئے ہوں۔ (مبید القدمین)

سے صاف قدم مراد ہیں۔ اسی لیے یذبو عنہما السماء فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں اس کا خلاف مذکور ہوا ہے کیونکہ اُس میں یہ ہے کہ جب آپ قدم مبارک کو زمین پر رکھتے تو پورا قدم زمین سے لگ جاتا اور اُس میں جھکاؤ یا اُبھار نہ تھا۔ یہ مفہوم مسیح القدمین والی روایت کی تائید کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کہا گیا ہے کیونکہ اُن میں جھکاؤ نہ تھا۔ بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ قدموں پر زیادہ گوشت نہ تھا اور یہ مفہوم شتن القدمین کے خلاف ہے۔ (التقلع) کا مطلب قوت سے قدم اٹھانا ہے۔

(التکفؤ) آگے کی جانب جھک کر چلنے کو کہتے ہیں۔ (الہمون) سے نرمی اور وقار مراد ہے۔ (الذریع) لمبے قدم اٹھانے کو کہتے ہیں۔ یعنی جلدی کے ساتھ اور کافی آگے قدم رکھنا، لیکن متکبر کی چال اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ آپ منزل کی جانب متوجہ رہتے۔ آپ کا تیز چلنا مشقت اور عجلت کے بغیر آسانی کے ساتھ تھا، جیسا کہ مذکور ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا گویا آپ نشیب کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ (یفتح الکلام ویختمہ باشداتہ) یعنی دہن شریف کشادہ تھا۔ اہل عرب منہ کی فراخی کو خوبی شمار کرتے اور چھوٹے منہ کو مذموم گردانتے تھے۔ (اشاح) اعراض کرنا۔ (حب الغمام) اولے (ذالہ) اور فرمان (فیرد ذلک بالخاصۃ علی العامۃ) سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر فرمایا ہوا تھا، جس میں صرف خاص حضرات ہی بارگاہ رسالت میں باریب ہو سکتے تھے اور آپ کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہو کر انھیں عام حضرات تک پہنچاتے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ اُس خاص وقت کو عام لوگوں کے لیے بھی بدل دیا جاتا تھا۔

(یدخلون رواداً) سے محتاجوں اور تشنگان علم و عرفان کی آمد مراد ہے۔ (ولا ینصرفون الا عن ذواق) اور وہ اپنی تشنگی بجھائے بغیر واپس نہیں کوٹتے تھے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا لہذا اسے ظاہر مفہوم پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ (العتاد) تیار شدہ۔ (المعارۃ) المعاونة لا یواطن الا ما کن) یعنی نماز کے لیے کوئی جگہ معین نہ فرماتے اور دوسری حدیث میں ایسا کرنے سے تفصیلی طور پر منع فرمایا ہوا ہے۔ (صابرہ) سے مراد ہے کہ ساتھی کے ارادے

کے مطابق ٹھہرے رہتے۔ (لا تو بن فیہ الحرم) یعنی مجلس میں عورتوں کی بدگوئی نہ کی جائے۔
 (لا تنثی فلتاتہ) یعنی ادھر ادھر دیکھ کر کلام نہ فرماتے، اگرچہ کسی سے کوئی بات چھپانے والی ہو۔
 (یوفدون) مدد کرتے۔ (الضخاء) بہت چلانے والا۔ (لا یقبل الثناء) (لا مکافی)
 یعنی جس مدح و ثنا میں مبالغہ ہو اُسے پسند نہ فرماتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک مسلمان کے
 متعلق ہے اور بعض کا قول احسان کا بدلہ دینے والے کے بارے میں ہے، جس پر رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انعام فرمایا ہو۔ (یستفزه) یعنی ہلکا جانتے ہوں۔ دوسری حدیث
 میں منجملہ آپ کے اوصاف کے یہ بھی ہے کہ متھوس العقب یعنی اڑیاں زیادہ پُر گوشت نہ
 تھیں۔ (اھدب الاشعار) یعنی آپ کے حاجبوں کے بال لمبے تھے۔ (صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم)۔

خصائص مصطفیٰ

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء کے تیسرے باب
 میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین منصب کے بیان میں صحیح اور مشہور
 احادیث نقل فرمائی ہیں، جن سے واضح ہو رہا ہے کہ بارگاہ الہی میں سرور کون و مکاں صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کیا ہے اور وہ آپ کی کرامت و عظمت کے روشن بیانات
 ہیں، جن عظمتوں کے ساتھ باری تعالیٰ شانہ نے آپ کو دونوں جہانوں میں سب سے ممتاز
 اور مخصوص فرمایا ہے۔ (والحمد للہ علیٰ ذلک)

لا خلاف انہ صلوات اللہ	اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم
وسلامہ علیہ اکرم البشر	صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے
وسید ولد آدم و افضل	معتز لبشر، جملہ اولاد آدم کے سردار

لے فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:۔

ترامند ناز ہے عرش بریں، ترا محرم راز ہے رُوحِ امیں
 تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا، تری مثل نہیں ہے خدا کی قسم

الناس منزلة عند الله
عز وجل واعلاهم درجة
واقربهم زلفی۔ (ص ۳۹)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلحاظ مرتبہ تمام
انسانوں سے افضل، سب سے
اُونچے مرتبے والے اور اللہ عز وجل

کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔

اس بارے میں بے شمار احادیث وارد ہیں لیکن ہم (قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ) نے صرف صحیح اور مشہور احادیث ہی پر اکتفا کیا ہے۔ پس باری تعالیٰ شانہ کے نزدیک آپ کا جو منصب ہے اور آپ کی شانِ اصدفاء اور رفعتِ ذکر اور فضیلتِ عظمیٰ اور سیادتِ بنی آدم اور جن بلند مراتب کے باعث آپ کو دنیا میں خاص فرمایا اور آپ کے اسم مبارک کی برکت کے بارے میں جو احادیث صحیحہ مشہورہ وارد ہیں، اُن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ

بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :
اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے بہتر حصے میں رکھا۔ اُن میں سے ایک
گروہ کا نام اللہ تعالیٰ نے اصحابُ الیمین رکھا ہے اور دوسرے کا اصحابُ الشمال۔
پس میں اصحابُ الیمین سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر اس گروہ کے
تین حصے کیے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : وَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
وَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا اصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ — وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

میں سابقون میں سے ہوں اور ان میں بہتر ہوں۔ پھر اُن کے قبیلے بنا دیے اور مجھے بہتر قبیلے میں رکھا
جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے : رَانَا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ (الایہ) پس میں اللہ تعالیٰ
کے نزدیک آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے متقی و مکرم ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا
پھر قبائل کو مختلف گھروں میں تقسیم فرمادیا تو مجھے بہتر گھر میں رکھا، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :
اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو! تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں
پاک صاف فرمادے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام
بارگاہِ رسالت میں عرض گزار ہوئے :

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - آپ کو
 نبوت کب ملی؟ فرمایا: جب آدم علیہ السلام
 روح اور بدن کے درمیان تھے۔
 (الجسد - ص ۳۹)

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو چنا۔ اسمعیل
 علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ سے قریش کو، ان سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے
 مجھے منتخب فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی
 ساری اولاد سے مکرم ہوں اور یہ محض فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
 عنہما والی روایت میں ہے کہ میں جملہ اولین و آخرین سے زیادہ بزرگ ہوں اور فخریہ نہیں کہتا۔ حضرت
 ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل نے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور! میں نے زمین کے مشرق و مغرب
 اور شمال جنوب تک ہر گوشے کو چھان مارا، لیکن آپ سے افضل کسی کو نہ دیکھا اور بنی ہاشم سے بہتر
 کسی باپ کی اولاد نہ پائی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ معراج کی رات میں سرور کائنات
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا۔ جب آپ نے سوار ہونے کا عزم فرمایا تو براق
 اُچھلنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اے براق! تُو نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں ایسی حرکتیں کر رہا ہے
 حالانکہ ان سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں مکرم و معزز اور کون ہے جو تجھ پر سوار ہوتا۔ یہ سن کر براق
 مارے ندامت کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے اُن کی پشت مبارک
 میں زمین پر اتارا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک کے اندر کشتی میں رکھا اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا کہ مجھے بھی دکھتی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ہر دور کے
 اندر مجھے نیک پشتوں سے پاک رجموں کی جانب منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین

کے گھر جلوہ آراستے گیتی ہوا اور یہ کبھی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکے تھے اور اسی طرح آپ کے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اپنے مشہور قصیدے میں اشارے فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

۱۔ جب آدم اور حوا علیہما السلام اپنے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، اُس سے پہلے آپ گھنے سایوں میں مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے۔

۲۔ پھر ان کے ساتھ آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے حالانکہ آپ نہ تو قبل ازیں بشر تھے اور نہ انسان کی بنیاد کے مانند آپ مضغہ اور علق رہے تھے۔

۳۔ ظہور بشریت کے بعد آپ نطفہ کی شکل میں محفوظ مقامات میں سوار کی مانند متمکن رہے۔ گھوڑے کو لگام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا۔ اگلی منزل پہنچتے اور پھلی رُو پوش ہو جاتی۔

۴۔ آپ صلب سے رحم کی جانب منتقل ہوتے رہے۔ جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔

۵۔ آپ کا ایسا ہر محافظ مسکن اگرچہ خندق اور بلند چٹانوں وغیرہ سے گھرا ہوا تھا لیکن آپ ایسے مقامات میں بھی کائنات کی زبان بن کر رہے۔

۶۔ جب آپ رونق افزائے دہر ہوئے تو تشریف آوری سے زمین پر نور ہو گئی اور فضا میں جگمگا اٹھیں۔

۷۔ ہم آپ کی ضیا پاشی اور نورانیت کے صدقے ہی میں تو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں اور بعض روایات میں چھ چیزیں ایسی مرحمت فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئیں: (۱) ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر

لے حضرت اختر الحامدی الرضوی مدظلہ رقطراز ہیں: ہ

چاند تاروں میں ہے تجھ سے تابندگی ، زندگی میں ترے دم سے ہے زندگی
یعنی جان آفریں ہے تری ہر ادا ، یا نبی مصطفیٰ ، یا نبی مصطفیٰ

رُعب طاری ہو جانے کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی (۲) تمام زمین نماز پڑھنے کی خاطر میرے لیے پاک ٹھہرائی گئی تاکہ میرے کسی اُمتی کو جس جگہ موقع ملے وہ وہیں نماز پڑھ سکے۔ (۳) میرے لیے اَبِ غنیمت حلال فرما دیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے خاتمِ حلال نہیں فرمائے گئے تھے۔ (۴) میں تمام انسانوں کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ (۵) مجھے شفاعت کا اذن دے دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے ہر گورے اور کالے انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ رُعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے اور میں جامع کلمات دیا گیا ہوں اور میں خواب کی حالت میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سپرد کر دیں اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا گیا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:

اتی فرط لکم علی الحوض و	میں تمہارے لیے حوضِ کوثر پر آگے
وانا شهید علیکم واتی و	جانے والا ہوں اور تمہارے اوپر گواہ
اللہ لا نظر الی حوضی الا و	ہوں۔ خدا کی قسم یقیناً میں اپنے حوض کو
اتی قد اعطیت مفاتیح خزائن	اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ زمین کے خزانوں
الارض واتی واللہ ما اخاف	کی کنجیاں مجھے عطا فرمادی گئی ہیں اور
علیکم ان تشرکوا بعدی	خدا نے وحدۃ لا شریک کی قسم، مجھے یہ ہرگز
ولکنی اخاف علیکم ان	خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے
تتافسوا فیہا۔ (ص ۶)	لگو گے ہاں مجھے تمہارے دنیا سے رغبت
	دکھنے کا خطرہ ضرور ہے۔

لے امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ رقمطراز ہیں: یہ

اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا، تم پر کروڑوں درود

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں وہی اُمّی نبی ہوں جس کا نام نامی واسم گرامی محمد بتایا گیا تھا۔ میں جامع کلمات اور خاتمیت دیا گیا ہوں۔ میں دوزخ کے نگران فرشتے کو جس کا نام خازن ہے اور عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتوں کو جانتا ہوں۔

ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ شانہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ:

سل یا محمد فقلت یا رب ما
اسأل اتخذت ابراهیم خلیلاً
وکلمت موسیٰ تکلیماً واصطفیت
نوحاً واعطیت سلیمان ملکاً لا ینبغی
لاحد من بعدہ فقال اللہ تعالیٰ
ما اعطیک خیر من ذلک اعطیک الکوثر
وجعلت اسمک مع اسمی ینادی بہ فی جؤ
السماء وجعلت الارض طهوراً لک
ولا متک وغفرت لک ما تقدم
من ذنبک وما تاخر فانت تمشی
فی الناس مغفوراً لک ولم اصنع
ذلک لاحد قلبک وجعلت قلوب امتک مصاحفها
وخبأت لک شفاعتک ولم
اخبأها لنبی غیرک۔ (ص ۷)

اے سب سے زیادہ تعریف کیے گئے محبوب! مجھ سے
جو چاہو مانگو۔ میں عرض گزار ہوا، اے رب! میں
تجھ سے کس چیز کا سوال کروں جبکہ تُو نے ابراہیم
علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے
تُو نے کلام کیا اور نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور
سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی جو
اُن کے سوا دوسرے کے لائق نہیں۔ ارشادِ ربانی ہوا
میں نے جو تمہیں مرحمت فرمایا وہ اس سے بڑھ کر ہے۔
میں نے تمہیں حوضِ کوثر بخشا، تمہارے نام کو اپنے نام
کے ساتھ ملایا جس کی نوافضاؤں میں سُنی جاتی ہے
اور میں نے زمین کو تمہارے لیے اور تمہاری اُمت
کے لیے پاک ٹھہرا دیا اور تمہارے باعث تمہارے
اگلوں کے اور تمہارے کچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے
اور تم لوگوں کے درمیان بخشوانے والے کی حیثیت سے
جلوہ افروز ہو جا لا کہ قبل ازیں یہ سلوک میں نے کسی کے
ساتھ نہیں کیا اور تمہارے اُمتیوں کے دلوں کو صحیفے
بنادیا اور حق شفاعت کو تمہارے لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا
جو کسی دوسرے نبی کے لیے جھسا کر نہیں رکھی گئی۔

دوسری حدیث میں ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ شانہ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ سب سے پہلے میری امت کے جو اشخاص میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد ستر ہزار ہوگی۔ ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید ہوں گے۔ ان میں سے کسی کا حساب نہیں لیا جائے گا اور مجھ پر یہ کرم بھی فرمایا کہ میری امت فحط سالی سے نہیں مرے گی اور نہ مغلوب ہوگی۔ مجھے نصرت، عزت اور رعب عطا فرمایا جو ایک ماہ کی مفت تک اثر انداز ہے۔ میرے لیے اور میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال قرار دے دیا اور ہم سے پہلے لوگوں پر جو سختی فرمائی گئی تھی وہ ہم سے اٹھالی گئی ہے اور ہم سے دین میں حرج اٹھایا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو معجزات دیے گئے، جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ مجھے قرآن مجید عطا فرمایا گیا ہے جس سے بہتر معجزے پر کوئی شخص ایمان نہیں لایا۔ میں بھی نبی ہوں اور دیگر انبیائے کرام کی طرح میری جانب بھی وحی آتی ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار قیامت میں سب سے زیادہ ہوں گے۔

محققین حضرات کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک آپ کا یہ معجزہ بھی رہے گا۔ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزے وقتی تھے بعد میں ان کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آئی، صرف اسی وقت کے لوگوں نے انہیں دیکھا لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا اور ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات کی طرح محض ایک خبر ہو کر نہیں رہ جائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اُس کی امت سے سات نجیب عطا فرمائے گئے اور تمہارے نبی کو چودہ مرحمت ہوئے، جن میں سے ابوبکر، عمر ابن مسعود اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور سب نبیوں سے آخری نبی ہوں حالانکہ میں اُس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندھی جا رہی تھی۔ میں ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور

عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسمانی مخلوق پر اور جملہ انبیائے کرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آسمانی مخلوق پر آپ کو کس طرح کی فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ شانہ نے آسمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے:

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِثْلُ دُونِهِ
فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ط كَذَلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ۝ (الآیہ) ۱

اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا
معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے
ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستم کاروں کو۔

اور سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝
بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح
فرمادی۔

صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! انبیائے کرام علیہم السلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۝ ۲

اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی
زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے۔

اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ۝ ۳

اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی
رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے
والی ہے۔

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کی ایک جماعت عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہمیں اپنے
متعلق کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد اجداد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جن کی دعا کا

۱ ۲۶، سورہ الفتح، آیت پہلی

۲ ۲۲، سورہ عبہ، آیت ۲۸

۳ ۲۹، سورہ الانبیاء، آیت ۲۹

۴ ۱۳، سورہ ابراہیم، آیت ۴

ذکر باری تعالیٰ شانہ نے یوں فرمایا ہے:

مَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ۖ
اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول

انہیں میں سے۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میری والدہ ماجدہ نے، جب میں ان کے شکم مبارک میں جلوہ افروز تھا، دیکھا کہ اُن کے جسم سے ایک نور خارج ہوا اور اُس سے سرزمینِ شام اور بصری کے محلات تک نظر آ گئے۔ میں نے قبیلہ بنی سعد بن بکر میں دودھ پیا۔ اُسی دوران میں جب ایک روز میں اپنے رضاعی بھائی کے ہمراہ تھا کہ دو شخص اُسے جنھوں نے بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اُن کے پاس سونے کا ایک طشت تھا، جو برف کی طرح ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اُنھوں نے سینے سے فمِ معدہ تک میرا پیٹ چیرا، دل نکالا اور اُسے بھی چیر کر اسے ایک سیاہ ٹکڑا نکالا، پھر میرے دل اور پیٹ کو اُس برف سے دھویا اور بالکل صاف کر دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے کوئی چیز پکڑی، دیکھا تو وہ نور کی ایک مہر تھی جو نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اُنھوں نے اُس سے میرے دل پر رحمت کی مہر لگائی اور دل کو اُس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی نے اپنا ہاتھ میرے چہرے ہوئے سینے پر پھیرا تو وہ درست ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا قلبِ انور بڑا مضبوط تھا۔ اُس میں دو آنکھیں تھیں جو کائنات کا مشاہدہ کرتی تھیں اور دو کان تھے جو کانِ سماعت تھے۔ ازاں بعد اُن میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کی اُمت کے دس آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ جب ایسا کیا گیا تو میں بھاری تھا پھر کہا، ایک سو کے ساتھ وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا تو میں بھاری رہا۔ کہا، ایک ہزار کے ساتھ وزن کرو۔ تب بھی میں بھاری ثابت ہوا۔ آخر میں اُس نے اپنے ساتھی سے کہا، چھوڑیئے اگر ساری اُمت کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو بھاری یہی رہیں گے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اُنھوں نے مجھے اپنے سینوں سے لگایا۔ میرے سر اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اُسے محبوب آقا گھبرائیے

نہیں، اگر آپ جانتے ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں، تو یقیناً اُس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس حدیث کے باقی حصے میں یہ بھی ہے کہ اُن فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ! باری تعالیٰ شانہ کے نزدیک کس قدر عزت و وقار اور فضیلت کرامت والے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ اور اُس کے فرشتے آپ کے معاون و مددگار ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ فرشتے چلے گئے تو میری یہ حالت تھی گویا نبوت و رسالت کی حقیقت مجھ پر بخوبی واضح ہے۔ حضرت ابو محمدؑ کی اور ابولیت رحمۃ اللہ علیہما کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش (ظاہری) کے وقت بارگاہ ایزدی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری غلطی معاف فرما دے۔ ارشادِ ربّانی ہوا، اے آدم! تم نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو کس طرح پہچانا، عرض گزار ہوئے کہ جنت میں ہر جگہ یہی لکھا ہوا دیکھا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اس کے دیکھنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے معزز و مکرم بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انھیں بخش دیا اور یہ مذکورہ دونوں حضرات کے نزدیک فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (۱) کی تاویل ہے۔ (یعنی اتفاقاً کلمات سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وسیلہ پکڑنے کی تلقین کرنا مراد ہے)

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار! میں نے جب تیرے عرش کی جانب دیکھا تو اُس پر یہ لکھا ہوا پایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ میں نے یہ دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ تیرے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبے کا نہیں ہے کیونکہ اُن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی جانب وحی فرمائی کہ اے آدم! مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، وہ اگرچہ تمہاری اولاد سے ہوگا اور سب سے آخری نبی ہوگا۔ لیکن اگر اُس محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی

۱۔ پس سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے (پ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۳)

پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو محمد رکھ لی تھی جبکہ بعض کے نزدیک ان کی کنیت ابو البشر ہے۔

حضرت سرکج بن یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور جس گھر میں کوئی محمد یا احمد نام کا آدمی رہتا ہو اُس میں ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے بر دروازے پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا ہے جو دنیا میں اس بات (توحید و رسالت) کا قائل ہو گا اُسے عذاب نہیں دیا گا۔ بعض ذکر کرتے ہیں کہ پرانے پتھروں پر مُحَمَّدٌ تَقِیْ مُصْلِحٌ سَیِّدٌ اَمِیْنٌ لکھا ہوا پایا گیا ہے۔ علامہ سنطاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خراسان کے علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے ایک پہلو پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پر مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا تھا۔ علامہ موصوف کا بیان ہے کہ انھوں نے خود بھی اُس بچے کو دیکھا اور مذکورہ امر کا مشاہدہ کیا تھا۔ بعض حضرات نے یہ خبر دی ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں گلاب کے پھول پر سفید رنگ میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا دیکھا گیا۔

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد محترم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگو! خبردار ہو جاؤ، تم میں سے جس کا نام محمد یا احمد ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حکم سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی عظمت دکھانا چاہے گا۔ ابن قاسم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سماع میں اور ابن دہب علیہ الرحمہ نے اپنی جامع میں مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ والوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی کوئی آدمی رہتا ہو وہ گھر برکت والا ہے اور اُس کے ہمسایوں کو بغیر کسی خاص مشقت کے رزق ملتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر گھر میں ایک، بلکہ دو، بلکہ تین شخص ایسے ہونے چاہیں جن کا نام محمد ہو۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اُن میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو مخصوص فرمایا اور انھیں خلعت رسالت

پہنا کر مبعوث فرمایا۔ نقاش علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ

مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا۔ (سہ)

(ازواجِ مطہرات) بیبیوں سے نکاح کر۔

تو آپ منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے اور خطاب فرمایا کہ اے مسلمانو! باری تعالیٰ شانہ نے تم پر مجھے واضح فضیلت دی ہے اور میری ازواجِ مطہرات کو تمہاری بیویوں پر ظاہر فضیلت دی ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف خصائص میں سے واقعہ اسرار و معراج بھی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے بلند ترین مقام کی نشان دہی کرتا ہے اور قرآن عزیز نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی تشریح و تفصیل موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ شانہ ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى۔ (سہ)

پاک ہے اُسے، جو اپنے بندے کو راتوں رات

لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ

تک۔

اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے:

وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ

وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُُّوحَىٰ ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ

الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَ

هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰ

اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب

معراج سے اترے۔ تمہارے صاحبِ نہ

بیکے، نہ بے راہ چلے۔ اور وہ کوئی بات اپنی

خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی،

جو انھیں کی جاتی ہے۔ انھیں سکھایا سخت

قوتوں والے طاقتور نے۔ پھر اُس جلوہ نے

إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۝ مَا
كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝
أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى ۝
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۝
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۝
عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۝
إِذْ يُغَشَّى السِّدْرَةَ مَا يُغْشَى
مَآثِرَ آغِ الْبَصَرِ وَمَا
طَغَى ۝ لَقَدْ رَأَى مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝ (۱۷)

تقصیر فرمایا اور وہ آسمان پر کے سب سے
بلند کنارے پر تھا۔ اور پھر وہ جلوہ نزدیک
ہوا۔ پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور
اس محبوب میں دوہا تھا فاصلہ رہا، بلکہ
اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے
بندے کو، جو وحی فرمائی۔ دل نے جھوٹ
نہ کہا جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے
ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ
جلوہ دوبارہ دیکھا تھا۔ سدر المنتہی کے
پاس۔ اور اس کے پاس جنت الماویٰ ہے
جب سدرہ پر چہار ہاتھ جو چہار ہاتھ تھا۔
آنکھ نہ کسی طرف پھری۔ نہ حد سے بڑھی۔
بیشک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں
دیکھیں۔

اس سیر کی حمت میں کسی مسلمان کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ
یہ نصوص قرآنی سے ثابت ہے اور واقعہ معراج کی تفصیل اور اس میں جن عجائبات کا آپ نے مشاہدہ
فرمایا ان کی تشریح نیز جو خصوصیات اس سلسلے میں آپ کو مرحمت ہوئیں ان کے شرح و بیان میں
احادیث صحیحہ کثیرہ و افراد موجود ہیں۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حنت النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، جو سفید رنگ کا جانور تھا
وہ گدھے سے بڑا اور چرستے چھوٹا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار ہے کہ جتنی دور ایک عام انسان کی نظر پہنچتی ہے
اتنی دور اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہو کر
۱۷ پ ۲۷۔ سورۃ النجم، آیت (۱۰ تا ۱۷)

بیت المقدس گیا اور اُسی پتھر کے ساتھ اُسے باندھا جس کے ساتھ دیگر انبیائے کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مسجد میں دو رکعت نماز ادا کی اور باہر نکل آیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس دو برتن لے کر حاضر ہوئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر آسمان تک جا پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا: آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ مزید پوچھا: کیا انھیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا: ہاں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ دیکھا کہ وہیں آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ انھوں نے مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ اس کے بعد براق ہمیں دوسرے آسمان تک لے گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو آواز آئی، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ مزید پوچھا: کیا انھیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا: ہاں بلایا گیا ہے، تو دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دونوں عالم زاد بھائی یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ انھوں نے مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعائی۔ اس کے بعد براق ہمیں تیسرے آسمان تک لے گیا اور پچھلے آسمانوں والا معاملہ وہاں بھی پیش آیا۔ آخر کار جب دروازہ کھول دیا گیا تو دیکھا کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے جنھیں نصف حسن عطا فرمایا گیا تھا۔ انھوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ ازاں بعد براق ہمیں چوتھے آسمان تک لے گیا اور وہاں بھی مثل سابق معاملہ ہوا۔ دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ انھوں نے مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ ان کے بارے میں باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے:

وَدَفَعْنَا مَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ ۱۵ اور ہم نے اس کو بلند مکان پر اُٹھایا۔

پھر براق ہمیں پانچویں آسمان تک لے گیا۔ وہی واقعہ پیش آیا اور دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام جلوہ افروز تھے انہوں نے بھی مجھے مرجا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ پھر براق ہمیں چھٹے آسمان تک لے گیا یہاں بھی ویسے ہی سوال جواب ہوئے اور دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام رونق افروز ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے مرجا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ اس کے بعد براق ہمیں ساتویں آسمان تک لے گیا اور مثل سابق معاملہ درپیش ہوا۔ دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جس فرشتے کی وہاں ایک مرتبہ باری آجاتی ہے دوبارہ قیامت تک باری نہیں آنے گی۔ اس کے بعد براق مجھے سدرۃ المنتہی تک لے گیا، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اور پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے حکم نے ڈھانپ رکھا ہے اور مجھے بھی اُس امر الہی نے ڈھانپ لیا یعنی خاص رحمت خداوندی نے آغوش میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اُس کے حسن و کمال کے وصف کو بیان کر سکے۔ یہاں باری تعالیٰ شانہ نے مجھ پر جو چاہی وہی فرمائی اور روزانہ پچاس نمازیں فرض فرمادیں۔ جب میں فارغ ہو کر واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا: یاسید المرسلین! اللہ رب العزت نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، روزانہ پچاس نمازیں۔ کہنے لگے، حضور! واپس جا کر تخفیف کروائیے کیونکہ آپ کی امت میں یہ طاقت نہیں ہے، میں قبل ازیں نبی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔

سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹا اور بارگاہ خداوندی میں نمازوں کی تخفیف کے لیے عرض گزار ہوا۔ اللہ جل شانہ نے پانچ نمازیں معاف فرمادیں۔ میں نے واپس لوٹتے وقت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ پانچ نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا: حضور! آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، واپس جا کر تخفیف کروائیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لوٹا اور بارگاہ خداوندی میں نمازوں کی تخفیف کا مسئلہ پیش کرتا رہا یہاں تک کہ باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا:

اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تمہاری امت پر روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے یہ شمار میں پانچ وقت کی نمازیں ہوں گی لیکن میں ان کا ثواب اتنا ہی عنایت فرماؤں گا جتنا پچاس نمازوں کا ہے۔ علاوہ بریں تمہارے کسی امتی نے اگر نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کرنے سکا تو اُس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگر اُسے کر لیا تو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اس کے برعکس جس نے کسی بدی کا قصد کیا اور اُسے کرنے سکا تو اُس معاملے کو کالعدم شمار کیا جائے گا اور اگر اُس بُرائی کا مرتکب ہو گیا تو ایک ہی بُرائی لکھی جائے گی۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس لوٹتے وقت جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو اس امر کی اطلاع دی۔ وہ کہنے لگے، حضور! بارگاہِ خداوندی سے اور تخفیف کرو ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سلسلے میں اب بارگاہِ خداوندی میں عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ والی روایت میں ہے کہ ہر ایک نبی نے آپ سے کہا تھا، مرجبانہی صالح اور بجاٹی صالح، لیکن حضرت آدم اور ابراہیم علیہما السلام نے کہا تھا، مرجبانہی صالح اور فرزند صالح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر براق مجھے اور اوپر لے گیا یہاں تک کہ میں مستولی پر چلا گیا اور قلموں کے چلنے کی آوازیں سُنے لگا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر براق مجھے اوپر لے گیا حتیٰ کہ میں سدرۃ المنتہی تک پہنچا، جو ایسے مختلف رنگوں میں غرق تھا کہ اپنی عقل سے میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو وہ رو پڑے۔ ندا آئی کہ اموی! رونے کی کیا وجہ ہے، عرض کرنے لگے، اے پروردگار! تو نے اس نوجوان کو میرے بعد دنیا میں بھیجا لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں داخلِ جنت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ میں انبیائے کرام کی جماعت میں تھا کہ نماز کی تیاری ہو گئی۔ میں نے نماز میں اُن کی امامت کا فریضہ انجام دیا۔ آگے کسی کہنے والے نے کہا، اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مالک نامی دوزخ کا منتظم ہے اسے سلام کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی اُس کی جانب متوجہ ہی

ہوا تھا کہ اُس نے مجھے سلام کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ چل پڑے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ براق سے اترے اور اُسے ایک پتھر سے باندھ دیا، پھر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ بعض فرشتوں نے سوال کیا، اے جبریل! آپ کے ساتھ یہ کون بزرگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں۔ دریافت کیا، کیا انہیں منصب رسالت مل چکا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اثبات میں جواب دیا۔ اُن فرشتوں نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا، مرحبا ایسا بھائی اور خلیفہ کیونکہ یہ بہترین بھائی اور بہترین خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد انبیائے کرام کی ارواح مقدسہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی۔ انہوں نے ہر ایک نبی کے ارشادات عالیہ کا ذکر کیا، جن میں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام بھی ہیں۔ اُن کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات گرامی کا ذکر بھی کیا۔ اس کے بعد ارواح انبیائے کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ حضرات نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، اب میں بھی اُس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔

الحمد لله الذي ارسلني رحمة
للعالمين وكافة للناس بشيراً و
نذيراً وانزل علي الفرقان فيه
تبليانا لكل شيء وجعل امتي
تحيروا وجعل امتي امة
وسطاً وجعل امتي هم الاولون و
هم الاخرون وشرح لي صدري
ووضع عني وزري ورافع لي ذكري
وجعلني فاتحاً و خاتماً۔

نسب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے
مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا
اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا ہے لوگوں کو
بشارتیں دوں اور ڈراؤں اور مجھ پر فرق
بتانے والی کتاب نازل فرمائی، جس میں ہر چیز
کا کامل بیان ہے اور میری امت کو بہتر
اور راہِ اعتدال پر چلنے والی امت بنایا۔ میرے
امت ہی سب سے پہلے اور آخری ہیں۔ میرے
سینے کو کھولا اور مجھ سے پوچھ اتارا، میرے ذکر کو
بلند کیا اور مجھے فاتح اور آخری نبی بنایا۔

یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے کہ اسی سبب سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب سے افضل ہیں۔ اس مقدس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ پھر براق
آپ کو آسمان دنیا کی طرف لے گیا۔ اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے پر جاتے رہے اور ہر جگہ
خیر مقدم ہوتا رہا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہیٰ تک جا پہنچے۔ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچنے اور اُس کے اوصاف

بیان کرنے کے بعد سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس وقت باری تعالیٰ

شانہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب! جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

بارگاہِ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار! تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور

انھیں بہت بڑی شہنشاہی عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہمکلامی کا شرف بخشا، داؤد علیہ السلام

کو بھی زبردست شاہی عنایت فرمائی اور اُن کے لیے لوہے کو نرم اور پہاڑوں کو مطیع بنا دیا۔ سلیمان

علیہ السلام کو ایسی بادشاہی مرحمت فرمائی کہ جنِّ و النِّسَّان اور شیاطین تک اُن کے زیرِ فرمان

کر دیئے اور ایسی عظیم بادشاہی عطا فرمائی جو اُن کے بعد اور کسی کے لائق نہیں، عیسیٰ علیہ السلام

کو توریت اور انجیل کا علم بخشا اور انھیں گونگوں اور کورھیوں کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا،

زیر انھیں اور اُن کی والدہ محترمہ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا تاکہ وہ ملعون ان پر کسی طرح کا

قابو نہ پاسکے۔ باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا، اے حبیب! میں نے ساری کائنات میں سے تمھیں اپنا

حبیب چُنا لیا اور توریت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ محمد حبیب الرحمن ہیں اور تمھیں تمام انسانوں کیلئے

رسول بنایا اور تمھاری اُمت کو یہ شرف بخشا کہ وہ فضیلت میں سب سے اول اور بلحاظ زمانہ سب سے

آخری ہے۔ اُن کا خطبہ پڑھنا اُس وقت تک درست نہیں جب تک یہ شہادت نہ دیں کہ تم میرے

بندے اور رسول ہو۔ تمھیں سارے نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔

تمھیں سبعِ مثانی یعنی سات آیتوں والی سورت دی، جو صحیح قول کے مطابق سورہ فاتحہ ہے اور وہ

تمھارے سوا کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ تمھیں سورہ بقرہ کی آخری آیات دیں جو عرشِ اعظم سے

لے محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

لَا يَكُنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

نیچے کا خزانہ ہیں اور بھی کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائیں نیز تمہیں فاتح اور آخری نبی بنایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین چیزیں مرحمت فرمائی گئیں (۱) نماز پنجوقتہ (۲) سورہ بقرہ کی آخری آیات (۳) اُمت محمدیہ کا جو فرد کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائے اُسکی مغفرت ہو جائے گی اور اُس کے مہلک گناہ تک بخش دیے جائیں گے۔

حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد بَرّاق آپ کو ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہیٰ پر لے گیا اور اُس سے بھی آگے ایسے مقام تک پہنچے جس کے متعلق باری تعالیٰ شانہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بزاز نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اذان کی تعلیم کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو ایک جانور دے کر اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا، اُس جانور کو بَرّاق کہتے ہیں۔ جب فجرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہونے کا قصد فرمایا تو بَرّاق اچھلنے کودنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بَرّاق! تسلی رکھ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بارگاہِ خداوندی میں اور کوئی معزز و مکرم نہیں ہے جو تجھ پر سواری کرتا۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے اور آخر کار حجاب تک جا پہنچے جو اللہ رب العزت کی خاص تجلیات کے نزدیک ہے۔ اسی دوران میں ایک فرشتہ حجاب سے نکلا تو سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل! یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ حضور! مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں بلحاظ مکان ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے زیادہ نزدیک رہتا ہوں لیکن اپنی پیدائش سے لے کر اس وقت سے پہلے میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ اُس وقت اُس فرشتے نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجاب کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے نے ٹھیک کہا ہے، واقعی میں بہت بڑا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ پر دے کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح باقی

اذن کا ذکر کیا لیکن حَتَّىٰ عَلَى الصَّلٰوةِ اور حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ کے جواب کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے بعد اُس فرشتے نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ اقدس کو پکڑا اور ساری آسمانی مخلوق کی امامت کرنے کے لیے کہا۔ اُن میں حضرت آدم اور نوح علیہما السلام بھی تھے۔ اس حدیث کے راوی محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق پر خواہ وہ فرشتی ہو یا عرشی فضیلت و شرف حاصل ہے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا کامل و اکمل ہونا ساری ارضی و سماوی مخلوق پر دکھا دیا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حجاب کا لفظ نہیں ہے اور ویسے بھی وہ صرف مخلوق کے حق میں ہے نہ کہ خالق کے لیے۔ مخلوق سے چیزیں چھپ سکتی ہیں لیکن باری تعالیٰ شانہ اس سے پاک ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہ جائے حجاب بے شک عواس کا احاطہ کرتا ہے لیکن وہ مخلوق کی بصارت پر ہوتا ہے یعنی اُن کی نگاہ اور ادراک سے جب چاہے، جیسے چاہے اور جہاں چاہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو محبوب کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَذَٰلِكَ اَنۡهٰی عَنْ رَّبِّہِمۡ لَمۡحَظُوۡنَہٗۙ ہاں ہاں، بیشک وہ اُس دن اپنے رب

کے دیدار سے محروم ہیں۔

اور اس حدیث میں جس حجاب کا ذکر ہے اُس کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ حجاب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اُس کی عظیم سلطنت، عظمت، عجائبِ ملکوت اور شانِ جبروتی پر عین الیقین کے ساتھ اطلاع پانے سے حجاب میں رہیں۔

نیز اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کا یہ قول کہ میں باری تعالیٰ شانہ کے قرب میں رہتا ہوں، بھی ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ میں دوسروں سے عرشِ الہی کے زیادہ نزدیک رہتا ہوں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَاسْأَلِ الْقُرۡیَیۡۃَ ۙ گاؤں سے پوچھ۔

۱۵ پ ۳۰، سورہ المطففین، آیت ۱۵

۱۶ پ ۱۷، سورہ یوسف، آیت ۸۲

یہاں بھی گاؤں سے مراد اُس میں بسنے والے ہیں۔ معراج و اسراء کے بارے میں اہل حق کا نظریہ یہ ہے:

وذهب معظم السلف والمسلمین	اکابر سلف سے عام مسلمانوں تک کا یہی
الی ان الاسراء به صلی اللہ علیہ	عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
وسلم اسراء بال جسد و نفی	علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی اور بجات
الیقظة وهذا هو الحق و ذکر	بیداری ہوئی اور حق بھی یہی ہے۔ قاضی
ادلة ذلك والقائلین۔ (ص ۲۵)	عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دلائل
	نقل کیے اور جو حضرات اس کے قائل ہیں
	ان کا ذکر کیا ہے۔

رویت الہی

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رویت الہی کے بارے میں اختلاف ہے کہ (معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے) باری تعالیٰ شانہ کو چشم سر سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے؟ جہاں تک رویت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے اور انھوں نے بدلائل کثیرہ اسی بات کو ترجیح دی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو قول نقل کر کے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو مقدم رکھا ہے اور کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سب سے زیادہ مشہور قول یہی ہے اور ان تک اس روایت کے متعدد طرق ہیں جیسا کہ حاکم، نسائی اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو غلت کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رویت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ هـ
دل نے جھوٹ نہ کہا، جو دیکھا۔

أَفْتَلَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ۝ وَلَقَدْ

سَآه نَزْلَةً أُخْرَى ۝ لَ
تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے
پر جھگڑتے ہو یا اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجح ہے۔
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفاء میں فرمایا ہے، عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اس کی روایت ابو عمر مقرئ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عکرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے اور بعض متکلمین نے اس مذہب کی حکایت حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
دریافت کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے
جواب دیا، ہاں دیکھا ہے۔ نقاش نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت بیان کیا ہے کہ
انہوں نے فرمایا، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے بالکل متفق ہوں کیوں کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے اور بار بار ان الفاظ کا
اعادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اُن کا سانس بند ہو گیا۔

مُطَّلَا عَلٰی قَارِی رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ نے اپنی شرح میں فرمایا کہ راجح وہ ہے جو

۱۔ پ ۲۷، سورہ النجم، آیت ۱۳

۲۔ امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں: ۱۔

اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا

جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود

۳۔ حضرت اختر الماحدی فرماتے ہیں: ۱۔

ارضِ حرم سے عرشِ علی تک، عرشِ علی سے قصرِ دمشق تک

راہِ گزارِ سرورِ عالم، صلی اللہ علیہ وسلم

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اکثر علمائے کرام کا یہی مذہب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبِ اُسری میں اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگرچہ اس امر کا ثبوت سماع کے بغیر ممکن نہیں لیکن سماع بھی تو اس طرح ثابت ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں دے گا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نفیس فیصلہ یوں نقل فرمایا ہے:

وانکار عائشۃ وقوعہا ای الرؤیۃ
لم یکن لحديث مرؤته ولو
كان لحديث ذكرته بل اجتجت
بقوله تعالى لا تدركه الابصار
قلنا المراد بالادراك الاحاطة
اذ ذاته تعالى لا تحاط و لا
يلزم من نفی الاحاطة نفی الرؤیۃ
بدونها ثم ذكر فی الشفاء فی
ذلك ابحاثاً شریفۃ و
فوائد جمة۔
(ص ۳۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روایت
کے وقوع سے انکار کرنا کسی حدیث کی بنا
پر نہیں ہے۔ اگر ان کے علم میں ایسی کوئی حدیث
ہوتی تو ضرور اس کا ذکر کیا جاتا، اسی لیے
تو انھوں نے آیت لا تدركه الابصار
سے دلیل پکڑی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ
اس سے احاطہ کرنے والا ادراک مراد ہے
حالانکہ ذات باری تعالیٰ کا احاطہ ممکن
نہیں۔ لہذا احاطے کی نفی سے روایت کی
نفی تو لازم نہیں آتی۔ اس کے علاوہ
قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے شفاء میں عمدہ
ابحاث اور کثیر فوائد لکھے ہیں۔

شفاعت و دیگر فضائل

نبی آخر الزماں، سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بجاظ ساری
مخلوق سے بزرگ ہونے کے جن خصوصیات اور فضیلتوں کا قیامت کے روز اظہار ہوگا، ان کے
سلسلے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا، جب لوگ قبرین سے اٹھانے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے رونے سے اٹھوں گا

جب وہ ایک وفد کی صورت میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کا خطیب بنیں ہوں گا، جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو انھیں بشارت دینے والا بنیں ہوں گا۔ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اپنے رب کے نزدیک آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے مکرم ہوں اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلا میں ہوں گا اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کا قائد بنیں ہوں گا اور جب وہ خاموش ہوں گے تو ان کا خطیب بنیں ہوں گا اور جب انھیں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا تو ان کی شفاعت کرنے والا بنیں ہوں گا اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو انھیں خوشخبری دینے والا بنیں ہوں گا۔ لواء الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں جملہ اولاد آدم علیہ السلام سے زیادہ عزت والا ہوں اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔ اس روز ایک ہزار خادم میرے گرد و پھر رہے ہوں گے جو ان موتیوں کی مانند ہیں جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔

ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کی واکسی نے تصحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت کے حلقوں میں سے ایک محلہ پہنایا جائے گا۔ پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا۔ مخلوق میں سے میرے سوا وہاں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کی تحسین کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار بنیں ہوں گا اور لواء الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ آدم علیہ السلام یا دوسرا کوئی نبی ایسا نہیں جو اس روز میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ خذو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار بنیں ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت ہی منظور بارگاہ ایزدی ہوگی۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز

لواء الحمد میں نے اٹھایا ہوا ہوگا اور یہ فخریہ نہیں کہتا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی اور یہ فخریہ نہیں کہتا اور وہ میں ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، پس میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائیگا اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، میرے ساتھ غریب مسلمان بھی جنت میں داخل ہوں گے اور یہ فخریہ نہیں کہتا اور میں سب اگلے پچھلوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا (بلکہ حقیقت کا اظہار مقصود ہے)

صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سب سے پہلے میں لوگوں کی جنت کے لیے شفاعت کروں گا اور میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم والی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار میں ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیونکر ہوگا؟ (پھر خود فرمایا) اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے انسانوں کو جمع کرے گا۔ اس سے آگے حدیث شفاعت بیان فرمائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اُمید کرتا ہوں کہ قیامت کے روز تمام انبیائے کرام علیہم السلام میں ثواب میں زیادہ ہوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے: کیا تم خوش نہیں ہو گے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام تم میں ہوں؟ اس کے بعد فرمایا کہ بروقیامت وہ میری اُمت میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے: آپ میری دعا اور اولاد ہیں۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو جملہ انبیائے کرام علیہم السلام آپس میں علاقہ بھائی ہیں یعنی اُن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ میرے اور اُن کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ میں دُوروں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔

آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ میں قیامت کے روز جملہ انسانوں کا سردار ہوں گا، حالانکہ آپ دنیا میں بھی سب لوگوں کے سردار ہیں اور قیامت میں بھی سب کے سردار رہیں گے لیکن صرف قیامت کی سرداری کا تذکرہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہاں آپ کی سیادت و

شفاعت منفرد مقام رکھتی ہوگی اور آپ کے سوا لوگوں کو اور کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ سردار تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کر جانے پر مجبور ہوں، اُس روز دوسرا کوئی آپ کا مد مقابل نہ ہوگا اور نہ کوئی ایسا دعویٰ ہی کرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ
آج کس کی بادشاہی ہے؛ ایک اللہ
سب پر غالب کی۔

حالانکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے لیکن آخرت میں اُن لوگوں کے دعوے بھی منقطع ہو جائیں گے جو دنیا میں اپنے عارضی اختیار کے باعث بادشاہی کرتے تھے۔ چونکہ قیامت میں سارے ہی انسان سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے اور آپ ہی کی پناہ ڈھونڈیں گے، لہذا آخرت میں آپ سب انسانوں کے سردار ہوں گے (کیونکہ آپ کی سرداری کا انکار کرنے کی کسی کو کوئی گنجائش ہی نظر نہیں آئے گی) صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا تو خازنِ جنت پوچھے گا: آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا کہ محمد ہوں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔ وہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ صرف آپ کے لیے دروازہ کھولوں اور آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔

۱۔ اسی لیے مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ نے بتایا ہے: ۱۵

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ بزمِ محشر کا
کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

آیت ۱۶، سورہ المؤمن

۲۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے منکرینِ استمداد کو سمجھایا ہے: ۱۶

آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اُن سے
پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا: میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اُس کے کنارے برابر ہیں اور پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اُس کی خوشبو مشک سے زیادہ مہک دار اور اُس کے آنچورے آسمان کے تاروں کی طرح بکثرت ہیں، جو ایک مرتبہ اُس کا پانی پی لے گا اُسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حوض کوثر کے بارے اور بھی بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔

محبت و خلعت

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبت اور خلعت میں دوسروں پر فضیلت دے کر ممتاز فرمایا ہے۔ اس بارے میں بکثرت احادیث صحیحہ منقول ہیں اور مسلمانوں کی زبانوں پر آپ کا لقب حبیب خدا جاری و ساری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کے سوا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابوبکر کو اپنا خلیل بنانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلمانو! تمہارا نبی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ذکر کیا ہے کہ سرور کون مہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ دارمی اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ نزدیک پہنچے تو اُن میں سے ایک نے کہا تھا کہ یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخلوق سے اپنا خلیل بنایا تھا۔ دوسرے نے کہا: یہ اس سے عجیب تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہمکلامی کا شرف بخشا۔ کسی اور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ اور اُس کی جانب کی روح ہیں۔ آخری صاحب نے فرمایا: آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صافی بنایا تھا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزدیک

پہنچ گئے اور فرمایا: میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے اور تمہارا تعجب کرنا بجا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہمکلامی کا شرف بخشا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب کی رُوح ہیں اور آدم علیہ السلام کے صفی اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور یہ فخر یہ نہیں کہتا اور قیامت کے روز لواحد میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ بھی فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور وہ بھی میں ہوں کہ سب سے پہلے جس کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی اور وہ بھی میں ہوں گا جس کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی اور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا اور وہ میں ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، پس میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے غریب اُمّتی ہوں گے، یہ فخر یہ نہیں کہتا اور میں سب اگلے پچھلوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں، یہ بھی فخر کے طور پر نہیں کہتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج شریف والی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا: میں نے تمہیں اپنا خلیل ٹھہرایا اور توریت میں تمہارے متعلق لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی حبیب الرحمن ہے مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء کے ایک پُرانے نسخے پر مطلع ہوا، جس میں یہ مرقوم ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب ٹھہرایا۔ علمائے کرام کا اس میں اختلاف ہوا کہ حبیب کا درجہ بلند ہے یا خلیل کا، اکثر حضرات کا اسی پر اتفاق ہوا کہ حبیب کا درجہ خلیل سے بلند تر ہے کیونکہ ہمارے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اُن کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔

امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ نے محبت اور خلت کے بارے میں مشکوٰۃ کا کلام نقل کرتے ہوئے کافی طویل بیانات نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کا مقام خلت کے مقام سے افضل ہے۔ ہم اُس بیان کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں جس سے دوسرے بیانات خود بخود

واقع ہو جائیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خلیل واسطے اور وسیلے سے باریاب ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَكَذَلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے
ہیں ساری بادشاہی، آسمانوں اور
زمین کی۔

اور حبیب بغیر کسی وسیلے کے براہ راست بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی ۝
تو اُس جلوے اور اس محبوب میں
دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہے جس کو مغفرت کی حد درجہ طمع ہو۔ فرمان الہی ہے:

وَالَّذِيْ اَطْلَمَعَ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ
خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۚ
اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری
خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔

اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مغفرت یقین کے آخری درجے تک یقینی ہو جیسا کہ ارشاد
باری تعالیٰ ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَاَخَّرَ ۚ
تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے
اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرمادے۔

نیز خلیل وہ ہوتا ہے جو بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہو:

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝
اور مجھے رُسوانہ کرنا، جس دن سب
اٹھائے جائیں گے۔

اور حبیب وہ ہستی ہے جس سے یہ فرمایا جائے:

آیت ۵، سورۃ الانعام، آیت ۵

آیت ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت ۸۲

آیت ۵، سورۃ الانعام، آیت ۵

آیت ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت ۸۲

آیت ۵، سورۃ الانعام، آیت ۵

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ

جس دن اللہ مسوانہ کرے گا نبی اور
ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔

یعنی سوال کرنے سے پہلے ہی رسوائی سے دور رکھنے کی بشارت سنادی گئی۔ اسی طرح خلیل وہ ہے
جو بوقت مصیبت کہے:

حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ

میرے لیے اللہ کافی ہے۔

لیکن حبیب وہ ہے جس سے خود باری تعالیٰ شانہ یہ فرمائے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ۚ

اے نبی کی خبریں بتانے والے (نبی)!
اللہ تمہیں کافی ہے۔

خلیل وہ ہوتا ہے جس کو بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہونا پڑے:

وَأَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ ۚ

اور میری سچی ناموری رکھ۔

لیکن حبیب وہ ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم خود یوں فرمائے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ

اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔

گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بغیر سوال کے بلند فرما دیا۔ علاوہ بریں خلیل وہ
ہوتا ہے جو عرض کرے:

وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ ۚ

اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے
پوجنے سے بچا۔

لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جس کے گھر والوں کے جانے میں باری تعالیٰ شانہ خود یوں بشارت دے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

اللہ تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والو! کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں

۱۷ پ ۱۱، سورہ یونس، آیت ۱۲۹

۱۸ پ ۱۹، سورہ الشعراء، آیت ۸۴

۱۹ پ ۱۳، سورہ ابراہیم، آیت ۳۵

۲۰ پ ۲۸، سورہ التحریم، آیت ۸

۲۱ پ ۱۰، سورہ الانفال، آیت ۶۴

۲۲ پ ۳، سورہ الانشراح، آیت ۴

تَطْهِيرًا۔ ۱۷
پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ ۝)

شفاعت و مقام محمود
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شفاعت اور مقام محمود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت مرحمت فرمائی ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُودًا۔ ۱۸
قرب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ
کھڑا کرے گا، جہاں سب تمہاری حمد کریں۔

بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ بروز قیامت تمام لوگ مایوسی کی حالت میں بیٹھے ہوں گے۔ ہر امت اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگی کہ حضور! ہماری شفاعت فرمائیے۔ یا نبی اللہ! ہماری شفاعت کیجیے۔ آخر کار معاملہ ہمارے آقا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جا پہنچے گا۔ اُس روز اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا یعنی ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جس کو دیکھ کر سب چھوٹے اور بڑے انسان اُن کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو جائیں گے۔

مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مقام محمود تو شفاعت کرنے کی جگہ ہے۔ اسی مسند احمد میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز جب سارے انسان جمع ہوں گے تو میں اپنی امت سمیت ایک بلند ٹیلے پر ہوں گا۔ مجھے سبز رنگ کا جلتی حلتہ پہنایا جائے گا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کرنے کا اذن مل جائے گا اور میں کچھ کہوں گا یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی کہوں گا اور اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے۔

۱۷ پ ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت ۳۳

۱۸ پ ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۷۹

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اور بھی کئی روایات نقل کی ہیں، منجملہ ان کے امام احمد کی یہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سرورِ کونینؐ شفیحِ جبرماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرشِ معلیٰ کے بائیں جانب تشریف فرما ہوں گے۔ یہ ایسا مقام جہاں کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سب اگلے اور پچھلے اس پر غبطہ کریں گے یہی جگہ مقامِ محمود ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرورِ کونینؐ مکانِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو تمہاری آدمی اُمتِ جنت میں داخل کر دی جائے اور چاہو ان کی شفاعت کر لینا۔ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں پرہیزگاروں کی شفاعت کرونگا؟ شفاعت تو گنہگاروں اور خطاکاروں کی ہوگی۔ بیہقی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور حاکم نے اُس کی تصحیح کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ! آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جس نے سچے دل سے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور اُس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتی ہوگی۔

بیہقی اور حاکم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد میری اُمت جو کچھ کرے گی مجھے اُس کا علم دیا گیا ہے۔ وہ آپس میں خوزیزی کریں گے اور اس طرح ان کا حال بھی وہی ہو جائے گا جو گزشتہ اُمتوں کا ہوا تھا لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اُمت کی شفاعت کا سوال کیا تو باری تعالیٰ شانہ نے میرے سوال کو شرفِ قبولیت بخشا۔

بیہقی اور نسائی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ایک صاف میدان میں جمع کرے گا، جہاں ایک شخص اپنی آواز سب لوگوں تک پہنچا سکے اور انہیں دیکھ سکے گا۔ وہ اپنی پیدائش کی طرح نیکے ہوں گے۔ سب خاموش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی جائے گی تو آپ عرض کریں گے: اے پروردگار! میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں
تمام بھلائیاں تیرے دستِ قدرت میں ہیں اور بُرائیاں تیری جانب منسوب نہیں کی جاسکتیں۔ راہِ
ہدایت پر وہ ہے جس کو تو نے ہدایت دی۔ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ میں تیرے لیے ہی ہوں
اور تیری ہی جانب سے ہوں۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ اور کوئی جائے نجات نہیں۔ اے
ربِّ کعبہ! تیری ذاتِ بابرکت، بلند اور پاک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جس جگہ کھڑے ہو کر آپ اس طرح حمدِ الہی بیان کریں گے، وہی مقامِ محمود ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اور بھی روایات نقل فرمائی ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفاعت کرنے کے مقام کا نام مقامِ محمود ہے اور
یہی تمام صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ مسلمین کا مذہب ہے۔ ازاں بعد قاضی عیاض علیہ الرحمہ
نے حدیثِ شفاعت کو پورے طور پر نقل کیا ہے، علاوہ بریں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے
یہ ذکر کیا کہ سارے انسان مل کر فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ
ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ پھر اٹھ قائم کیا جائے گا۔ اُس پل کے اوپر سے جو حضرات سب سے پہلے
گزریں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ ان کے بعد گزرنے والے ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی
طرح، بعض دوڑتے ہوئے گزریں گے۔ مولائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اٹھ کے ایک
سرے پر کھڑے ہو کر پکار رہے ہوں گے: رَبِّ سَلِّمْ، رَبِّ سَلِّمْ۔ یعنی اے رب! بچا۔ اے
رب! بچا۔ یہاں تک کہ سب گزر جائیں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے میں پھر اٹھ سے گزروں گا۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جملہ انبیائے کرام

لے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ۱۵۷

رضا پل سے اب وجد کرتے گزریں

کہ ہے رَبِّ سَلِّمْ صدائے محمد

کے لیے منبر رکھے جائیں گے، جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے اور میرا منبر خالی رہ جائے گا کیوں کہ میں اپنے منبر پر نہ بیٹھوں گا، بلکہ بارگاہِ الہی میں خاموش کھڑا رہوں گا۔ باری تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائے گا: اے حبیب! تم اپنی اُمت کے بارے میں میرا کیا فیصلہ چاہتے ہو؟ میں عرض کروں گا: اے پروردگار! ان کا حساب جلدی لے لیا جائے۔ پس جلد ہی میری اُمت کا حساب شروع ہو جائیگا۔ اُن میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا اور بعض میری شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ مجھے کچھ لوگوں کی کتبِ فیصلہ دکھائی جائیں گی، جن پر اُن کا دوزخی ہونا مرقوم ہو گا۔ جب میں اُن کی شفاعت کر رہا ہوں گا تو دوزخ کا دار و نہ کے گاہیار رسول اللہ آپ نے تو اپنی اُمت پر اللہ تعالیٰ کی ذرا سی ناراضگی نہیں رہنے دی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں زمین کے درختوں اور پتھروں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت اور مقامِ محمود کے بارے میں اور بھی متعدد احادیث کتاب الشفّاء میں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے فرمایا ہے، اگرچہ احادیث کے الفاظ مختلف ہیں لیکن اس بات پر اُن کے مضامین متفق ہیں کہ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور مقامِ محمود پر کھڑے ہونے کا معاملہ تھوڑی دیر کی بات نہیں بلکہ آپ کی شفاعت کا سلسلہ شروع سے آخر تک جاری رہے گا۔ جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اُن کا سانس تک گھٹنے لگے گا۔ پسینہ بہہ رہا ہو گا۔ سورج بالکل نزدیک ہو گا۔ کھڑے کھڑے بہت دیر ہو جائے گی یہاں تک کہ پریشانی کی انتہا ہو جائے گی۔ گویا اس حالت کو حساب سے پہلے ہی پہنچ گئے ہوں گے۔ اُس وقت آپ اس مقام سے نجات دلانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد پُلِ صراط قائم ہو گا

۱۔ حسن بریلوی علیہ الرحمہ نے خوب حقیقت بیان فرمائی: یہ

فقط اتنا سبب ہے انقیادِ بزمِ محشر کا

کہ اُن کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ جلد از جلد ان حضرات کو جنت میں پہنچائیں گے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے جن کے لیے عذاب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض دوزخ میں داخل بھی کر دیے ہوں گے۔ یہ تمام امور احادیث صحیحہ سے صریحاً ثابت ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے جنہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ لینے کے علاوہ اور کوئی نیکی نہ کی ہوگی۔ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اس قسم کی شفاعت کرنے کا کوئی اور مجاز نہیں ہوگا۔

مشہور صحیح حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو ایک ایک دُعا کرنے کا حق دیا گیا۔ انھوں نے وہ حق استعمال کر لیا لیکن میں نے اپنا یہ حق محفوظ رکھا تھا، جو شفاعت کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ قیامت کے روز میں اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا۔ وہ دُعا جس کا ہر نبی کو حق دیا گیا تھا، اپنی اپنی اُمت کے متعلق تھی۔ دیگر انبیائے کرام کو ان کی اُمتوں کی جانب سے جو باری تعالیٰ شانہ نے جزا دی، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیراً کثیراً۔

تقاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب و وسیلہ اور حوضِ کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت میں وسیلہ اور کوثر کے ساتھ فضیلت دی ہے اور انھوں نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو داؤد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مؤذن کے کلمات سُنو تو اُس کی طرح ہی کہتے جاؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر اپنی دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دُعا کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا۔ مجھے اُمید ہے کہ جو اس مقام سے نوازا جائے گا، وہ میں ہوں۔ جو میرے لیے وسیلہ کی دُعا کرے گا، اُس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔

دوسری حدیث میں ہے، جو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک نہر آئی، جس کے دونوں جانب موتیوں کے جُتے تھے۔ میں نے جبریل سے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی تو وہ حوض کوثر ہے جو باری تعالیٰ نے آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی مٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دکھایا کہ وہ مُشک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی کچھ مروی ہے لیکن ان کی روایتوں میں اتنی بات زیادہ کہ نہر کوثر یا قوت اور موتیوں پر بہتی ہے۔ اُس کا پانی شہد سے شیریں اور برف سے زیادہ سفید ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ حوض زمین پر بہتا ہے اور اُس کی زمین میں گہرائی نہیں ہے۔ شفاعت کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ برات کی شکل میں اُسی حوض کوثر کے کنارے اُترے گی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کے بارے میں اور بھی متعدد احادیث نقل کی ہیں، جو اُن پر مطلع ہونا چاہتا ہے، اُسے چاہیے کہ کتاب الشفا کا مطالعہ کرے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفاء میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ اسمائے نبی وسلم کے مقدس اور پیارے پیارے نام مع فضائل بیان کیے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ میرا نام حاجی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا اور میرا نام حاشر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کا حشر میرے قدموں میں کرے گا، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا اسم مبارک مُحَمَّدٌ اور أَحْمَدٌ بتایا ہے۔ علاوہ بریں یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اسمائے مقدسہ میں مدح و ثنا بھی موجود ہے۔ اس طرح اسماء النبی کے بیان کرنے میں عظیم شکر گزاری رکھ دی گئی ہے آپ کا اسم گرامی أَحْمَدٌ، یہ اَفْعَلُ کے وزن پر حمد کا مبالغہ ہے یعنی خدا کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا اور مُحَمَّدٌ، یہ مُفَعَّلُ کے وزن پر ہے گویا مبالغہ بوجہ کثرتِ حمد، یعنی بہت ہی زیادہ تعریف کیا گیا۔

پس سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی تعریف کرنے میں سب سے بڑھ کر اور تعریف کیے گئے کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تمام انسانوں کی نسبت کثرتِ حمد کے باعث آپ سب تعریف کرنے والوں سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں اور ان سب سے زیادہ تعریف کیے گئے ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ علاوہ بریں لواد الحمد بھی تو بروز قیامت آپ ہی کے دستِ مبارک میں ہوگا تاکہ سب آپ کے منصب پر مطلع ہو کر شایانِ شان تعریف کریں اور حشر کے میدان میں چونکہ آپ نے سب کی شفاعت کی ہوگی لہذا سب لوگ آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوں گے۔ بروز قیامت اس طرح محامد کا دروازہ صرف آپ کے لیے مفتوح ہوگا جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیائے کرام کی جانب بھیجی ہوئی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ کا نام حمادین رکھا، کہ وہ لوگ خدا کی بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے، لہذا فخرِ دو عالم علیہ السلام ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کا اسمِ مبارک ہی محمد اور احمد رکھا جاتا۔ ان دونوں ناموں میں جہاں عجیب خصائص اور بدیع آیات ہیں وہاں ایک نرالی بات یہ بھی ہے کہ سرورِ کون و مکن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے باری تعالیٰ شانہ نے جملہ انسانوں کو کسی مولود کا نام محمد یا احمد رکھنے سے روک رکھا۔

گزشتہ کتب سماویہ میں جو اسمِ احمد کا ذکر آیا ہے اور انبیائے کرام نے ان کی آمد کی خوشخبری سنائی، بایں وجہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان ناموں کے رکھنے سے روک رکھا، تاکہ نہ کسی کا یہ نام رکھا جائے اور نہ کوئی اس نام سے پکارا جائے اور اس طرح کمزور دل والے بھی شک و شبہ کے مرض سے بچے رہیں گے کیونکہ انھیں یہ شک ہو سکتا تھا کہ جس احمد کی بشارت دی گئی ہے شاید وہ یہی ہو، بایں وجہ آپ سے پہلے کسی عربی یا عجمی کا نام محمد بھی نہیں رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی ہے، جن کا اسمِ مبارک محمد ہوگا۔ اس شہرت کے پیش نظر آپ کی قوم میں کتنے ہی بچوں کے نام محمد اس امید پر رکھ دیے گئے کہ شاید ہمارے ہی بچے کو وہ منصب مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اُس نے رسالت کے منصب سے

کس کو سرفراز کرنا ہے۔ بہر حال جن بچوں کا نام محمد رکھ دیا گیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے روک رکھا حتیٰ کہ دوسرے اشخاص بھی ان کے متعلق ایسا دعویٰ نہ کر سکے اور نہ ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو سکی جس کے باعث لوگوں کو آپ کی نبوت میں شک کرنے کی گنجائش مل سکتی۔ یہاں تک کہ آپ کی جلوہ گری کے ساتھ آپ کے دونوں اسمائے طیبہ و مبارکہ کی علامتیں اور دلائل سامنے آئے اور اظہر من الشمس ہو گیا کہ وہی محمد اور احمد صرف اور صرف آپ ہی کی ذات بابرکات ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

فردو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ میں مسیحی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کفر کو مٹائے گا۔ حدیث نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے۔ رہا کفر کا مٹنا تو اس سے مراد یا مکہ معظمہ سے کفر کا مٹنا مراد ہے یا سارے جزیرہ عرب سے یا جتنی زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے اور جس کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا ہے کہ امت محمدیہ وہاں تک غالب ہوگی علاوہ بریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ موعوم عام ہو، جو ظہور اور غلبہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - تاکہ اسے (اسلام کو) تمام ادیان پر غالب کرے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں۔ بعض علمائے کرام کا خیال ہے کہ پانچ بایں وجہ فرمایا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کے یہ پانچوں نام مذکور ہیں اور علمائے ائم سابقہ آپ کے ان ناموں سے متعارف تھے ورنہ آپ سے دس نام بھی منقول ہیں، جن میں سے طہ اور یسین بھی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا: میرے دس نام ہیں۔ پانچ تو وہی جو پہلی حدیث میں مذکور ہیں اور دوسرے پانچ کے بارے میں فرمایا کہ میں رسول الرحمة یعنی پیغمبر رحمت

لے پ ۱۰، سورہ التوبہ، آیت ۳۳ عہ جلالان لوگوں کی جرأت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جنہوں نے عرب کی سرزمین میں ایک جُست پرست جواہر لال نہرو کا مٹی ۱۹۵۵ء میں یازدہ سؤل اسلام کے نعروں سے استقبال کیا تھا اس کے باوجود وہ لوگ توحید کے علیہ دار بننے اور مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں۔ (داختر)

ہوں اور رسولُ الرَّاحَةِ یعنی مخلوقِ خدا کو راحت پہنچانے والا رسول ہوں اور رسولُ الْمَلَامِ
ہوں اور مُقَفِّی ہوں کہ میری آمد سے انبیائے کرام کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا اور میں قیِّم ہوں۔
یہ وہی ہوتا ہے جو مخلوق کے تمام کمالات کا جامع ہو۔ دیگر انبیائے کرام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ
حضرت داؤد علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگار! محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما جو فترت کے بعد سنت کو قائم کریں اور لفظ قیِّم
اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔

دوسری حدیث میں مُدَّتُو، مُزَمِّلُ اور عَبْدُ اللہ کا مزید ذکر ہے۔

ایک حدیث میں خاتم، ایک میں نَبِیُّ التَّوْبَةِ، نَبِیُّ الْمُلْحِمَةِ، نَبِیُّ الرَّحْمَةِ اور
نَبِیُّ الرَّاحَةِ مذکور ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے
جہان کے لیے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف
بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہٴ نفوس کرتے ہیں (مُزَكِّیُّ)، انہیں کتاب اور حکمت
سکھاتے ہیں (مُعَلِّمُ)، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں (هَادِیُّ)
اور وہ مسلمانوں پر شفیق و مہربان ہیں (رَؤُوفٌ، رَحِيمٌ)۔ پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت کا لقب اُمتِ مرحومہ رکھا ہے اور اُس کی تعریف یوں
بیان فرمائی:

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالرَّحْمَةِ ۝

اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں
کیں اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں
کیں۔

۱۷ پ ۱، سورۃ الانبیاء، آیت ۱۰۷

۱۸ پ ۳۰، سورۃ البلد، آیت ۱۷

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے نبی بھی ایسا مبعوث فرمایا جو اپنی امت کے لیے رحمت ہے اور ساری مخلوق کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ ایسا نبی ہے جو سب کے لیے اپنا دامن رحمت وسیع کیے ہوئے ہے اور بارگاہ خداوندی سے بھی ان کے لیے رحم و کرم اور بخشش کی التجائیں کرتا رہتا ہے اور اُس کی امت رحم کرنے کے باعث سراہی گئی۔ اُنہیں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کا حکم بھی دیا اور اس خوبی کی وجہ سے اُن کی تعریف بھی کی۔ اسی لیے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اُن بندوں کو دوست رکھتا ہے جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی یارانِ رحمت نازل کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔

آپ کا اسم مبارک نَبِیُّ الْمُدْحِجِہ اسی لیے ہے کہ آپ قتال اور تلواروں کے بھیجے گئے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ حربی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ قَہْمٌ ہیں یعنی مجموعہ خیر و برکت کیونکہ قَہْمٌ بھلائی جمع کرنے والے کو کہتے ہیں اور آپ کا یہ اسم گرامی بھی کا شانہ نبوت کے ہر فرد کو معلوم تھا۔ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد القاب بھی قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں جن سے باری تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں آپ کی ذات مراد لی ہے اور وہ مذکورہ بالا اسماء النبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے علاوہ ہیں جیسے النور، السراج، المنیر، المنذر، النذیر، المبشر، البشیر، الشاہد، الشہید، الحق المبین، خاتم النبیین، الرؤف الرحیم، الامین، قدم الصدق، رحمۃ للعالمین، نعمۃ اللہ، العروۃ الوثقی، الصراط المستقیم، النجم الثاقب، الکریم، النبی الامی اور داعی اللہ وغیرہ جو اور بھی اسمائے جلیہ متعدد اوصاف کریمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض نووہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں، انبیائے کرام کے صحیفوں اور احادیث نبوی میں مذکور ہوئے ہیں اُمت مرحومہ کی زبانوں پر آپ کے القاب میں سے کتنے ہی الفاظ اور جملے چڑھے ہوئے ہیں، جیسے مُطَفِّی، مُجْتَبٰی، ابو القاسم، حبیب خدا، رسول اللہ، شفیع، مشفع، مشتقی، مصلح، طاہر،

مبین، صادق، مصدوق، ہادی، سرورِ انس و جان، سید المرسلین، امام المتقین، قائد
 الغر المحجلین (یعنی پنج کلیانوں کے گروہ کا سردار)، اللہ کا خلیل، صاحبِ حوضِ کوثر، صاحب
 الشفاعت، صاحبِ مقامِ محمود، صاحبِ الوسیلہ، صاحبِ الفضیلہ، صاحبِ درجہ رفیع،
 صاحبِ تاج و معراج، صاحبِ لواء الحمد والقضیب، راکبِ براق، ناقہ سوار، نجیب،
 صاحبِ حجت، شہنشاہِ دو جہاں، نبیِ آخر الزماں، صاحبِ معجزاتِ کثیرہ وافرہ اور صاحبِ
 المراۃ والتعلین وغیرہ۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وبارک وسلم۔

پہلی آسمانی کتابوں میں فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ اسمائے طیبہ
 بھی مذکور ہیں: المتوکل، المختار، مقیم سنت، مقدس، روح القدس، روح الحق اور انجیل
 میں جو فارسی قلیط کا لفظ آیا ہے اُس سے روح الحق ہی مراد ہے۔ ثعلب نے کہا کہ فارسی قلیط وہ ہے
 جو حق و باطل میں خطا اختیار کھینچ دے۔ پہلی کتابوں میں آپ کا ایک اسم گرامی ماذ بھی مذکور ہے
 جس کا مطلب طیب، طیب ہے۔ ان کے علاوہ حمطایا، خاتم اور حاتم بھی مذکور ہیں۔ کعب احبار
 نے ذکر کیا کہ ثعلب کا قول ہے: خاتم سے یہ مراد ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے انبیائے کرام کی
 آمد کا سلسلہ بند ہو گیا اور حاتم کا یہ مطلب ہے کہ آپ اخلاقِ عالیہ اور حسن و جمال کے لحاظ سے
 ممتاز ترین ہوں گے اور سریانی زبان میں حاتم کو مشغ منحنما کہا جاتا ہے۔ توریت میں آپ کا نام
 ارجید بھی ہے اور ابن سیرین نے اس کی روایت کی ہے۔ صاحبِ قضیب سے تلوار والا مراد ہے
 انجیل میں یہ وضاحت سے مذکور ہے کہ نبیِ آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے
 تو ان کے ساتھ لوہے کی تلوار بھی ہوگی، جس کے ساتھ وہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے
 اور ان کی اُمت بھی ایسا ہی کرے گی۔ قضیب کے معنی میں طاقت ور اور مضبوط ہونے کا بھی
 احتمال ہے۔

ہرادہ سے مراد عصا ہے یعنی نبیِ آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 دستِ اقدس میں لاٹھی ہوگی۔ اس بارے میں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ شاید یہ
 اُس حدیثِ حوض کے پیشِ نظر ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں مینی لوگوں کو حوضِ کوثر سے
 لاٹھی مار مار کر بھگا دوں گا کیونکہ وہاں کے بعض بد نصیبوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی تسلیم کر لیا تھا۔

اور اسی عقیدے پر وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے

التاج سے مراد علامہ ہے۔ اُس وقت عربوں کے سوا اور کسی کے سر پر
 علامہ نہیں ہوتا تھا علامہ عربوں کا تاج ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسمائے طیبہ، القاب بلحاظ اوصافِ کریمہ کتابوں میں اور بھی مذکور ہیں
 لیکن ہم نے صرف انہی پر اکتفا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم
 سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فخر و وعالم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے
 بارگاہِ نبوی میں حاضر ہو کر یوں سلام عرض کیا: اَسْلَامٌ عَلَيْكَ يَا اَبَا اَبْرَاهِيْمَ رَاے اَبُو اَبْرَاهِيْمَ
 آپ پر سلامتی ہو

فقیر یوسف بن اسمعیل نہانی عفا اللہ عنہ (مولفِ جواہر البحار) کہتا ہے کہ
 جستجو اور تلاشِ بسیار سے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آٹھ سو بیس سے چند زیادہ اسمائے
 طیبہ معلوم کیے ہیں، جنہیں میں نے ایک قصیدے میں جمع کیا ہے، جس کا نام اَحْسَنُ التَّوَسَّاتِلِ
 فِيْ اَسْمَاءِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ ہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں تشریح علیحدہ علیحدہ حروفِ تہجی
 کے لحاظ سے لکھا ہے اور ساتھ ہی کچھ ضروری اور مناسب شرح بھی لکھ دی ہے۔ مذکورہ اسمائے گرامی
 کے متعلقہ اہم فوائد ایک علیحدہ مستقل کتاب میں لکھے ہیں، جس کا نام اَلْاَسْمَاءُ فِيْمَا لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَسْمَاءِ رکھا ہے۔ چونکہ اس کتاب کی قصیدہ مذکورہ کے ساتھ
 طباعت ہو چکی ہے لہذا اُس کے مندرجات کو اس کتاب میں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن
 اُن میں سے چند ایسے اسمائے طیبہ کا ذکر نا ضروری خیال کرتا ہوں جو باری تعالیٰ شانہ کے

لے جھوٹے مدعیانِ نبوت کے پیروکاروں کے بارے میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظریہ۔ (اختر)
 لے سرور کہوں کہ مالک و مولیٰ کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیب کہوں تجھے
 تیرے تو وصفِ عیبِ تنہا ہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہا، میں کیا کیا کہوں تجھے
 لیکن رضائے ختمِ سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے
 (مجدد ناتہ حاضرہ)

اسمائے حسنیٰ ہیں لیکن اُس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مرحمت فرمائے اور ایسے کل اسمائے گرامی جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی زینت اور خوبصورتی بخشی، اُن میں سے میں اکائشی پر مطلع ہو سکا ہوں، جنہیں اپنی کتاب الاسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ مذکورہ کے مقدمہ میں چوتھے فائدے کے تحت بیان کر چکا ہوں۔

میں (علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ) کہتا ہوں کہ مواہب لدنیہ میں امام خطیب قسطلانی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے اسمائے طیبہ اور القاب قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ایک جماعت ان کی تلاش و جستجو میں منہمک ہوئی، جو ایک خاص عدد تک پہنچی۔ بعض نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ننانوے نام تحریر فرمائے ہیں، گویا باری تعالیٰ شانہ کے اسمائے حسنیٰ جو ایک حدیث میں مذکور ہیں اُن سے موافقت دکھائی ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت مرحمت فرمائی ہے کہ اپنے تین ناموں کے ساتھ آپ کو مختص فرمایا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عینی تعداد میں اسماء النبی مذکور ہوئے ہیں، کُل اتنے ہی نہیں بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب لدنیہ کے چھٹے مقصد میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ستر ناموں کے ساتھ آپ کو خاص فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کے اسمائے مقدسہ واضح ہے۔

اس کے بعد علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ عنقریب اُن کا بیان آپ دیکھیں گے پھر حروفِ نہجی کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ آپ کے اسمائے طیبہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تینوں روایات کے ساتھ اُن کو جمع کروں جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کی تعداد میں وارد ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے اسماء کے بارے میں جو روایت کیا گیا ہے، اُن تمام مرویات کو میں نے اپنی کتاب الاسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ بِاسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ میں جمع کیا ہے۔ میں (علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی) نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ جو مذکورہ کتاب میں حروفِ تہجی کے لحاظ سے جمع کیے گئے ہیں اُن میں سے اکاشی نام ایسے ہیں جو باری تعالیٰ شانہ کے ناموں میں سے ہیں۔ یہ تعداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں روایات سے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔

ایسے اسمائے حسنہ یہ ہیں: الاول، الآخر، الاحد، الاکرم، البصیر، الباطن، البر، البدیع، البرہان، الجبار، الجلیل، الجامع، الحکم، الحکیم، الحفیظ، الحق، الحمید، الحی، الحافظ، الخافض، الخیر، ذو الفضل، ذو القوۃ، الرافع، الرقیب، الرؤف، الرشید، الرحیم، السلام، السميع، السریع، الشاکر، الشکور، الشہید، الشهيد، الصادق، الصبور، الطاہر، العزیز، العظیم، العدل، العظیم، العلی، العفو، العالم، الغفور، الغنی، الفتح، الفرد، القوی، القریب، القائم، الکریم، الکافی، الکفیل، الملک، المؤمن، المصین، المحیب، المجید، المتین، المحی، الماحد، المقدم، المقسط، المعنی، المبین، المنیب، الملیک، المعطی، المنیر، النور، الہادی، الوہاب، الواسع، الوکیل، الولی، الواحد، الوالی، الوافی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم)

فائدہ قاضی ابوالفضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ناموں کی آخری نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوشاک پہنائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس فصل میں ایک نکتہ بیان کیا جائے اور اُس پر اس قسم (باب) کو ختم کروں گا۔ اُس نکتے سے ہر کم عقل اور بد فہم کا وہ اشتباہ دور ہو جائے گا جو اُسے گزشتہ بیان میں ایک حدیث سے پیدا ہو گیا ہو گا۔ یہ نکتہ اُسے شبہ کی کھٹن راہوں سے بچائے گا اور جھوٹ کی ملاوٹ سے دور رکھے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی عظمت، کبریائی، بادشاہی، اسمائے حسنی اور اعلیٰ صفات میں مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں اور نہ مخلوق کا کوئی فرد اُس کے مشابہ ہو سکتا ہے لیکن جن الفاظ کا اطلاق شریعتِ مطہرہ میں خالق اور مخلوق دونوں پر ہوا ہے، حقیقت میں مشابہت وہاں بھی نہیں ہے کیونکہ ذاتِ قدیم کی صفات اور مخلوق کی صفات بالکل مختلف ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور مخلوق میں کوئی مماثلت نہیں، اسی طرح باری تعالیٰ شانہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں بھی کوئی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی صفات کو عرض و غرض سے جدائی نہیں جبکہ

اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہے۔ علاوہ بریں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور صفات یہ اُس کی ذات سے جدا نہیں ہوتے نہ ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں باری تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد کافی وافی ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ اُس جیسا کوئی نہیں۔

اللہ تعالیٰ اُن عارف اور محقق علمائے کرام کو شاداں و فرحاں رکھے جنہوں نے فرمایا ہے کہ توحید سے مراد ایک ایسی ذات کا اثبات ہے جو کسی بھی ذات کے مشابہ نہ ہو اور اپنی صفات سے کبھی معطل نہ ہو۔ واسطی علیہ الرحمہ نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے بیان کیا اور اسی آیت سے یہ دلیل پکڑی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مانند کوئی ذات نہیں، اس کے نام کی طرح کسی کا نام نہیں، اُس کے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں، اُس کی صفات جیسی کسی ہیں کوئی صفت نہیں۔ اگر بظاہر الفاظ کی خالق اور مخلوق کے ناموں میں مطابقت نظر آئے تو یہ صرف الفاظ ہی کی مناسبت سے ورنہ اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات اس سے منزہ ہے کہ اُس کی کوئی صفت حادث ہو اور اسی طرح مخلوق میں صفت قدیمہ کا پایا جانا محال ہے۔ یہی اہل حق و صداقت یعنی اہلسنت و جماعت کا مہذب مذہب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان کو مزید واضح کرنے کی خاطر اس کی تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکایت توحید کے جامع مسائل پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق یعنی حادث کی ذات کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ ذات باری تعالیٰ تو اپنے وجود میں مستغنی بالذات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فعل مخلوق کے افعال کی مانند کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کسی فائدے کے حصول یا نقص کو دفع کرنے کے لیے ہے، اُس میں خواہش کی تکیل یا اغراض کو حاصل کرنے کا فعل نہیں اور اُس میں کسی قسم کی مباشرت یا اسباب کی اعانت نہیں جبکہ مخلوق کے افعال ان امور سے خالی نہیں ہوتے۔

ہمارے دوسرے بعض مشائخ عظام نے فرمایا ہے کہ تم جو کچھ اپنے وہم و گمان یا عقل سے معلوم کر لیتے ہو وہ تمہاری ہی طرح حادث ہے۔ امام ابو المعالی جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے

لہ پ ۲۵، سورۃ الشوری، آیت ۱۱

فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لینے پر ہی مطمئن ہو جائے اور اُس کے فکر کی یہی آخری حد ہو تو جان لینا چاہیے کہ وہ مُشَبَّہ (یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ دینے والا) جیسے ابن حزم و ابن تیمیہ وغیرہ اور اُن کے پیروکار (اور جو شخص خدا کے سوا دوسروں کی نفی کرنے پر ہی مطمئن ہو جائے وہ مُعْطَل ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کو بے بس سمجھنے والا) اور جو اُس کے وجود کا یقین رکھتا ہو لیکن ذات و صفات باری تعالیٰ کی حقیقت کو معلوم کر لینے سے عاجزی کا اقرار کرے وہ اصلی مَوْجِد ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرے کہ اشیاء پر اُس کی قدرت بغیر چارہ جوئی اور اسباب کے ہے۔ اُس کا صنع مزاج کے دخل اور علت سے خالی ہے۔ ہر چیز اُس کا صنع ہے اور وہ اپنے صنع کے لیے علت کا محتاج نہیں۔ جو چیز تیرے وہم میں سما سکے ذات باری تعالیٰ اُس سے وری ہے۔ یہ کلام عجیب، نفیس اور محققانہ ہے۔ اس کا آخری حصہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی تفسیر ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ دوسرا حصہ اس فرمان الہی کی تفسیر ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ۔ ۱ اُس (خدا) سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے۔

اور تیسرا حصہ باری تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد کی تفسیر میں ہے کہ:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنُ

فَيَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ۲ ہوتا ہے کہ ہم کہیں، ہو جا، وہ ہو جاتی،

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اثبات توحید اور تقدیس و تنزیہ کے عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور تشبیہ و تعطیل سے بچائے جو ضلالت اور گمراہی کے راستے ہیں۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وبارک وسلم۔

معجزات سید المرسلین

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا کی القسم الاول کے چوتھے باب میں فرمایا ہے اور یہ باب انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور خصائص و کرامت ہی کے لیے مختص کیا ہے کہ اس باب میں ہم اُن مشہور معجزات کا ذکر کریں گے جو دیگر کتنے ہی معجزات کے سرچشمے ہیں تاکہ یہ باب اظہر من الشمس ہو جائے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ خداوندی میں کیسی عظیم قدر و منزلت ہے۔ اس سلسلے میں ہم تحقیق شدہ اور صحیح احادیث مقدسہ ہی پیش کریں گے، جن میں سے اکثر توحید یقین کو پہنچی ہوئی ہیں اور بعض اُن کے قریب تر ہیں۔ کچھ ایسی روایات بھی ہم نے پیش کی ہیں جو مشہور اکابر یعنی ائمہ دین کی تصانیف میں موجود ہیں یعنی انہوں نے جن سے استناد کیا ہے۔ جب ایک منصف مزاج آپ کے اُن حالات میں غور و فکر کرے، جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوشنما نقوشِ قدم، قابلِ تعریف سیرت، علمی رفعت، عقلی کمالات، حلم اور مجملہ کمالاتِ عالیہ و خصائلِ محمودہ اور ارشاداتِ مقدسہ کے بارے میں بیان کیا ہے، تو اُسے آپ کی نبوت اور دعوت کی صداقت و صحت کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ملے گی اور یہی ایک بات مسلمان ہونے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے ترمذی اور ابن قانع وغیرہما سے اُن کی اسانید کے ساتھ روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (ہجرت کر کے) مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی یقین حاصل ہو گیا کہ جھوٹے آدمی کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا۔

۱۔ جو حسینانِ عالم سے ہے خوب رُو
جس پر حُسنِ آفریں کو بھی پیار آگیا
(اختر شاہ بہا پوری)

ابورثہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میرے ساتھ میرا لڑکا بھی تھا۔ مجھے آپ کی زیارت کرنے کا موقع دیا گیا تو اُس معجز نما ہستی کو دیکھتے ہی یقین آگیا کہ وہ سچا نبی ہے۔ امام مسلم اور بعض دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کہ جب ایک شخص ضما د نامی آپ کی خدمت میں بصورت وفد حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس وفد کے سامنے فرمایا:

ان الحمد لله نحمده و
نستعينه من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له واشهد
ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له وان محمداً
عبده ورسوله۔ (ص ۵۵)

بیشک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم
اُسی کی حمد بجالاتے ہیں اور اُسی سے مدد
چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے لے
کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جو گمراہ ہو جائے
اُسے کون ہدایت دے؟ میں گواہی دیتا
ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ
ایکلا ہے۔ اس کا شریک کوئی نہیں اور
بے شک محمد اُس کا بندہ اور اُس کا

رسول ہے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

ضماد نے یہ کلمات مقدمہ سُنے تو کہنے لگا: آپ بار بار یہ کلمات دہراتے رہیے، یہ تو بحر حقیقت
کی تہہ کے موتی ہیں۔ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ (رضی
اللہ تعالیٰ عنہ)۔ جامع بن شداد کا بیان ہے کہ ہم میں طارق نامی ایک آدمی تھا۔ اُس کا بیان ہے
کہ میں نے مدینہ منورہ میں سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل
کیا تھا۔ اُسی دوران میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا: کیا
تمہارے پاس فروخت کرنے والی کوئی چیز ہے؟ ہم نے جواب دیا: یہ اونٹ ہے۔ آپ نے
قیمت پوچھی تو ہم نے کچھ وستی کھجور اُس کی قیمت بتائی۔ آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی اور لے کر
چلے گئے۔ ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ایک اجنبی شخص کے ہاتھوں اونٹ فروخت کر دیا اور
یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ

کہنے لگی: آپ کے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں ہوں۔ میں نے اونٹ خریدنے والے شخص کا چہرہ انور دیکھا ہے جو چودھویں رات کے چاند کی طرح دکھتا تھا۔ ایسا شخص تمہارے ساتھ بد عہدی نہیں کر سکتا۔ صبح ہوتے ہی ایک آدمی کھجوریں لے کر آیا اور کہنے لگا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے پاس یہ کھجوریں دے کر بھیجا ہے۔ ان کا وزن کر کے قیمت پوری کر لو۔ چنانچہ ہم نے اس طرح مطلوبہ کھجوریں وصول کر لیں۔

جلندی شاہ عمان کے بارے میں منقول ہے کہ اُسے جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اُسے اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو اُس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، مجھے اس اُمتی نبی کے برحق ہونے پر اس بات نے دلالت کی کہ وہ اس وقت تک کسی بھلائی کا حکم نہیں دیتے جب تک خود اُس پر عمل کر کے نہ دکھائیں اور اُس وقت تک کسی بُرے کام سے منع نہیں کرتے جب تک خود اُس سے اجتناب نہ کریں۔ جب وہ کسی پر غلبہ پالیتے ہیں تو مغرور نہیں ہوتے اور جب مغلوب ہو جاتے ہیں تو مایوس نہیں ہوتے۔ ایفاے عہد کرتے ہیں، وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں۔ ارشادِ ربانی:

يَكَادُ تَرِيَّتُهَا يُضَيُّ وَكَوْلُكُمْ قَرِيبٌ هِيَ كَأَنَّ كَاتِلَ بَهْرُكٍ أُسْطُ
تَمَسُّهُ نَارًا۔ لے اگرچہ اُسے آگ نہ چھوئے۔

کی تفسیر میں نفطویہ نے کہا کہ یہ ایک مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی ہے، یعنی اُسے حبیب! خواہ تم قرآنِ کریم کی تلاوت کر کے کسی کو نہ بھی سنار ہے ہو گے، اُس وقت بھی تمہاری رویت ہی تمہاری نبوت پر دلالت کر رہی ہو گی۔ اسی طرح ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے: ۛ

لَوْ كُنْتُمْ تَكُنُّ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ

فَكَانَ مَنْظَرُهُ يَسْتَبْكُ بِالْخَبَرِ

معجزات و قرآنِ کریم قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

معجزات کو اچھے پیرائے میں اور مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ ابتداء اعجاز القرآن سے کی ہے۔ اعجاز القرآن کے بکثرت وجوہ بیان فرمائے ہیں، جن پر مطلع ہونے کے بعد ایک منصف مزاج یہ یقین کر لینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے کسی میں یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کسی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لے آئے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد مختلف معجزات کا ذکر کیا ہے مثلاً چاند کا دو ٹکڑے ہو کر زمین کے قریب آنا اور واپس چلا جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر ادا کروانے کے لیے سورج کو غروب ہونے سے واپس بلانا، انگشت ہائے مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونا، آپ کی برکت سے پانی جاری ہو جانا، آپ کے مس کرنے اور دعا کرنے سے چیزوں کا نامعلوم طریقے پر بڑھ جانا، آپ کی برکت اور دعا سے کھانے پینے کی چیزوں کا زیادہ ہو جانا، درختوں کا کلام کرنا اور آپ کی نبوت کی گواہی دینا، درختوں کا آپ کے بلانے پر حاضر ہو جانا، خانہ ستون کا واقعہ، جمادات و حیوانات سے متعلق جو معجزات ظاہر ہوئے، مردوں کا زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کر دینا، دعاؤں کا فوراً قبول ہونا، یہ ایک وسیع اور انوکھا باب ہے (یعنی ایمان افروز باب ہے)، موجودات خارجیہ جنہیں آپ نے مس کیا، اُن کا آپ کی برکت و کرامت سے ماہیت تبدیل کر لینا نیز:

وما اطلع علیہ من الغیوب	اور جو آپ غیب پر مطلع ہیں، اُن میں سے
فیما کان وما یكون والا حادیت	یہ بھی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا اور جو ہونوالا
فی هذا الباب بحولہ بیدرک قعرہ	ہے۔ اس بات کے ثبوت میں اتنی احادیث
ولا ینزف غمرہ وهذا المعجزة	موجود ہیں کہ گویا سمندر ہیں جس کی تہہ نہیں
من جملة معجزاتہ صلی اللہ علیہ	مل سکتی اور نہ اُس کا پانی نکالا جاسکتا ہے۔
وسلم المعلومۃ علی القطع الواصل	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ
الینا خیرھا علی التواتر لکثرة	معجزات جن کا علم ہمیں قطعی طور پر ہے اور
روایتھا واتفاق معانیھا علی	کثیر التعداد راویوں کے ذریعے ہمیں تواتر

الاطلاع على الغيب حتى ان
كان بعضهم يقول لصاحبه اسكت
فوالله لو لم يكن عنده من يخبره
لا خبرته حجارة البطحاء۔

(ص ۷)

کے طور پر پہنچے ہیں اور جن کے مفہوم و معانی
پر اتفاق ہے، اُن میں سے آپ کا غیب پر
مطلع ہونے کا معجزہ بھی ہے۔ صحابہ کرام
کا اس پر یہاں تک یقین تھا کہ جب کوئی
اپنے ساتھی سے بات کرتا، تو دوسرا کہتا:
خاموش رہو۔ خدا کی قسم اگر حضور کے پاس
اور کوئی خبر دینے والا نہ ہوا تو بھلا کے پتھر بھی
اُنہیں بتا دیں گے۔

اس کے علاوہ قیامت کی نشانیاں بتانا نیز حشر و نشر اور قیامت کے حالات بتانا، حالانکہ اس
فصل کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے، جو کتنے ہی اجزاء پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ علاوہ بریں
لوگوں کے شر سے باری تعالیٰ شانہ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنا اور اُن کی
افیتوں سے آپ کو بچائے رکھنا (یعنی دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن نہ کر سکے) قاضی عیاض
رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ اقسام کے بے شمار معجزات کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا:

ومن معجزاته صلى الله تعالى عليه
وسلم اباهرة ما جمعه الله له
من المعارف والعلوم ونخصه به
من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا
والدين ومعرفة بامور شرائعه و
قوانين دينه وسياسة عبادته ومصالح
امته وما كان في الامم قبله
وقصص الانبياء والرسل والنجاة
والقرون الماضية من لدن آدم عليه
السلام الى زمنه وحفظ شرائعهم

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے
معجزات میں سے یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
علوم و معارف کا خزانہ بنا دیا اور آپ کو خصوصیت بخشی
کہ دین و دنیا کے تمام مصالح پر آپ کو مطلع فرمایا نیز
شرعیات کے امور اور اپنے دین کے قوانین کی معرفت
عطا فرمائی اور اپنے بندوں کی سیاست اور اپنی امت کے
مصالح اور گزشتہ اُمّتوں کے حالات، انبیاء و
مرسلین کے حالات، آدم علیہ السلام سے لے کر
اپنے عہد مبارک تک کے جابر بادشاہوں اور گزرے
ہوئے زمانوں کے فقہ اور اُمم سابقہ کی شرعیات، اُن کی

وكتبهم ووعي سيرهم وسرد ابتاءهم و
ایام الله فیہم وصقات اغیا نہم و
اختلاف اسرائیہم والمعرفة بمدہم
واعمارہم وحکم حکمائہم ومحااجة
کل امة من الکفرة و معارضة
کل فرقة من اهل الکتابین
لما فی کتبہم واعلامہم باسرا دہا
ومخبیات علومہم واخبارہم بہا
کتبہ من ذلک وغیرہ والی الاحتیاط
علی لغة العرب وغریب الفاظ فقہا
والاحاطة بضروب فصاحتہا والحفظ
لایامہا وامثالہا وحکمہا ومعانی
اشعارہا والتخصیص بمجوامع
کلہا الی المعرفة بضرب
الامثال الصحیحة والحکم
المبینة بتقریب التفہیم للقامض
والتبیین للمشکل الی تمہید
قواعد الشرع الذی لا تناقض
فیہ ولا تخاذل فیہا انزل
علینا مع اشمال شریعتہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
سلم علی محاسن الاخلاق
ومحامد الاداب وکل

کتباوں اور سیرتوں کو ذہن میں محفوظ کر لینا، اور
اُن کی خبروں، اُن پر اللہ تعالیٰ کے انعام یا عذاب کے
واقعات، اُن کے سرگروہوں کے اطوار، اُن کا
اختلاف آراء، اُن کی مدتوں، عمروں اور اُن کے
علماء کے اقوال کو جان لینا اور ہر اُمت سے کافروں
کے جھگڑوں اور اہل کتاب کے ہر فرقے کے ساتھ
اُس کی مسلمہ کتابوں کے ذریعے معارضے کی صلاحیت
ہونا، اُن کی کتابوں کے اسرار اور چھپائے ہوئے
علوم و اخبار کو ظاہر کرنا دینی جن باتوں کو اہل کتاب
مخصوص مصلحتوں کے تحت چھپائے رکھتے تھے،
عربی زبان کی مہارت حاصل ہونا اور ہر جماعت اور
قبیلے کے خاص الفاظ اور اُن کی فصاحت کے جملہ
اقسام کا احاطہ کر لینا، اُن کے واقعات و حوادث،
مثالیں، حکمتیں اور اُن کے اشعار کے معانی حفظ
کر لینا، سارے جامع کلمات کو معرفت کی جانب
خاص کر دینا اور صحیح محاورات و ضرب الامثال کی
معرفت ہونا اور حکم کو واضح اور عام فہم لفظوں میں
بیان کرنا اور ہر مشکل بات کو ایسے آسان لفظوں
میں واضح بیان کرتے کہ اُن کے فہم کے نزدیک ہوتی
چلی جاتی۔ وہ شریعتِ مطہرہ جس میں کوئی تناقض
نہیں ہے اُس کے شروع میں قواعد کو آسان
طریقے سے بیان کیا ہے اور شریعت میں کوئی کمزوری
بھی نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے نازل ہوئی۔ شریعتِ مجید

ثُمَّ مَسْتَحْسِنٌ مَفْقُولٌ لَمْ يَنْكُرْ
 مِنْهُ مَلْحَدٌ ذُو عَقْلٍ سَلِيمٌ شَيْئًا إِلَّا
 مِنْ جِهَةِ الْخِذْلَانِ بَلْ كُلُّ
 جَا حِدْلِهِ وَكَافِرٍ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ
 بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا سَمِعَ مَا يَدْعُوا إِلَيْهِ صَوِيحٌ
 وَاسْتَحْسَنَهُ دُونَ طَلَبِ
 إِقَامَةِ بَرَهَانٍ عَلَيْهِ -
 (ص ۵۶)

تو اچھے اخلاق اور قابلِ تعریف آداب پر مشتمل ہے
 اور اس کی ہر بات واضح پسندیدہ ہے، جس کا
 عقلِ سلیم رکھنے والا ایک ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا
 لیکن اُس شخص کا معاملہ ہی دیگر ہے جس کو بد بختی اور
 رسوائی نے جکڑ رکھا ہو، یہاں تک کہ دورِ جاہلیت
 میں کسی منکر اور کافر نے بھی جب نبی آخر الزماں
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس پیغام کو سنا
 تو اُس کو بھی تصویب و تحسین کے سوا اور کوئی
 چارہ کار نظر نہ آیا اور آپ کی حقانیت پر دوسری
 کسی دلیل کا مطالبہ تک نہیں کیا۔

اس کے ساتھ ہی طہیات کو اپنی اُمت کے لیے حلال اور خباثت کو حرام ٹھہرایا اور مسلمانوں
 کی جان، مال اور عزت و آبرو کو دوزخ سے بچانے کی خاطر تعزیرات اور حدود قائم کر کے محفوظ
 فرمایا۔ ایسی باتوں کا اہتمام وہی ماہر شخص کر سکتا ہے، جس نے علم حاصل کیا اور کتابوں کو پڑھا ہو
 نیز مختلف علوم و فنون کی تحصیل میں مہارت حاصل کی ہو جیسے طب، خوابوں کی تعبیر، میراث و
 وراثت، حساب، انساب اور دیگر ایسے ہی علوم۔ حالانکہ ان علوم کے ماہرین نے جب آپ کے
 ارشاداتِ عالیہ میں غور و فکر کیا تو انہیں اپنے تجربات کی بنیاد اور اصل الاصول پایا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد چند وہ احادیث نقل فرمائی ہیں،
 جن کا تعلق مذکورہ بالا علوم و فنون سے ہے۔ اس کے بعد فرشتوں اور جنوں کے متعلق آپ نے
 جو خبریں دیں، انہیں نقل فرمایا نیز آپ کی نبوت کے دلائل اور رسالت کی علامتوں کا ذکر کیا اور
 اجبار و رہبان اور علمائے اہل کتاب نے آپ کی اور اُمتِ محمدیہ کی جو صفات، اسماء اور
 علامات بیان کی ہیں، انہیں نقل کیا اور مہرِ نبوت کا تذکرہ کیا جو آپ کے دونوں کندھوں کے
 درمیان تھی اور جس کا ذکر گزشتہ موعودین کے اشعار میں بھی پایا جاتا ہے نیز کاہن جس کی خبر دیا کرتے تھے
 اور غائب جتوں، بتوں اور تصویروں کے اندر سے بارہا آوازیں سُنی گئیں، اسی طرح قدیم زمانے کے

طریقہ ہائے تحریر میں پتھروں اور قبروں پر آپ کا اسم گرامی اور آپ کی رسالت کی گواہی لکھی ہوئی پائی گئی
اس سلسلے کے اکثر واقعات مشہور و معلوم ہیں لیکن اسی شخص کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی سیرت مقدسہ پر مطلع ہے اور ہم (علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی کتاب
حجة الله على العالمين میں اس موضوع پر شرح و بسط سے لکھا ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت مقدسہ کے
معجزات ولادت وقت جو نشانیاں اور خرق عادت باتیں دیکھی گئی ہیں جیسا کہ آپ کی
والدہ ماجدہ اور جو افراد وہاں موجود تھے، انہوں نے عجائب بیان کیے ہیں کہ ولادت کے بعد
آپ کا آسمان کی جانب ٹنگلی لگا کر دیکھنا، اور وہ نور جو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
بوقت ولادت آپ کے ساتھ نکلتے دیکھا، حتیٰ کہ اُس کی روشنی میں بصرے کے محلات نظر
آگئے تھے، جیسا کہ امام احمد اور بیہقی نے حضرت عراب بن ساریہ اور ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت کی ہے اور جو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت
ستاروں کو آتے ہوئے اور نور کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ اُس نور کے وقت اور کچھ نظر
ہی نہیں آتا تھا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ، جو آپ کی دایہ تھیں، اُن کا بیان ہے کہ
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا پر جلوہ افروز ہوئے اور میرے ہاتھوں میں ڈیگئے
تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اُس وقت
میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گئے حتیٰ کہ میں نے روم کے محلات دیکھ لیے، اسی طرح آپ کو
دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ اور اُن کے خاوند نے جو آپ کی برکتیں دیکھیں کہ اُن کے دودھ کا
جوش مارنا، اُن کی کورھی اونٹنی کا دوبارہ دودھ دینے لگنا، اُن کی بکریوں کا بہت بڑھ جانا،
آپ کا تیزی سے نوجوان ہو جانا اور حسین نشوونما پانا معروف ہے۔

نیز آپ کی پیدائش کے وقت جو عجائبات ظاہر ہوئے جیسا کہ بیہقی نے روایت
کی ہے، اس کے علاوہ کسری کے محلات کا تزلزل میں آجانا اور اُن کے گنگروں کا گر پڑنا،
بحیرہ طبریہ کا خشک ہو جانا، آتشکدہ فارس کی آگ کا بجھ جانا جبکہ ایک ہزار سال سے وہ بجھی
نہیں تھی اور یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں جب اپنے چچا ابوطالب اور اُن کے

اولاد کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب سیر ہو جاتے اور جب وہ آپ کی عدم موجودگی میں کھانا کھاتے تو سب بھوکے رہ جاتے، ابو طالب کی اولاد جب سوکر صبح اٹھتی تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو گیسوئے مبارک گویا شانہ کیے ہوئے، چہرہ خوشبودار اور آنکھیں سرگیں ہوتیں۔

ام امین رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی خدمت کرنے والی تھیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا، آپ کے معجزات سے آسمانی آگ اور شعلوں کے گرنے کی بندش اور شیطانوں کے چوری کرنے کے راستوں کا ختم ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت مرحمت فرمائی کہ بتوں سے عداوت اور امور جاہلیت سے نفرت آپ کی فطرت میں شامل فرمادی حتیٰ کہ ستر (جسم ڈھانپنے) کے بارے میں آپ کی حالت یہ تھی، جیسا کہ مشہور خبر ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، جیسا کہ بخاری و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُس دوران میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازار مبارک کو آپ کے کندھے پر رکھ دیا گیا، تو بوجہ جیسا آپ زمین پر گر پڑے، یہاں تک کہ اُسے واپس کیا گیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے فرمایا: میں ننگا ہونے سے منع کیا گیا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا آپ پر سفر میں بادلوں سے سایہ کرنا جیسا کہ ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ہے کہ اُنھوں نے اور ان کی برادری کی کتنی ہی عورتوں نے دیکھا کہ جب آپ شام کی جانب سے آئے تو دو فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے اس کا تذکرہ کیا تو اُس نے جواب دیا کہ میں تو اس قسم کے تعجب خیز واقعات اُسی وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ان کا ہم سفر ہوا تھا۔ روایت کی گئی ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہتے تھے تو اُنھوں نے بادل کو آپ کے اوپر سایہ کرتے دیکھا۔ اس کی روایت آپ کے رضاعی بھائی (دورہ شریک بھائی) نے کی ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کسی سفر میں ایک خشک درخت کے

نیچے آرام فرما ہوئے تو اُس درخت کے ارد گرد سبزہ نمودار ہو گیا اور وہ درخت بھی سرسبز ہو کر لہلہا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اُس کی شاخیں پھیل کر ٹٹکنے لگیں، یہاں تک کہ وہ غوب سایہ دار ہو گیا۔ وری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اُس نے آپ پر اچھی طرح سایہ کر دیا۔ یہ جو عام مشہور ہے کہ:

کان لا ظل لشخصه فی شمس و
لا قمر لانه کان نوراً و
ان الذباب کان لا یقع علی
جسده ولا ثیابه۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ سورج
اور چاند کی روشنی میں بھی نہیں ہوتا تھا کیوں کہ
آپ سرتاپا نور ہی نور تھے اور مکھی کی یہ مجال
نہیں تھی کہ کبھی بھی وہ آپ کے جسم اطہر یا آپ کے
کپڑوں پر بیٹھے۔ (ص ۵)

جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ آپ کے معجزات میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو تنہائی پسند رکھا گیا اور وحی آنے یعنی قرآن کریم نازل ہونے تک آپ کی یہی کیفیت رہی جیسا کہ صحیحین میں مذکور ہے اور بخاری و مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ کو وصال کی خبر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اب مالکِ حقیقی کی بارگاہ میں واپس پہنچنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ روضہ اطہر مدینہ منورہ میں ہوگا اور ہوگا بھی آپ کے کاشانہ اقدس کے اندر۔ نیز یہ کہ آپ کے دولت کدے اور مقدس منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو باری تعالیٰ شانہ نے دنیا میں رہنے اور رحلت فرمانے میں اختیار دیا تھا کہ کسی ایک چیز کو اختیار کر لیا جائے۔ آپ نے آخرت کو پسند کیا اور فرمایا اَللّٰهُمَّ السَّرَفِیْقُ الْاَعْلٰی (اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ساتھی ہے)۔ یہی آپ کے آخری کلمات ہیں، ان کے بعد پھر کلام نہیں فرمایا۔

بوقت وصال کے واقعات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ذکر کیے ہیں۔ اُن میں سے ملائکہ کا نماز جنازہ کی جگہ صلوٰت و سلام پڑھنا، ملک الموت کا اجازت لے کر حاضر بارگاہ ہونا حالانکہ آپ سے پہلے ملک الموت نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ بوقت غسل ملائکہ کی جانب سے یہ آواز آنا کہ آپ کی قمیص مبارک کو نہ اُتارو۔ صحابہ کرام نے اس آواز کو سنا لیکن ایسا کرنے والا نظر کوئی بھی نہ آیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ وصال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور ملائکہ نے اہل بیت اطہار سے یوں اطہارِ تعزیت کیا:

اسلام علیکم اهل البيت ورحمة
الله وبرکاته ات فی الله خلقاً من
کل هانک وعزاء من کل
مصیبة ودرگا من کل فائت
نبالله ثقوا دایاہ فارحبوا
فان المصاب من حرم الثواب
سواء البهیتقی فی دلائل النبوة۔

(ص ۵۸)

اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والو! تم
پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔
بے شک دنیا سے رخصت ہونے والے ہر شخص کا
وارث خدا ہے۔ وہی ہر مصیبت میں تسلی دیتا ہے
اور وہی نقصان کو پورا کرنے والا ہے۔ تم خدا سے
ڈرتے رہو، اُسی سے اُمید رکھو کیونکہ اعلیٰ مصیبت^{زور}
وہی ہے جو ثواب سے محروم رہ جائے۔ اسے
بہیتی نے دلائل النبوت میں روایت کیا ہے۔

امام شافعی اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر آپ کی کرامتیں اور برکتیں دنیاوی زندگی میں ظاہر تھیں لیکن
وصال کے بعد بھی اُسی طرح ظاہر ہوتی رہیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے چچا جان
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرنا۔

معجزات مصطفیٰ کی ترجیح

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، دیگر انبیائے کرام کے مقابلے میں دو وجہ سے زیادہ واضح اور
اہم ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کے معجزات تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ جس نبی کو جو بھی معجزہ ملا،
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مرتحت فرمایا گیا، یا اُس سے بھی اعلیٰ معجزہ دیا گیا اور اہل علم اس
بات سے پوری طرح واقف ہیں۔ آپ کے معجزات اس طرح حد و شمار سے باہر ہیں کہ قرآن کریم
اول سے آخر تک معجزہ ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورت میں بھی اعجاز موجود ہے اور وہ سورہ
کوثر ہے۔ اُسی میں یہ موجود ہے:

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَىكَ الْكَوْثَرُ لَ

اے محبوب! بیشک ہم نے تمہیں بے شمار تحریاں عطا فرمائیں۔

لے پ ۳۰، سورہ الکثر، آیت ۱

جب اس چھوٹی سی سُورت میں بھی اعجاز موجود ہے حالانکہ اس کے صرف دس کلمے ہیں لیکن پورے قرآن کریم میں تو ستر ہزار سے بھی کچھ اوپر ہی کلمات ہیں۔ چونکہ سورہ کوثر کے دس کلمے ہیں، اس لحاظ سے حصّے بناتے چلے جائیں تب بھی قرآن کریم کے سات ہزار سے زیادہ حصّے بنتے ہیں اور ہر حصّہ واقعی معجزہ ہے۔ علاوہ بریں اس کے اعجازِ بلاغت و اعجازِ نظم وغیرہ کے لحاظ سے دیکھیں تو مذکورہ تعداد کئی گنا ہو جائے گی۔ اعجاز کی ایک وجہ غیبی امور کی خبریں دینا بھی ہے، یوں اور کئی گنا تعداد ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اعجاز کی اہم کتنی ہی وجوہات ہیں اگر ان کے حساب سے گنتے چلے جائیں تو صرف قرآن کریم سے متعلق ہی آپ کے اتنے معجزے ہو جائیں گے کہ اعداد بھی ان کا ساتھ نہ دے سکیں گے۔ اس بارے میں جو احادیث و اخبار وارد ہیں وہ اعجاز کی کثرت کے لحاظ سے مذکورہ تعداد کے کئی گنا معجزات کا پتہ دیتی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی وضاحت و اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کے معجزات اُس زمانہ کے لوگوں کی ہمت اور اُس فن کے اعتبار سے تھے جن میں اُس زمانے کے لوگ مہارت رکھتے ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دے کر بھیجا جو ان کاموں سے مشابہت رکھتا تھا، جن پر قدرت رکھنے کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وہ معجزہ لے کر تشریف فرما ہوئے تو ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے کیونکہ اس نے ان کے جادو کو باطل کر دکھایا تھا۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اپنے نقطہ عروج کو پہنچا ہوا تھا تو آپ ان کے پاس ایسا معجزہ لے کر تشریف فرما ہوئے جس پر انہیں کوئی قدرت نہیں تھی۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مُردے کو بھی زندہ کیا جاسکتا ہے نیز بغیر معالجے اور طبی طریقوں کے مادرِ زاد اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنا ممکن ہے۔ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزات بھی اسی طرح تھے۔

جس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو عرب میں چار علوم بہت مشہور تھے: (۱) بلاغت (۲) شاعری (۳) خبر (تاریخ) (۴) کہانت۔

اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا جو مذکورہ چاروں علوم کے لیے خارق ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت اور ایجاز کے ایسے کمالات پر مشتمل ہے جس کا ان کے کلام میں شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس عجیب و غریب نظم اور پسندیدہ اسلوب کے وہ کوچے ہی سے نابلد تھے۔ جہاں تک اخبار یعنی تاریخ کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے ایسے واقعات و حوادث اور اسرار و معنیات کی خبریں دیں اور وہ خبروں کے مطابق ہی ظہور پذیر ہوئے تو کسی پرلے درجے کے معاند اور دشمن کو بھی اس کی صحت و صداقت میں شبہ نہیں رہ سکتا۔ رہی کہانت، تو یہ ایک مرتبہ سچی اور دس مرتبہ جھوٹی ثابت ہوتی رہتی ہے۔ شیاطین پر آسمان سے چنگاریاں پھینک کر اور ستاروں کے ٹوٹنے سے کہانت کو باطل کر کے بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ قرآن کریم نے اپنے زمانہ نزول کے حالات، گزشتہ انبیائے کرام اور ان کی امتوں کے تذکرے نیز گزرے ہوئے واقعات کو بیان کر کے ہمدانی کا دعویٰ کرنیوالوں کو جاہل محض ثابت کر دکھایا۔

قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں بلکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور برگروہ کے لیے واضح دلیل و حجت ہے۔ بعد میں آنے والا جو بھی شخص اس کے وجود و اعجاز میں غور و فکر اور تامل کرے گا تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ:

الی ما اخبر بہ من الغیوب علی	سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معجزے
هذا السبیل فلا یمر عسور و	کے طور پر اس قدر غیب کی خبریں دی ہیں کہ کوئی دور
ن من الا ویظہر فیہ صدقہ	اور زمانہ ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ کی صداقت
صلی اللہ علیہ وسلم علی ما	ظاہر نہ ہوئی ہو اس سے ایمان کو تازگی اور حقانیت
اخبر فیتجدد الایمان و	کی دلیل کو غلبہ ملتا ہے۔

یتظاہر البرہان۔ (صفحہ ۹)

لے امام احمد رضا خاں بریلوی نے فرمایا ہے: ہ

ترے آگے یوں ہیں دبے لپے فصحاء عرب کے بڑے بڑے
کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں ہاں نہیں

دیگر انبیائے کرام جب دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اُن کے معجزات بھی ختم ہو جاتے تھے لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہ تو ختم ہونے والا ہے اور نہ منقطع ہو سکتا ہے۔ اس کے دلائل زائل نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ تروتازہ رہتے ہیں، اسی لیے فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا کہ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر نبی کو اُس کے زمانے کے مطابق معجزے دیے گئے، جن کو دیکھ کر لوگ اُن پر ایمان لاتے تھے لیکن میرا معجزہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی۔ میں اُمید رکھتا ہوں کہ قیامت میں میرے پیروکار سب زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم تو یہی ہے لیکن اکثر علماء نے اس کی تاویل کی ہے، اور ظہور معجزہ کے بارے میں اس طرف گئے ہیں کہ آپ کے اس معجزے کا ظہور وحی یعنی کلام الہی ہونیکے باعث کچھ جس میں نہ فکری قوت کا دخل اور نہ تشبیہ متصور، لیکن منافقین و معاندین نے انبیائے کرام کے معجزات کا مقابلہ ایسے امور سے کیا جن کا دار و مدار فکری قوت پر تھا اور اس طرح کوتاہ فہم لوگوں کو کسی حد تک ورغلائے میں کامیاب ہو جاتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں نے اپنی رستیاں اور چھڑیاں پھینک کر سانپوں کی شکل میں دکھادیں اور جادوگر ایسی شعبہ بازی لوگوں کو دکھا دیا کرتے ہیں لیکن قرآن کریم تو کلام الہی ہے، اس پر کوئی جادو یا قوت متخلفہ اثر انداز نہیں ہو سکتی یعنی اس کا معارضہ نہیں کر سکتی۔ اس اعتبار سے قرآن کریم کو دیگر تمام معجزات پر بھی فوقیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ کفار عرب نے اس کے مقابلہ اور معارضہ سے ہتھیار ڈال رکھے تھے چنانچہ انھوں نے جلا وطنی، قید، ذلت و رسوائی، نقل مکانی، جانی و مالی نقصانات، زجر و توبیخ، تہی دستی، چھڑکیاں کھانے اور دھتکارے جانے کے مصائب تک برداشت کر لیے، لیکن قرآن عزیز جیسی ایک آیت بھی بنا کر لانے سے عاجز رہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

اس کے بعد قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوگوں پر حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اُن میں سرفہرست آپ پر ایمان لانا ہے۔ پھر آپ کی اطاعت اور سنت کی پیروی ہے کیونکہ یہ آپ سے محبت رکھنے اور اپنی خیر خواہی کے لوازم سے ہے۔ آپ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے کیونکہ یہ آپ کی تعظیم و توقیر اور احسان ماننے کی نشانی ہے وصال کے بعد ہر اُس چیز کا احترام کیا جائے جو آپ کی جانب منسوب ہے۔ آپ پر صلوة و سلام

پڑھنا اور روضۂ اطہر کی زیارت کرنا۔ جو باتیں آپ کے لیے واجب یا جو آپ پر محال اور متمنع تھیں انہیں مد نظر رکھے کیونکہ آپ کو گالی دینے یا آپ کی شان میں نازیبا لفظ جاری کرنے یا تنقیص کرنے والے کے لیے قتل کرنے کا حکم ہے یا اس کے نزدیک۔ اس فصل کا اختتام اس بیان پر ہوا ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو گالی دینا یا ان کی تنقیص کرنا حرام ہے اور ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ قصہ مختصر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفاء میں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات اور دیگر احوال ایسی شرح و بسط سے بیان فرمائے ہیں، جن پر مطلع ہونے اور نفع حاصل کرنے سے کوئی مسلمان مستغنی نہیں۔ کتاب الشفاء اس موضوع پر عظیم النظر کتاب ہے جس کی مقبولیت پر امت محمدیہ کا اتفاق ہے۔ اس کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ فضائل مصطفیٰ پر سب سے پہلے لکھی گئی۔ اگرچہ مواہب لدنیہ بھی اس باب میں لکھا ہے کیونکہ اس میں بیانات زیادہ شرح و بسط سے ہیں لیکن یہ امتیاز پھر کتاب الشفاء ہی کو حاصل ہے کہ وہ اس میدان کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی جمیع محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

Handwritten text in Urdu script, consisting of approximately 12 lines. The text is written in a cursive style and is mostly illegible due to the quality of the scan. It appears to be a single paragraph of prose.

امام عارف باللہ، حکیم محمد بن علی ترمذی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے

فروضات گرامی

نوٹ: یہ صاحبِ حسن، ابو عیسیٰ ترمذی نہیں ہیں۔

مجلس اول

در بیان

در بیان

در بیان

فخرِ دو عالم کی ہیبت

حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں فرمایا ہے کہ ظاہری حیثیت اور بعد وفات فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہیبت کی تاثیر دلوں میں تھی اور ہے، اس کتاب کی ایک سو چھیتریں اصل کا عنوان اور موضوع یہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اُس رونق آراے گیتی نے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا تو آپ کی ضیاء باریوں سے مدینۃ الرسول کی ہر شے جگمگا اٹھی اور جس روز آپ نے وفات پائی تو مدینہ طیبہ کی ہر ایک چیز کو غم و الم کے اندھیرے نے گھیر لیا۔ آپ کو قبر انور کے سپرد کر دینے کے بعد ہم نے ابھی اپنے ہاتھوں کو جھاڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے، جنہوں نے اپنی ضیاء پاشیوں سے دونوں جہانوں کو جگمگا رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”اے محبوب! ہم تمہیں حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کے حکم سے اُس کی جانب بلائے والا اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔“ آپ کی نورانیت ہی کوہِ نبی میں اُجالا ہے۔ جب آپ کسی راستے سے گزرتے تو اُس گزرگاہ کی فضا معطر ہو جاتی، حتیٰ کہ ہر آنے جانے والے کو معلوم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر رہا ہے، اسی لیے تو یہ کوچہ بسا ہوا ہے۔ آپ ایسے طاہر اور طیب تھے کہ باری تعالیٰ شانے آپ کو اصلاب (صلب کی جمع) اور ارحام (رحم کی جمع) میں بھی پاک صاف رکھا اور بچپن، نوجوانی اور

کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوراً اضاء العالمین قال تعالیٰ انا ارسلناک شاهداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ باذنتہ وسراجاً منیراً فکان یستنیر سراجہ فی العالمین واذا مشی فی الطریق فاح منه ریح الطیب حتی یوجد عرفہ فی ممرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیعرف انہ مر بہذا السکان وکان طاهراً طیباً طہراً اللہ تعالیٰ بالحفظ فی الاصلاب والارحام وطفلاً وناشئاً وکھلاً حتی

قدسه بطهره النبوة وشرفه
بالقربة وطيبه بروحه وجلله
ببهاثه فمن فتح الله قلبه
بالتود الذي جعله في
قلبه والبصره وما نخله
الله تعالى وزينه به
كان رويته شفاء قلبه
ودواء سقمه ولا يخيب برويحه
عن ان يكون شفاء القلب
الا من ختم الله على قلبه و
جعل على سمعه وبصره
غشاوة - (ص ۶)

بڑھاپے میں بھی، یہاں تک کہ نبوت جیسی اعلیٰ ترین
طہارت کے ساتھ آپ کی تقدیس فرمائی۔ آپ کو قرب
خاص کا شرف مرحمت فرمایا، گلشن کائنات کا معطر
گل سرسبد بنایا اور بزرگی کا جامہ پہنایا۔ پس جس
خوش نصیب کا دل اُس نور کی بدولت کھول دیا اور
چشم بصیرت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے
حبیب کی بزرگی اور رعنائی اُسے دکھا دی، تو اُس
پر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی رویت تو دلوں کی شفا
اور امراض کی دوا ہے۔ تندرست دل والا آپ کی
رویت سے فیضیاب ہوئے بغیر نہیں رہتا، سوائے
اُس کے جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو
اور اُس کی سماعت و بصارت پر پردہ پڑا ہوا ہو۔

اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام معجز نظام میں یوں بیان فرمایا ہے،
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ
لَا يُبْصِرُونَ ۝
اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور
انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیبت، وقار، جلال اور طہارت لوگوں کے قلوب و نفوس کے
درمیان ایک دیوار تھی۔ آپ کی ہیبت اور بزرگی کے پیش نظر آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر
مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ انہیں بصورت دیگر حیا محسوس ہوتی تھی۔ آپ میں نورانیت، شیریں کلامی
اور مہابت جمع تھی۔ زمین کے جس ٹکڑے کو آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوتا، وہ آپ کی نورانیت
سے رشک مرقر ہو جاتا، شیریں کلامی کا گہوارہ کھلانے لگتا اور آپ کی ہیبت سے وہاں کے جو ہر استعداد

لے پ ۹، سورۃ الاعراف، آیت ۱۹۸

لے کئی کسی کا، عرش بریں ہے کسی کا نام
کچھ (اس قدر ہیں اُن کے قدم، رہگزر نواز)
(اختر الہامدی)

ہو جاتے تھے۔ جب خُزْوَ عَالَم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ فرما گئے تو اُس سراجِ کائنات کے ساتھ اُس کی حقیقی روشنی بھی رُو پوش ہو گئی اور وہ پہلے جیسی چمک دمک، حلاوت اور مہابت بھی نہ رہی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے سپرد کر کے ابھی ہاتھوں کی مٹی بھی صاف نہیں کرنے پائے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کا انکار کر دیا۔ اس جملے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی دلی کیفیت بیان کی ہے، کیونکہ انھیں باری تعالیٰ شانہ کی جانب سے تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن بعض لوگوں کی ایمانی حالت کے بدل جانے کا خطرہ پریشان کر رہا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھے۔ جس نے آپ کو پہچانا اور آپ کی معرفت اس طریق سے اُس کے اندر متمکن ہو گئی ہو، بھلا وہ شخص جب آپ کو غائب یا مفقود دیکھے گا تو اپنے دل کا انکار کیوں کریگا؟ اُس کے دل و دماغ پر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہی تھی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو دل کی مہار زمین پر گرتی ہوئی نظر آنے لگی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ اسے چھوڑ دیا گیا ہے جس سے اپنی خواہشات کی جانب متوجہ ہونے کا خطرہ تھا۔ لیکن جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت سمائی ہوئی ہو اور وہ اُس پر غلبہ پا چکی ہو، وہ آپ کی وفات سے اپنے دل کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے پر وہ فرمانے سے اُس کے دل کی حالت نہیں بدلے گی۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو صدیق کہتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

ایسے حضرات کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے وہ چیز دلوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے جو انھیں متحیر کیے رکھتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے آناؤرتے ہیں کہ مارے ہیبت کے اُن کی اپنی ذات ایک لحاظ سے مرہی گئی ہوتی ہے۔ یہی ہیبت ہے جو اُن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرپور رکھتی ہے اور مخلوق کی محبت کو اُس نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُن کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت زائل ہو جاتی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہیبت دلوں میں بڑھتی جاتی ہے اُسی لحاظ سے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بڑھتی رہتی ہے اور آپ کی محبت تمام دنیا دی کدورات سے

پاک صاف ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور بہیت لوگوں کی محبت پر غالب آکر اُسے ڈھانپ لیتی ہے، اس طرح دوسروں کی محبت ظاہر نہیں ہوتی جیسے سمندر میں ایک ٹیلہ ہو، وہ اپنی بہیت کے ساتھ سمندر میں کھڑا تو ہوتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا، یا جس طرح چاند کہ اُس کی روشنی تو ہر وقت برقرار رہتی ہے لیکن جب مہر درخشاں کی تابانیاں اُس کے بالتقابل آتی ہیں تو سورج کی کرنیں چاند کی روشنی کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہیں، حالاں کہ چاند کی چمک دمک حقیقت میں وہی رہتی ہے لیکن سورج کی وافر ضیاء باریوں کے باعث دیکھنے والے کو چاند کی حالت کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور بہیت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و بہیت پر غالب آجاتی ہے۔ یہ بحث نہایت نفیس اور دقیق ہے باری تعالیٰ شائر ہمیں اس کلام سے اور اس کے مولف سے نفع اندوز کرے۔ (امین)

خدا کی محبت اور اتباع رسول

امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوادر الاصول کی اصل ایک سو پچیس میں آیت کریمہ **اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي** کی تفسیر کے تحت فرمایا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نیکی، تقویٰ، تواضع اور نفس کشی میں میرا اتباع کرو۔ نیکی سے مراد وہ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عائد کیے۔ تقویٰ ان کاموں سے اجتناب کرنے کو کہتے ہیں جن سے پروردگار عالم نے روکا ہے۔ تواضع کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے۔ نفس کشی کا یہ مفہوم ہے کہ روزی وغیرہ کے سلسلے میں اپنی خواہشات کو اُس کے درجات پر چھوڑ دے۔ آدمی ان چاروں چیزوں کو اُسی وقت قائم کر سکتا ہے جبکہ وہ عبودیت میں صفائی یعنی اخلاص رکھتا ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت

میں تمین کا ایک وفد حاضر ہوا اور انھوں نے کہا کہ ابیت اللعن (آپ لعنت سے دور رہیں) تو

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ! ایسے کلمے تو بادشاہوں سے کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں بادشاہ نہیں بلکہ میں تو محمد بن عبد اللہ ہوں۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ ہم آپ کا نام لینے کی جرات نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا: میں ابوالقاسم بھی ہوں۔ وہ عرض کرنے لگے: اے ابوالقاسم! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم آپ سے ایک چیز چھپا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: سبحان اللہ! ایسا تو کاہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن میں کاہنوں، اُن کی تصدیق کرنے والوں اور کمانت کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ اُن میں سے ایک شخص پوچھنے لگا: اس بات کی گواہی کون سی چیز دیتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے زمین کی جانب دست معجزنا بڑھایا، ایک مٹھی سنگریزے لیے اور فرمایا: یہ بے جان کنکریاں تک میری رسالت کی گواہی دے سکتی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اُن سنگریزوں نے آپ کے دست اقدس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور یوں گویا ہوئے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ عرض گزار ہوئے کہ جو کلام الہی آپ پر نازل ہوتا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی سنائیے۔ آپ نے وَالصَّفَّاتِ صَفًّا سورت پڑھنا شروع کی لیکن جب اس ارشاد باری پر پہنچے کہ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ تو آپ اس درجہ بے حس و حرکت ہو گئے کہ جسم کی کوئی رگ بھی حرکت نہیں کر رہی تھی اور چشمان مبارک سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا، جس کے قطرے ریش مبارک کے اوپر سے ڈھلکتے ہوئے متواتر ٹپک رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو رونا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کیا جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اُسی کے خوف سے آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں اُسی کے خوف سے رو رہا ہوں جس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اُس نے مجھے ایسے سیدھے راستے پر خود چلنے اور دوسروں کو چلانے کے لیے بھیجا ہے، جو تلوار کی دھار کے مانند ہے۔ اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاؤں تو ہلاکت میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ میرے مالک کا ارشاد ہے:

لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ ۱۷
اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف
کی اسے لے جاتے۔

خصائص مصطفیٰ

حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصل دو سو انتالیس^{۲۳} میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص بیان کرتے ہوئے ارشاد نبوی اُعْطِیْتُ خَمْسًا کے اسرار پر بحث کرنے کے دوران تحریر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں پانچ چیزیں دیا گیا ہوں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت نہیں فرمائی گئیں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ وہ پانچ چیزیں یہ ہیں:

۱۔ میں ہر سیاہ اور سُرخ (جملہ انسانوں) کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی جانب بھیجا جاتا تھا۔

۲۔ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک قرار دی گئی ہے۔

۳۔ رُعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے، جو میرے سامنے ایک ماہ کی مفت تک کار فرما ہوتا ہے۔

۴۔ مالِ غنیمت میرے لیے حلال ٹھہرایا گیا ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت حلال نہیں قرار دی گئی۔

۵۔ مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے جو میں نے اپنی اُمت کے لیے ذخیرے کے طور پر محفوظ رکھ چھوڑی ہے۔ اس میں سے ہر اُس اُمتی کو حصہ ملے گا جس نے خدا کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے مبعوث فرمائے گئے ہیں، جسے امارت، ولایت اور رعایا دی جاتی ہے۔ حاکم کی مثال ایک بکریوں کے چرواہے کی مانند ہے، جو اپنی بکریوں کو موٹی تازی دیکھنے کے لیے چہرہ لگا ہوا چراتا ہے، اُنہیں صاف پانی پلاتا ہے، اُن کے لیے گرمی اور سردی سے بچاؤ کا بندوبست کرتا ہے، رات آنے سے پہلے روزانہ اُن کی جگہ کو صاف کر کے رہنے کے لیے تیار کرتا ہے، اُنہیں ہلاکت کے مقامات سے ہٹاتا، وبائی جگہوں سے بچاتا اور درندوں سے اُن کی حفاظت کرتا ہے،

اگر ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اُسے ہانک کر دوسری بکریوں میں لاتا ہے، لنگڑی بکری کا خیال رکھتا اور بیمار بکریوں کو دواٹی کھلاتا ہے۔ دودھ اور اُن کی پشیم وغیرہ کو مالک کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ مخلص ایسے ہی چرواہے کو کہتے ہیں اور ایسے ہی شخص کو اُس کی پوری اجرت دی جاتی ہے۔ وہ چرواہا ریوڑ کے مالک سے بلحاظ اُس کی ملکیت کے اچھے سے اچھے معاوضے کا بجا طور پر اُمیدوار رہتا ہے۔

پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کے چرواہے ہیں اور جملہ مخلوق اُن کا ریوڑ۔ اس ریوڑ کی حفاظت ہی کے لیے باری تعالیٰ شانہ نے اُنھیں مبعوث فرمایا ہے۔ شریعتِ مطہرہ اس ریوڑ کے چرنے کی وادی ہے۔ کونسی چیز بکریاں کھائیں تو نفع پہنچائے گی اور کونسی نقصان دہ ہے؟ اسی لیے شریعتِ مطہرہ نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرایا ہے اور ریوڑ کو صاف پانی کی جگہ پر لے جانا، اس سے مراد علم کے چشمہ صافی سے اُنھیں سیراب کرنا ہے۔ گرمی سردی سے بچاؤ کی تدبیروں سے مراد زندگی کی استعداد اور تندرستی ہے یعنی بڑھاپے سے پہلے قوتِ جوانی اور موت سے پہلے صحت یا مرض۔ رہنے کی جگہ تیار رکھنے سے مراد یہ ہے کہ قلعے جو رات کے اندھیرے کی طرح چھاتے ہیں، اُن سے محفوظ رہنے کے ذرائع اور امن و امان کی جگہ تلاش کرنا، جہاں آرام سے رہا جاسکے۔ اُنھیں ہلاکت کی جگہوں سے روکنے کا مطلب نفسانی خواہشات سے بچانا ہے کیونکہ خواہشات ہی ہلاکت کا سبب ہیں۔ وبا والی جگہوں سے بچانا یہ ہے کہ اُنھیں اس قسم کی خوشیوں سے بچانا ہے جو دلوں میں سما جاتی ہیں اور اُن کے باعث اچھے بھلے دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ بچھڑنے والی بکری کی مبیڑیوں کے خوف سے حفاظت کرنا یہی ہے کہ لوگوں کو شیطان کے پھندوں میں پھنسنے سے بچاتے ہیں تاکہ وہ لعین اُنھیں گناہوں میں ملوث نہ کر دے اسی لیے لوگوں کو توبہ کی جانب متوجہ کرتے رہتے ہیں اور افسردہ دلوں کو تسلی دے کر اُن کی امداد کرتے رہتے ہیں۔ بیمار بکری کی دوا دارو کرنے سے مراد ہے کہ جو شخص شربتِ مہار بنا ہوا ہو اسے وعظ نصیحت کر کے راہِ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پند و نصائح کے ذریعے اُن کو نفوس کے قتنوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اُن کے بچوں کی باربرداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو زیورِ تعلیم و ادب سے آراستہ کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ دودھ اور پشیم وغیرہ کو مالک کے لیے

محفوظ رکھنے کا یہ مفہوم ہے کہ لوگوں کے لیے وہ دعائیں مانگتے، استغفار کرتے اور ان کے اعمال کی مقبولیت کے لیے دست بدعا رہتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لحاظ سے مخلوق کے راعی اور حقیقت میں کائنات ارضی و سماوی کے سربراہ مملکت اور فرمانروا ہیں، جو دنیا والوں کو ادب سکھاتے، انہیں مشکل امور پر قابو پانے کے لیے ابھارتے، استقامت کی راہ پر ادب کے کوڑے سے گامزن کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ خالق کائنات کے سامنے پیش ہونے کے قابل بن جائیں۔ ہر راعی کے پاس ایک عضا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہے اور انہیں ہانکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عضا کا ذکر فرمایا ہے۔

ہر راعی کی مشقت اُس کی بکریوں کی تعداد کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر امیر کی ذمہ داریاں اُس کی رعایا کے افراد کی تعداد وغیرہ پر منحصر ہیں۔ جو ایک جماعت کا امیر بنایا جائے اُسے اتنے ہی وسائل و اسباب کی ضرورت پیش آتی ہے جتنے اُس مختصر سی ولایت میں تصرف کرنے کے لیے ضروری اور کافی ہوں۔ یہ اسباب نوکر چاکر، موشیوں، سواری کے جانوروں اور خزانوں وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں اور مملکت کی ضروریات کے مطابق، تاکہ انہیں اپنی امارت میں مناسب طور پر مصرف میں لائے جسے صرف مجارستان کا امیر بنایا جائے، اُسے مذکورہ اشیاء میں سے بہت ہی تھوڑا حصہ ملے گا، لیکن جس کو خراسان کا والی بنا دیا جائے، اُس کی ضروریات اور رعایا کے مطلوبہ لوازمات بہت زیادہ ہوں گے۔ جو امیر المومنین ہو اُس کی ضروریات والی خراسان سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جس کی بادشاہی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور عرش معلیٰ سے تحت الثرائی تک ہو، اُس کے لیے تو بہت ہی زیادہ خزانے درکار ہوں گے تاکہ وہ اپنی مملکت کا بخیر و خوبی انتظام و اہتمام کر سکے۔

ہر نبی کو اُس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ بار رسالت کے مطابق انہیں توحید کے خزانے اور معرفت کے جوہر عطا فرمائے گئے۔ پس جس رسول کو زمین کے ایک گوشے میں بسنے والی اُس کی قوم کی جانب بھیجا گیا، اُس کو نبوت کے معاون اسباب (معجزات وغیرہ) اور دیگر خزانوں سے اُس کی ذمہ داریوں اور رعایا کی تعداد کے مطابق حصہ ملا۔ لیکن جس کو زمین پر

لینے والی ساری مخلوق کی جانب بھیجا گیا ہو، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، وہ ہمارے آقا و مولیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو علوم و معرفت سے اتنا ہی وافر حصہ ملا، جس طرح آپ کی بعثت عالمگیر ہے، تاکہ اپنی ساری رعیت کا بند و بست کر سکیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ (میں ہر سُرخ و سیاہ کی جانب مبعوث ہوا ہوں) اور اسی لیے باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً	نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر تمام لوگوں کیلئے
لِتَنَاسِ كَحِظِّهِ مِنْ وَلَايَةِ مَلِكٍ	رسول بنا کر۔ اسی کے مطابق جیسا کہ ملک
يَمْلِكُ الدُّنْيَا وَجَواہِرَ شَرْقِهَا	کی ولایت میں آپ کا حصہ ہے کہ آپ مشرق
وْغَرْبِهَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِنْ	و مغرب اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے،
مَلِكٍ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَلِكٍ	اُن سب چیزوں کے مالک ہیں۔ کیونکہ جو
جَواہِرُهَا وَمَعَادِنُهَا۔	ساری زمین کا مالک ہے وہی اُس کے
(ص ۶۳)	جواہرات اور معادن کا مالک ہے۔

لیکن جس کو زمین کے ایک کونے کا مالک بنایا گیا ہے وہ اُسی کونے کے جواہرات کا مالک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو سرور کون و مکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اُذِتِ جَواہِرُ الْکَلِمِ (میں جامع کلمات دیا گیا ہوں) اور اسی لیے آپ کی کتاب دیگر تمام کتب کی جامع ہے۔ قرآن کریم منہاجین کے لحاظ سے توریت، انجیل، زبور اور فرقان پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ طوال مفصل اس اُمت کے لیے بصورتِ نافلہ خصوصی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عربی زبان میں وحی نازل فرمائی جو سب زبانوں پر غالب ہے کیونکہ اہل جنت کی زبان یہی ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجاہد بنی آدم کے لیے رسول ہیں تو یقیناً آپ کو خزانے بھی اتنے عطا فرمائے گئے ہیں، جو تمام لوگوں کے لیے کافی ہوں اور حکمت، بھنی اُس کے جواہر سمیت آپ کو مرحمت فرمائی گئی ہے۔ آپ کو ختم رسالت اور رُعب دیا گیا۔ مختصر اور جامع کلام کا آپ کو علم عطا فرمایا۔ وہ توریت جس کو شیطاقت و رادونٹ اٹھاتے تھے۔ اُسی کے ساتھ زبور اور انجیل بھی قرآن کریم میں جمع کر دی گئیں اور فرقانِ جمید کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا، اسی لیے اس کا

نام اُمُّ الْکِتَاب رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ ۱۷

بیشک ہم نے تم کو سات آیتیں دیں جو
دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔

سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور اسے مشافی اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے
لوح محفوظ میں جمع فرمایا ہوا ہے۔ لوگوں کی ضرورت معلومہ اور اُن کی احتیاج کے مطابق اللہ تعالیٰ
اُن میں سے اپنے ہر رسول پر نازل فرماتا رہا لیکن سورہ فاتحہ کو اُن سب سے مستثنیٰ کر لیا اور اسے
اُمّتِ مرحومہ کے لیے محفوظ رکھا۔ کیونکہ توریت، زبور، انجیل اور فرقان کے تمام علوم اسی اُمُّ الْقُرْآن
سے نکلے ہیں۔ قرآن کریم اپنی اسی اصل سے مستخرج ہے اور باقی تمام کتابیں قرآن مجید سے ہی نکلی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں توریت کی جگہ سبع طوال، انجیل کی جگہ مشافی، زبور
کی جگہ مسکین دیا گیا ہوں اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن روزِ روشن کی طرح
ان واضح حقائق کے باوجود:

فَمِنْ عَمَىٰ قَلْبِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى
وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ نُورُ الْهُدَايَةِ
لَمْ يَصِرْ أَثَرُ النَّبُوَّةِ عَلَى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنَّمَا يَصْرِمُهُ شَخْصَةٌ
جَسَمَةٌ - (ص ۶۳)

جس کا دل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اندھا
ہو جاتا ہے اور اُس میں نورِ ہدایت کا قحط
پڑ گیا ہو، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار نہیں
دیکھ سکتا بلکہ وہ آپ کی ظاہری شخصیت اور
جسم وغیرہ کو دیکھتا ہے۔

باری تعالیٰ شانہ نے اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے:

۱۷ پ ۱، سورہ الحجر، آیت ۸۷

۱۸ اسی لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: ۱۷

آنکھ والا ترے جو بن کا تماشا دیکھے
ویدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ ۱۰

اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔

لَا يُبْصِرُونَ ۝ ۱۰

جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کی جانب ہدایت فرمائی ہو اور اس کی قلبی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور اُن میں معرفت قرار پکڑ چکی ہو تو اُس کے ذریعے وہ آپ کی نبوت کے آثار کو واضح طور پر دیکھ لے گا جو حیات، ذکاوت، بیداری، اطاعت، سرعت، سبقت، چشم پوشی، کرم، وسعت، سخاوت، حیا، مسکنت، وقار اور حلم کے ساتھ مزین دیکھے گا اور اعمال میں مسواک، حجامت، خوشبو اور جماع وغیرہ میں ایسی معرفت رکھنے والا نبوت پر رسالت کو بلند دیکھے گا اور یہ خصوصیت اُن حضرات کو شانِ جلال، صاحبِ حُسن و جمال، پاکیزگی، شیریں کلامی، خوب صورتی، ملاحت، ہیبت اور دبدبہ و سلطنت کے باعث حاصل ہے اور ان جملہ صفاتِ عالیہ کی اصل یقین، محبت اور حیات سے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت سے اہل ایمان صرف اسی قدر حاصل کر سکتے ہیں جتنی انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس نے فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی مصاحبت میں رہ کر تصدیق کی، تو ایسی تصدیق کو محض معرفت کی بناء پر سمجھنا چاہئے اور جس کسی کو آپ کی ذاتِ گرامی کا علم ہوتا ہے اُسی کے مطابق ظاہری آنکھ کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ خصال میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور سے وہی شخص زیادہ حق لے سکتا ہے جسے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے اور آپ کی قدر و منزلت، بزرگی اور ذاتِ مقدس کا علم اُسی کو زیادہ میسر آئے گا جو آپ کے ارشادات کو ماننے والا اور اپنی جان و مال کو آپ پر قربان کر دینے والا ہو۔

کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بھید ظاہر کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو انہوں نے فوراً اس بات کی تصدیق کی اور تہہ و دیا تا تل اُن کے نزدیک بھی نہ پھٹک سکا اور نہ

کسی قسم کی بے قراری کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اُن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے کہا تو میں عرض گزار ہوا کہ پہلے اپنے والد محترم سے اجازت حاصل کر لوں۔ تھوڑی دیر میں وہ راستے ہی سے واپس لوٹ آئے اور آپ کی نبوت و رسالت کا اعتراف کر لیا اور فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد تصدیق کی۔ اُنٹالیس^۳ اشخاص کے اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات دُعا کی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یہی سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اگلے روز صبح کے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دُعا اللہ تعالیٰ کے دشمن ابوجہل سے گزر کر محبت خدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر سے ٹکرائی اور یہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصّے میں آ گئی جبکہ ابوجہل بد بخت کا بد بخت ہی رہ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے سے مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی۔

یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے اور آپ کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ہر نبی کے لیے ایک وزیر مقرر فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چار وزیر بنائے، یعنی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو رسالت کے وزیر ہیں اور عثمان غنی و علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبوت کے۔ باری تعالیٰ شانہ آپ کے ہر وزیر کو خصوصی کمالات سے نوازا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصّے میں عصمت و علم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقانیت و ولایت اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصّے میں نور و جہاد اور مولیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصّے میں حرمت و خلعت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ کی سیرت مقدسہ ان حضرات نے اپنے اپنے طبعی خواص کے مطابق کسب فیض کیا، اسی وجہ سے اُن کی خصوصیات میں تفاوت ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اس دُنیا سے اپنے مالک حقیقی کی جانب کوچ کرنے کا وقت قریب ہے اور آپ بیمار ہوئے یہاں تک کہ نماز

ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جانا مشکل ہو گیا تاکہ اپنی اُمت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اُمتِ محمدیہ نے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس اُمت پر یہ بھی احسان ہوا کہ وفات کے روز آپ کے مرض میں تخفیف ہو گئی۔ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے جبکہ مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فجرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک گھسٹتے جا رہے تھے، آخر کار آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے اور نماز ادا کی تاکہ سب مسلمانوں کو آپ کے فعل سے یہ واضح ہو جائے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت سے اللہ کا رسول خوش ہے اور کسی مخالف کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، یا بیہوشی کی حالت میں ایسا فرما دیا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے امامتِ صدیق اکبر پر مسلمانوں کو متفق کرنے کی خاطر اپنے حبیب کے مرض میں تخفیف فرمائی تاکہ وہ مسجد نبوی میں پہنچ سکیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو بحال رکھتے ہوئے اُن کے پہلو میں جلوہ گر ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا چکے تو آپ نے باقی نماز ادا کی۔

حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل میں بڑی طویل بحث کی ہے اور اُس کے بعد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہدیہ کرنے والے کی جانب سے رحمت ہوں۔ پس آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہیں اور آپ سے پہلے تمام رسول اپنی اُمتوں پر تجت اور عطیہ تھے۔ ہدیہ کو عطیہ کی مانند نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس نے عطیہ کو قبول کیا اُس کے لیے برکت ہے اور جس نے قبول نہ کیا اُس پر تجت قائم ہو گئی، جس کے باعث وہ عنقریب عذاب دیا جائے گا۔ ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطیہ بھی ہیں اور ہدیہ بھی۔ جس نے آپ کو ہدیہ اور عطیہ دونوں لحاظ سے قبول کیا وہ سعادت مند اور ہدایت یافتہ ہوا۔ وہ دوسروں پر سبقت لے گیا اور مقرب بارگاہِ الہیہ ہو گیا لیکن جس شخص نے آپ کو عطیہ کے طور پر تو قبول کیا مگر ہدیہ کے لحاظ سے تسلیم نہ کیا وہ نیک نجت تو ہے لیکن اُسے ہدایت کا پھل نہیں ملے گا۔ وہ نیک بختی کے باعث نجات پا جائے گا اور جس نے آپ کا انکار کر کے کفرانِ نعمت کا ثبوت دیا اور مجبور کیا، اُس کا حصہ نیک بختی سے صرف

اتنا ہی ہے کہ وہ پہلی اُمتوں کے عام عذاب سے تو دنیا میں نجات پائے گا لیکن آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔

جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ اور عطیہ دونوں کے بطور قبول کیا، اللہ تعالیٰ اُسے دوسرے لوگوں پر فضیلت دیتا ہے۔ جس نے آپ کو عطیہ کے بطور قبول کیا اُسے انابت اور عاجزی کے باعث راہِ ہدایت دکھائے گا، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ اللَّهُ بِقُرْبٍ قَرِيبٍ ۙ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ ۱۷ اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اُسے جو رجوع لائے۔

عطیہ رحمت سے ہے اور ہدیہ محبت سے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو تنگی اور کمزوری کی حالت میں دیکھ کر اُس پر نظرِ رحمت رکھے، اُسے تقویت پہنچائے اور اُس کی کمزوری کو دور کر دے تو یہ عطیہ اور رحمت ہے لیکن وہ اُس سے محبت کرے اور اُسے خلعت اور سواری وغیرہ سے نوازے تو اس طرح اُس کے دل کو اپنی جانب مائل کر لے گا۔ اسے ہدیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے دل مائل ہو جاتا ہے۔

پس انبیاء و مرسلین ہمارے رب کی جانب سے جو مخلوق کی رہنمائی کچلے بھیجے جاتے ہیں وہ عطیہ ہیں۔ جنہیں اپنی رحمت سے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا اور اُن کے ذریعے کفر کی سختی کو دور فرمایا اور اُن کی بد حالی کو دور کیا۔ ہمارے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطیہ اور ہدیہ بنا کر بھیجے گئے۔ ایمان اور اسلام کو عطیہ ہیں اور اُن کی حکمت کو ہدیہ میں رکھا گیا۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ ۙ
رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ۚ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ ۱۷ وہی ہے جس نے اُن پڑھوں میں، اُنہیں میں سے
ایک رسول بھیجا کہ اُن پر اُس کی آیتیں پڑھتے ہیں
اور اُنہیں پاک کرتے ہیں اور اُنہیں کتاب اور
حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بیشک وہ اس پہلے
ضرور گھل گرا ہی میں تھے۔

پس ایمان اور اسلام کی حکمت اس اُمت کے لیے ہر پہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص الخاص بعثت کے باعث اس اُمت کو باقی اُمتوں پر فضیلت دیتا ہے اور:

واللهدية كنوز المعرفة من هدير توالله تعالیٰ کے خزانوں سے معرفت کا خزانہ ہے

خزائن السبحان احتضی بہا جس کے باعث اس اُمت کی حفاظت فرمائی گئی

هذه الامة حتى صاروا ہے یہاں تک کہ وہ توریت میں صفوة الرحمن

موصوفین فی التوراة صفوة کے نام سے موصوف ہوئے اور انجیل میں

الرحمن وفی انجیل حکما انھیں حکماء علماء، ابرار اور اتقیاء کہا گیا۔

علماء ابرار اتقیاء کا تھم دین کی سمجھ بوجھ میں یہ لوگ گویا انبیاء کرام کی طرح

من الفقہ انبیاء۔ (صل ۶۶) ہوتے ہیں۔

اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْمُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ - ۱۰ اللہ ہی کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔

سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما اعطيت امة من اليقين ما جس قدر یقین کی دولت سے میری اُمت کو مالا مال

اعطيت امتی فانما صیر محمداً فرمایا گیا ہے انا یقین اور کسی اُمت کو نہیں ملا۔

صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

لنا یھدینا الی اعلیٰ درجات ہماری جانب مبعوث فرمایا تاکہ اُن کی ہدایات و

الدنیا عبودۃ لتکون غدا فی اعلیٰ رہنمائی میں ہم دنیا کے اعلیٰ درجے حاصل کریں اور اعلیٰ

درجات الجنة بالقرب من عبودیت کے باعث کل قیامت میں جنت کے اعلیٰ

۱۰ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشِ ثریا کر دیا

خود نہ تھے جو راہ پر آوروں کے رہبر ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

آدمیت کا غرض سماں مہیا کر دیا اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا (ہری چند اختر)

۱۱ پ ۳، سورہ آل عمران، آیت ۴۰

رَسُولُنَا لَتَقْرَعَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ دَرَجَةً اور اپنے آقا کا قرب حاصل کر سکیں اور اس
 علیہ وسلم بنا۔ (ص ۶۶) طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں
 بھی ٹھنڈی ہوں۔

فخر آدم و بنی آدم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (میری
 رُعب کے ساتھ مدد فرمائی گئی ہے) رُعب اصل میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور جلال ہے جو دوزخ
 کے دروازے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری تعالیٰ شانہ نے
 رُعب کے ساتھ اس طرح مدد فرمائی کہ آپ کو ایسا شکر عطا کیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، دیگر
 کسی رسول کو ایسا رُعب نہیں دیا گیا۔ چنانچہ:

ذَلِكَ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ د رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں بھی
 سَلَّمَ اِيْتَا ذَكَرَ مِنْ مَسِيرَةٍ ایک ماہ کی مسافت تک ذکر چھڑ جاتا، تو دشمن
 شَهْرٌ وَقَعَ ذَلِكَ الرُّعْبُ فِي کے دل میں آپ کا رُعب سما جاتا اور اس کے
 قَلْبٌ عَدُوٌّ فَذَلَّ بِمَكَانِهِ (ص ۶۶) باعث وہ اپنی جگہ پر ہی پھسل کر رہ جاتا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ (میرے لیے مالِ غنیمت حلال
 کر دیا گیا ہے) مالِ غنیمت پلید ہوتا ہے کیونکہ یہ دشمن سے لیا جاتا ہے اور دشمن کی جملہ املاک
 پلید ہیں۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھیوں کے زیورات کا قرآنِ کریم میں
 ذکر فرمایا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

أَذْذَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ۔ ۱۷ بوجہ اُس قوم کے گننے (زیور) کے۔

زینتِ قوم کو اُس کی نجاست اور پلیدی کے باعث اوزار کہا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے لیے یعنی آپ کی اُمت کے لیے باری تعالیٰ شانہ نے غنائم کو حلال فرمایا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا وَطَيِّبًا۔ ۱۸ تو کھاؤ، جو غنیمت تمہیں ملی، حلال پاکیزہ۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وصحبہ وسلم

۱۷ پ ۱۶، سورہ طہ، آیت ۸۷

۱۸ پ ۱۰، سورہ الانفال، آیت ۶۹

۱۹ احصاء اوندھے منہ گئے سنتے ہی جبار الحق

پتھر کو موم کرتی ہے ہیبتِ رسول کی
 (مفتی ریاض الحسن نیر)

حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبحانی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے

فرمودات شہ گرامی

رحمتِ دو عالم

حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبحہانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۴۳۰ھ) اپنی کتاب

دلائل النبوة کی فصل اول میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ۖ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ۖ

بائیں وجہ آپ کے دشمن بھی اُس وقت تک عذاب سے محفوظ رہے جب تک اُن میں آپ کی جلوہ گری رہی کیونکہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے کلامِ معجزِ نظام میں یہ وعدہ فرمایا تھا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ۖ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ۖ

باوجود اس کے کہ آپ کے دشمن عذاب کے نزول کی فرمائش کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن پر عذاب نہیں بھیجا کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہم بیکسوں کے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رَحْمَةً ۖ تِلْكَ عَلَيْنَا ۖ بنا یا ہے لیکن جب آپ اُنہیں چھوڑ کر ماکِ حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو کفار پر عذاب بھیج دیا گیا یعنی کوئی قتل ہوا اور کسی کو قید کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے:

فَإِنَّمَا أَتَيْنَا مِنْهُمْ

فَإِنَّمَا أَتَيْنَا مِنْهُمْ

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث

فرمایا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہوں۔ پھر اپنی ہی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ! آپ مشرکین کی تباہی اور بربادی کے لیے دُعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا: مجھے نعمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے، عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

شانِ مصطفیٰ

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اسی سے عیاں ہے کہ خود اللہ رب العزت نے آپ کے منصب رفیع اور ظاہری و باطنی عظمت کی خبر دی ہے۔ باری تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں آپ کے اسم مبارک کے ساتھ کسی جگہ خطاب نہیں فرمایا، بلکہ خبر بھی دی ہے تو کنایہ اور وہ بھی نبوت و رسالت کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فخر ہو سکتا ہے اور اس سے ارفع و اعظم اور زیادہ باعزت مقام اور کونسا ہے؟ حالانکہ دیگر انبیائے کرام اور ان کی قوموں کو نام لے کر مخاطب کیا گیا اور ان کے منصب کا ذکر بھی کنایہ نہیں کیا کیونکہ کنایہ اعلیٰ ترین منصب پر دلالت کرتا ہے، ہاں جس مقام پر دیگر انبیائے کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مذکور ہوں تو خطاب و خبر میں مشارکت کے باعث وہاں سب کا ذکر کنایہ کے طور پر کیا گیا، لیکن جب علیحدہ ان کا ذکر ہوا تو نام لے کر۔

جب کسی بزرگ یا معظم مخاطب کو نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ کنایہ اس سے خطاب کیا جائے تو اس میں اس بزرگ کی غایت درجہ تعظیم ہے کیونکہ جو تعظیم کے غایت درجے پر پہنچا ہوا ہو اسی کے نام سے کنایہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ بادشاہ ہے تو یَا اَيُّهَا الْمَلِكُ کہا جاتا ہے۔ اگر امیر ہے تو یَا اَيُّهَا الْأَمِيرُ کہا جائے گا۔ اگر خلیفہ ہو تو یَا اَيُّهَا الْخَلِيفَةُ سے مخاطب کیا جائے گا، اگر وہ عالم دین ہے تو اُسے اَيُّهَا الْحَبِیْبُ — اَيُّهَا النَّقِیْسُ — اَيُّهَا الْعَالِمُ۔

۱۔ یا آدم است با پدر انبیاء خطاب
یا اَیُّهَا النَّبِیُّ خطابِ محمد است (جامی)

آيَتُهَا الْفَقِيْهَةُ کہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اور چونکہ آخری رُتبے اور فضیلتِ علیہ تک پہنچا یا ہے، اسی لیے خالق و مالک ہونے کے باوجود آپ کو یوں مخاطب فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** — **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ** — **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ** — **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** — کتنی ہی آیات میں اسی طرح خطاب فرمایا گیا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام علیہ السلام کو اُن کا نام لے کر مخاطب کیا گیا ہے اور اسی طرح اُن کے متعلق خبر دیتے وقت، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ** — **وَلَا تَخْرُجَا هُنَا** — **وَأْكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ** — **فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ** — میں رہو۔

حضرت آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝ ثُمَّ اجْتَبَاهُ قَتَابٌ عَلَيْهِ ۝ هَدَىٰ ۝ اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اُس کی راہ نہ پائی۔ پھر اُسے اُس کے رب نے چُن لیا تو اُس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قریب خاص کی راہ دکھائی۔

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب کیا:

يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا ۝ فرمایا گیا: اے نوح! کشتی سے اتر ہماری طرف سلامتی کے ساتھ۔

غیر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یوں خبر دی گئی:

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ۝ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اُس سے کنارہ تھا **يَبْنَىٰ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَهُ ۝** اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا

۱۶ پ ۱، سورہ لہٰ، آیت ۱۲۱، ۱۲۲

۱۶ پ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۲۵

۱۲ پ ۱، سورہ ہود، آیت ۴۸

الْكَافِرِينَ ۝

اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باری تعالیٰ شانہ نے یوں مخاطب فرمایا:
يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۝ اِے ابراہیم! اس خیال میں نہ پڑ۔

اور ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا یوں ذکر فرمایا:
وَ اِذْ يَوْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ ۝ وَ اُطْحَاتُهَا اِبْرٰهِيْمُ اِس کی نیویں اور
مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلَ ۝ اسمعیل۔

اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب کیا:
يَا مُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلٰى ۝ اے موسیٰ! میں نے تجھے لوگوں سے چُن لیا، اپنی
النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ وَ بِلَاۤىِٕ ۝ رسالت اور اپنے کلام سے
اور اُن کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے، یوں اُن کا اسم گرامی مذکور ہوا:
فَوَكَزَهُ مُوسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۝ پس موسیٰ نے اُس کو گھونسا مارا، تو اُس کا کام
تمام کر دیا۔

حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب فرمایا:
يَا عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ ۝ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! یاد کر میرا احسان اپنے
عَلَيْكَ ۝ اُوپر۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کو مخاطب کرنے کے ایک واقعے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:
وَ اِذْ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ ۝ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل!
يَا بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ ۝ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔
اللّٰهُ اِلٰكُكُمْ ۝

۱۲ پ ۱۲، سورہ ہود، آیت ۷۶

۱۳ پ ۹، سورہ الاعراف، آیت ۱۴۴

۱۴ پ ۷، سورہ المائدہ، آیت ۱۱۰

۱۲ پ ۱۲، سورہ ہود، آیت ۲۲

۱۳ پ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۱۲۷

۱۴ پ ۲۰، سورہ القصص، آیت ۱۵

۱۵ پ ۲۸، سورہ الصف، آیت ۶

اور اسی طرح دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کو باری تعالیٰ شانہ نے اُن کا نام لے کر مخاطب فرمایا مثلاً يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ۔ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا۔
يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَ اٰلَقَيْنَا عَلٰی
كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ۔ يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهٗ يَحْيٰ
يَا يَحْيٰی خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔

باقی جملہ انبیائے کرام کو اللہ رب العزت نے اُن کا نام لے کر مخاطب کیا لیکن جتنے مقامات پر بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے اُن میں صرف چار مقامات ایسے ہیں جن میں آپ کا نام لیا گیا لیکن ساتھ ہی وصف رسالت بھی بیان فرمادیا مثلاً:
وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ اُن سے پہلے اور
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُ۔ کہ رسول ہو چکے۔

دوسرے مقام پر آپ کا ذکر، فضائلِ مصطفیٰ اور مناقبِ صحابہ کرام کے ساتھ یوں فرمایا ہے:
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ط وَ الَّذِيْنَ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اُن کے ساتھ والے
مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْكٰفِرِيْنَ رَحْمًا کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو
بَيِّنٰهُمْ تَرٰهُمْ مُرْكَعًا سٰجِدًا انہیں دیکھ گار کوع کرتے اور سجدے میں گرتے
يَسْتَفْعُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا اللہ کا فضل اور رضا چاہتے۔ ان کی علامت اُن کے
سِيْمًا هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ اُن کی
السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي صفتِ توریت میں ہے اور اُن کی صفت
التَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ انجیل میں۔

پ ۸، سورہ الاعراف، آیت ۷۷

پ ۲۳، سورہ ص، آیت ۳۳

پ ۱۶، سورہ مریم، آیت ۱۲

پ ۲۶، سورہ الفتح، آیت ۲۶

پ ۱۲، سورہ ہود، آیت ۵۳

پ ۲۳، سورہ ص، آیت ۲۶

پ ۱۶، سورہ مریم، آیت ۷

پ ۱۴، سورہ آل عمران، آیت ۱۴۴

تیسرے مقام پر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کا اعلان فرماتے ہوئے یوں آپ کا اسم گرامی مذکور ہوا:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ هَا اللَّهُ رَسُولٌ هِيَ أَوْرَسَب نَبِيَّوْنَ مِيْنَ
خَاتَمَ النَّبِيِّينَ - ۱۰ پچھلے۔

چوتھے مقام پر آپ کی رسالت پر ایمان لانے کی تلقین فرماتے اور قرآن کریم کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے یوں ذکر فرمایا:

وَأٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّهِمْ - ۱۱ دُہی اُن کے رب کے پاس سے حق ہے۔

مندرجہ بالا آیات میں آپ کا اسم گرامی مذکور ہونے میں یہ حکمت ہے، تاکہ آپ کا ہر منکر و مخالف بھی جان لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور اُن کی کتاب برحق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ علاوہ بریں وہ لوگ آپ کو محمد کے علاوہ اور کسی نام سے جاننے نہ تھے۔ اگر قرآن کریم میں آپ کا اسم گرامی مذکور نہ ہوتا تو کتاب سے آپ کا نام معلوم نہ کیا جاسکتا، جیسے جن انبیائے کرام کے اسمائے گرامی قرآن مجید میں مذکور ہو گئے وہ اب بھی متعارف ہیں (دوسروں کے اسمائے گرامی تک معلوم نہیں)۔

مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ذکر فرمایا ہے، یہ آپ کے فضائل و کمالات اور وقار و شرف کو اور بڑھاتا ہے کیونکہ آپ کا یہ اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے نام سے مشتق ہے جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے:

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيُحِبَّهُ
قَدْ وَالْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ
(حضرت حسان رضی اللہ عنہ)

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یکجا ذکر فرمایا تو حضرت

۱۰ پ ۲۲، سورہ الاحزاب، آیت ۴۰ ۱۱ پ ۲۶، سورہ محمد، آیت ۲
۱۲ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے مشتق کیا (نکالا) ہے، تاکہ آپ کو یہ شرف حاصل ہو، کیونکہ عرش کا مالک محمود ہے اور اُن کا اسم گرامی محمد رکھا۔ (جل جلالہ) و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ابراہیم خلیل اللہ کا نام لیا لیکن اپنے حبیب کا نبوت کے کنایہ سے ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ
شانہ ہے،

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ
لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ لہ

بیشک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ
حقدار وہ تھے، جو اُن کے پیرو ہوئے اور
یہ نبی اور ایمان والے۔

اس طرح ذکر فرمانے سے باری تعالیٰ شانہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اُس کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی جلالتِ شان، رفعت، مرتبہ کی فضیلت اور عظمت کتنی ہے۔ جملہ انبیائے کرام
آپ سے پہلے مبعوث ہوئے لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اُن کا ذکر فرمایا تو آپ کے
اسم گرامی کو مقدم رکھا مثلاً:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى
نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَآيُوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ
وَسُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ ذُرِّيَّاهُ
(علیہم السلام) کو زبور عطا فرمائی۔

بے شک اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف وحی
جیسے وحی نوح اور اُس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی اور
ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب
اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یوسف اور
ہارون اور سلیمان کو وحی کی اور ہم نے داؤد
وسلیمان و دَاوُدَ ذُرِّيَّاهُ

قرآن کریم میں دوسرے مقام پر دیگر انبیائے کرام کے ساتھ یوں ذکر فرمایا ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ ذُو نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت کی تفسیر و وضاحت کرتے ہوئے

فرمایا کہ میں پیدائش کے لحاظ سے جملہ انبیائے کرام سے اول اور بلحاظ بعثت سب میں آخری ہوں۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کا نام لے کر خطاب کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے حالانکہ باقی امتوں کے حالات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ لوگ اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام کو نام لے کر مخاطب کیا کرتے تھے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا گیا،

يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا أَنَا مُوسَى اٰیہیں ایک خدا بنا دے جیسے
لَهُمُ الْإِلَٰهَةُ ط۔ ۱۷ ان کے اتنے خدا ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اُن کی قوم یوں مخاطب ہوتی ہے،

يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ اے عیسیٰ بن مریم! کیا آپ کا رب ایسا
مَعَكُمْ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً کمرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک
مِنَ السَّمَاءِ۔ ۱۸ خوان اتارے۔

حضرت ہود علیہ السلام کو اُن کی قوم نے ایک مرتبہ یوں مخاطب کیا تھا،

يَا هُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا اے ہود! تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے
نَحْنُ بِتَارِكِي الْيَمَنِ اَعْمٰت اور ہم خالی تمہارے گھنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے
قَوْلِكَ۔ ۱۹ کے نہیں۔

حضرت صالح علیہ السلام سے اُن کی قوم یوں مخاطب ہوئی تھی،

يَا صَالِحُ اِنَّا نَعِدُّكَ اے صالح! ہم پر لے آؤ جس کا وعدہ دے
رہے ہو۔

لیکن اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا،
لَا تَجْعَلُوا دُعَا التَّوَسُّلِ بَيْنَكُمْ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ

کَدُّ عَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ لے جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس جانب راغب کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے ساتھ منسوب کر کے پکارا کریں یعنی یَا نَبِیَّ اللہ، یَا رَسُوْلَ اللہ وغیرہ کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب رفیع کو دکھانے، عظمت و شرف دینے کے لیے، اس فضیلت کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین سے آپ کو مخصوص فرمایا تھا (علیہم الصلوٰۃ والسلام)

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَکُمْ کَدُّ عَاۤءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کی تفسیر میں فرمایا کہ شروع ایام میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یَا مُحَمَّدُ۔۔۔۔۔ یا اَبَا الْقَاسِمِ کہہ کر مخاطب کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا سبک بٹھانے کی خاطر اس طرح پکارنے سے لوگوں کو منع فرما دیا ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے یَا نَبِیَّ اللہ۔۔۔۔۔ یا رَسُوْلَ اللہ وغیرہ القاب سے مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ہی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ مذکورہ آیت لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ (الایہ) میں اس بات کی ممانعت فرمائی گئی ہے، جو بعض لوگ دُور سے چلا کر کہا کرتے تھے یا اَبَا الْقَاسِمِ۔ لیکن نزدیک ہو کر اور آہستہ آواز میں کہنے سے منع نہیں فرمایا گیا، جیسا کہ باری تعالیٰ شانہ نے رفع صوت کے بارے میں فرمایا ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ
اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبُہُمْ لِتَقْوٰی ط
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِیْمٌ۔ لے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

حافظ ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت و خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجلال و اکرام کی خاطر یہ اہتمام فرمایا کہ انبیائے ماضی کے امتی جس طرح اپنے پیلوں کو مخاطب کر لیا کرتے تھے آپ کو اس بارے میں اُن سے جدا کر دیا گیا۔ یعنی اگلی امتوں میں لوگ اپنے اپنے نبی سے مَا اِعْنَا سَمْعَكَ کہا کرتے تھے یعنی مزید رعایت فرمائیے تاکہ ہم آپ کی بات سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے اُمتِ مرحومہ کو منع فرمادیا، جس میں توہین و تنقیص کا پہلو نکل سکتا ہو اُنہیں ایسا راستہ اختیار کرنے ہی سے رکھ دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
وَإِعْنَا وَقُولُوا نَبْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلْيَكْفُرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۱۰۴
اے ایمان والو! اِعْنَا نہ کہو اور یوں عرض کرو
کہ حضور! ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو
وَلْيَكْفُرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۱۰۴ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

حافظ ابو نعیم علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ مَا اِعْنَا لفظ یہود کی زبان میں گالی ہے لہذا اس کی جگہ اُنْظُرْنَا کہنے کا حکم فرمایا گیا جس سے مراد ہے کہ ہمیں پھر سنائیے اور ہمارے اُوپر نظر کرم فرمائیے۔ اس مانعت کے بعد جب صحابہ کرام نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ جس کی زبان سے مَا اِعْنَا کا لفظ برائے مخاطبہ سنو، تو فوراً اُس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہود کو معلوم ہوا تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا۔

معاینین سے دفاع

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں، سائر لامکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ پہلے انبیائے کرام علیہم السلام پر اُن کی تکذیب کرنے والوں نے بیوقوفی، گمراہی اور جھوٹ جیسے عیوب کی تہمت بھی لگائی تھی اور اُن کے جواب میں

انبیائے کرام اپنی صفائی پیش فرمایا کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے الزامات کے جواب دینے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی کہ :

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۱۰ بیشک ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اس الزام کا انہیں یہ جواب دیا :

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ۝۱۱ اے میری قوم! مجھ میں گمراہی کچھ نہیں۔

لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر یوں زبانِ طعن و تشنیع دراز کی :

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ۝۱۲ بیشک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔

آپ نے اس عیب کی اپنے ذات میں ہونے سے یوں نفی فرمائی :

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ۝۱۳ اے میری قوم! مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ؟

فرعون جیسے متکبر اور بد بخت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر یوں الزام تراشی کی :

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝۱۴ اے موسیٰ! میرے خیال میں تم پر جادو ہوا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کو بر ملا یوں جواب دیا کہ وہ بوکھلا اٹھا یعنی :

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝۱۵ میرے گمان میں تو اے فرعون! تو ضرور ہلاک

ہونے والا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمت و شرف کے باعث لگائے گئے

الزامات کا جواب دینے سے بے نیاز کر دیا تھا، مثلاً باری تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام معجز نظام

میں فرمایا ہے :

مَا أَنتَ بِمُعْجِزٌ دُفْعًا ۝۱۶ تَمَّ أَجْرُ رَبِّكَ فَتَعَبًا ۝۱۷ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔

۱۰ پ ۸ ، سورۃ الاعراف ، آیت ۶۱

۱۰ پ ۸ ، سورۃ الاعراف ، آیت ۶۰

۱۱ پ ۸ ، سورۃ الاعراف ، آیت ۶۱

۱۱ پ ۸ ، سورۃ الاعراف ، آیت ۶۱

۱۲ پ ۱۵ ، سورۃ بنی اسرائیل ، آیت ۱۰۲

۱۲ پ ۱۵ ، سورۃ بنی اسرائیل ، آیت ۱۰۱

۱۳ پ ۲۹ ، سورۃ القلم ، آیت ۲

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ اَوْرِثْنَا لَهٗ اَنْ يَّكُوْنُ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ۝۱۰۰

شان کے لائق ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ ۝ تَمَّارے صاحب نہ بکے، نہ بے راہ چلے۔

یعنی سحر، کھانت اور جینون کے ساتھ کفار نے آپ کو مبتہم کیا تو باری تعالیٰ شانہ نے یوں دفاع فرمایا:

اَقْمِنُكَ اَنْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ تَوَكَّلْ عَلٰى رُبِّكَ ۚ رُبُّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

وَيَسْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ۖ
اور اُس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے۔

اور کفار جو مذاق اڑاتے تھے اُس کو اللہ رب العزت نے پہلے یوں بیان فرمایا:

هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُذَبِّكُكُمْ ۖ كَمَا تَهْتَمُّونَ بِهِمَا مَعَهُ مَرْءًا وَمَرْءًا ۚ

اِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مَرْقٍ اَنْتُمْ كَرِهْتُمْ مُرْزَهُ هُوَ كَرِهْتُمْ كُلَّ رَزْزَهُ هُوَ جَاوَدُ

سَیِّئُ خَلْقٍ حَدِید - ۴۷

اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا،

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَذِبٌ

فَوَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ

[illegible]

خواہشات

حکایت بی مرگ فرمائی کہ میرا چاہے لادے مجھے بی اسیر لادو دیکھ اسیر

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الرَّسْلِ وَیَبَادِیْ لَعَالِیْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ

یٰۤاِیُّهَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰکَ خَلِیْفَہٗ فِیْہِ ۚ اَسْمِعْ ہٰذَا لِمَنْ یُّشَکُّ فِیْہِ ۚ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ اٰیٰتٍ لِّمَنْ یُّذَکِّرُ ۚ

لا رخصي فاحمدين الناس بالحي
لو لو لو لو لو لو لو لو لو

لا سَمِعَ الْهُدَىٰ قِيَصَاتُ عَنِّ ۖ لَمْ يَجِدْ لَهُ سَبِيلًا ۚ

سَبِيلِ اللَّهِ - دے گی۔

سورہ یس، آیت ۶۹

سورہ ہود، آیت ۷۱

سورہ سبأ، آیت ۴۰

لیکن اپنے حبیب علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے بارے میں ستاروں کے ظاہر ہونے اور چھپنے کی قسم یاد فرما کر، قرآن کریم کے نزول اور اس کے مواقع کی قسم یاد فرمانے کے بعد، اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ میرا حبیب، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کبھی لب کشا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ ۱
اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگر وحی، جو انہیں کی جاتی ہے۔

اس آیت کریمہ میں واؤد علیہ السلام کے برعکس معاملہ ہے کیونکہ یہاں وضاحت فرمادی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش کو حکیم الہی میں فنا کیے ہوئے ہیں۔ خواہش اُن پر غالب آتی ہی نہیں۔

لغزش کا ذکر حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت بھی مرحمت فرمائی ہے کہ دیگر انبیائے کرام کے حال کا ذکر فرمایا اور ماضی میں اُن سے جو کچھ سرزد ہوا اُسے معاف فرمادیا گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے یوں خبر دی ہے:

دَبَّارَاتِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ۚ ۲ اے میرے رب! میں نے اُن میں ایک جان مار ڈالی ہے۔

اس بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یوں اپنی گزارش پیش کی:

رَبِّ ارْنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ۚ ۱ اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، غفّر لہ۔ ۳ تو مجھے بخش دے، تو رب نے اُسے بخش دیا۔

اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا ذکر کر کے معافی چاہی۔ اسی طرح حضرت واؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر فرمایا جبکہ اُن کی بارگاہ میں دو فرشتے جھگڑتے ہوئے آئے اور

ایک نے کہا:

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ بَيْتًا يَهْمُ بِهَذَا بَيْتًا هَذَا هُوَ بَيْتُكَ
نَعَجَةٌ وَرَبِّي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ ۱۰ وَنَبِيَّاتٌ هُنَّ أَمْرٌ بِأَسْمَاءٍ هُنَّ أَمْرٌ بِأَسْمَاءٍ هُنَّ أَمْرٌ بِأَسْمَاءٍ

تو داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی زیادتی اور حد سے بڑھنے کے بارے میں یوں فرمایا:
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ ۝ ۱۰ وَنَبِيَّاتٌ هُنَّ أَمْرٌ بِأَسْمَاءٍ هُنَّ أَمْرٌ بِأَسْمَاءٍ
إِلَى نَعَاجِهِ ۝ ۱۱ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۝ ۱۲
جب داؤد علیہ السلام پر اس مکالمے کی حقیقت منکشف ہوئی تو بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے:
وَوَضَّحَتْ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ ۝ ۱۳ وَخَرَّ رَاكِعًا ۝ ۱۴ وَابْتَدَأَ بِتِلْكَ آيَاتِهِ ۝ ۱۵
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۝ ۱۶ لَّا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ لَمَّا هُوَ قَائِمٌ ۝ ۱۷

اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیائے کرام کی لغزشوں کا ذکر کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مغفرت کا
مردہ سناتے وقت کسی لغزش کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ آپ کا انتہائی اکرام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم
میں ہے:

لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۝ ۱۸
ذُنُوبُكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۝ ۱۹

یہ فضیلت اور شرف کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟

مِثَاقِ نَبِیَّاءِ

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

۱۰ پ ۲۳ ، سورہ ص ، آیت ۲۳

۱۱ پ ۲۳ ، سورہ ص ، آیت ۲۳

۱۲ پ ۲۶ ، سورہ الفتح ، آیت ۲

۱۳ پ ۲۳ ، سورہ ص ، آیت ۲۳، ۲۵

کے فضائل سے یہ امر بھی ہے کہ:

اخذ الله الميثاق على جميع
انبياءه ان جاءهم رسول
امنوا به ونصروه فلم يكن
ليدرك احد منهم الرسول الا
وجب عليه الايمان به والنصرة
له لاخذ الميثاق منه فجعلهم
كلهم اتباعا له يلزمهم
الانقياد والطاعة له لو ادرکوه۔
الله تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء سے عہد لیا کہ جب
نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کے پاس
تشریف لائیں تو اُن پر ایمان لائیں اُن کی مدد کریں۔
اگر کوئی آپ کا زمانہ اقدس پاتا تو اُس پر یہ واجب تھا
کہ آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا۔ اس
وعدہ لینے سے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو
آپ کا تابعدار بنادیا یعنی اگر وہ زمانے کے لحاظ سے
آپ کو پالیتے تو اُن پر آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت
(ص ۱) لازم ہو گئی تھی۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ:
قال انبت النبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم و معی کتاب
اصبته من بعض اہبل
الکتاب فقال صلی اللہ علیہ
وسلّم و الذی نفس محمد
جمیدہ لو ان موسیٰ کان حیّا ما
وسعه الا ان یتنبغنی۔ (ص ۱) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے ہاتھ میں
ایک کتاب تھی جو میں نے کسی اہل کتاب سے
لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان
جمیدہ لو ان موسیٰ کان حیّا ما
وسعه الا ان یتنبغنی۔ (ص ۱) میرے اتباع کے سوا اور چارہ کار نہ ہوتا۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل
میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کسی شرط اور استثناء کے بغیر فرض ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تمام لوگوں پر کسی شرط اور
استثناء کے بغیر فرض فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا اَشْكُمُ الرَّسُولُ فَاِذَا دُعِيَ

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۚ اے اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میری اطاعت کا یا میری کتاب سے میرے حکم یا وحی کے مطابق تمہیں حکم فرمائیں تو اُس کی تعمیل کرنا بلکہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امر و نہی کو مطلقاً ساری مخلوق پر فرض ٹھہرا دیا، جس طرح وحی الہی کا ماننا اور اُس پر عمل کرنا فرض ہے۔ آپ کے حکم کو روکنے اور اُس میں میں میکھ نکالنے کا مجاز کوئی نہیں، نہ کوئی مناظرہ کر سکتا ہے نہ دلیل طلب کر سکتا ہے مجاز ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اُن کی قوم نے کہا تھا:

وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ ۚ اے موسیٰ! ہم ہرگز تمہارا یقین
کے لئے نہ آئیں گے، جب تک غلامیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔

نام خدا اور نام نبی کا اتصال

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اطاعت، معصیت، فرائض، احکام، وعدہ اور وعید وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہاں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام یا منصب بھی متصلاً ذکر کیا۔ مندرجہ ذیل آیات بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ حُكْمَ مَانُوا اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔

۲۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا حُكْمَ مَانُوا اللہ اور اُس کے رسول کا اور سُن سُنَاکَر
عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ اُس سے نہ پھرو۔

۳۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہیں جن پر

۱۔ پ ۱، سورۃ البقرہ، آیت ۵

۲۔ پ ۹، سورۃ الانفال، آیت ۱

۱۔ پ ۲۸، سورۃ الحشر، آیت ۱

۳۔ پ ۵، سورۃ النساء، آیت ۵۹

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ - ۱۷ عنقریب اللہ رحم کرے گا۔

۴۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ - ۱۸ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اُس کے رسول پر یقین لائے (یعنی ایمان لائے)

۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِي وَرَسُولِي - ۱۹ اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جاؤ۔

۶۔ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - ۲۰ اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اُس کے رسول کا۔

۷۔ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - ۲۱ بیشک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اُس کے رسول کو۔

۸۔ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ۲۲ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے

۹۔ أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ۲۳ اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے

۱۰۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ۲۴ اور اللہ اور اُس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بناؤ۔

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ۱۷ پ ۱۸ ، سورۃ النور ، آیت ۶۲ | ۱۷ پ ۱۸ ، سورۃ التوبہ ، آیت ۱۷ |
| ۱۸ پ ۲۲ ، سورۃ الاحزاب ، آیت ۳۶ | ۱۸ پ ۲۲ ، سورۃ الاحزاب ، آیت ۲۳ |
| ۱۹ پ ۱۰ ، سورۃ التوبہ ، آیت پہلی | ۱۹ پ ۲۲ ، سورۃ الاحزاب ، آیت ۵ |
| ۲۰ پ ۱۰ ، سورۃ التوبہ ، آیت ۱۶ | ۲۰ پ ۱۰ ، سورۃ التوبہ ، آیت ۳ |

۱۱۔ اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ كِیَا اُنْخِیْصَ خِیْرٌ نَّهْیْسَ کَہْ جَوْخِلَافَ کَرِی اللّٰہ اور اُس کے رَسُوْلَہ۔ ۱

۱۲۔ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِیْنَ یُحَادِثُوْنَ وَہ کَہ اللّٰہ اور اُس کے رَسُوْل سے لڑتے ہیں، اُن کا اللّٰہ رَسُوْلَہ... ۲

۱۳۔ وَلَا یُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰہ اور اُس چیز کو حرام نہیں مانتے جس کو اللّٰہ اور اُس کے رَسُوْل نے حرام کیا ہے۔ ۳

۱۴۔ وَمَنْ یُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَہ اور جو اللّٰہ اور اُس کے رَسُوْل سے مخالفت کرے۔

۱۵۔ قُلْ اِنَّ نَفَالُ لِلّٰہِ وَلِیْسَ سُوْلِہ تم فرماؤ، غنیمتوں کے مالک اللّٰہ اور رَسُوْل ہیں۔

۱۶۔ فَرُدُّوْہ اِلٰی اللّٰہِ وَرَسُوْلِہ تو اُسے اللّٰہ اور رَسُوْل کے حضور رجوع کرو۔

۱۷۔ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْہ مَا اَتَاہُمُ اللّٰہ اور کیا اچھا ہوتا، اگر وہ اس پر راضی ہوتے، جو اللّٰہ اور اُس کے رَسُوْل نے اُن کو دیا۔ ۷

۱۷ پ ۶، سورہ المائدہ، آیت ۳۳

۱۷ پ ۹، سورہ الانفال، آیت ۱۳

۱۷ پ ۵، سورہ النساء، آیت ۵۹

۱۷ پ ۱۰، سورہ التوبہ، آیت ۶۳

۱۷ پ ۱۰، سورہ التوبہ، آیت ۲۹

۱۷ پ ۹، سورہ الانفال، آیت پہلی

۱۷ پ ۱۰، سورہ التوبہ، آیت ۵۹

۱۸۔ وَقَالُوا احْسَبْنَا لِلّٰهِ سَيُّئًا تَعِينَا كَسَمَ اَهِلُّ اللّٰهِ كَافِيًا هُوَ۔ اب دیتا ہے اللہ ہمیں اپنے
اللہ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ ۱۷ فضل سے اور اس کا رسول۔

۱۹۔ فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ يٰ تو پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول کا ہے۔

۲۰۔ وَمَا لَكُمْ اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ۔ ۱۸ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔
اور انہیں کیا بُرا لگا یہی نہ کہ اللہ اور

۲۱۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ۔ اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے
جھوٹ بولا تھا۔

۲۲۔ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اُسے نعمت دی۔
مذکورہ بالا آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے نام کو ملایا ہے اور یہ انتہائی تعظیم اور شرف کی بات ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَصَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارَکْ وَسَلَّم۔

فضیلتِ مصطفیٰ از احادیثِ مطہرہ

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل میں
بہت سی احادیث اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو ابو ہریرہ

۱۷ پ۔ ۱، سورہ الانفال، آیت ۴

۱۸ پ۔ ۱، سورہ التوبہ، آیت ۹۰

۱۷ پ۔ ۱، سورہ التوبہ، آیت ۵۹

۱۸ پ۔ ۱، سورہ التوبہ، آیت ۴

۱۷ پ۔ ۲۲، سورہ الاحزاب، آیت ۴

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی؛ فرمایا: اُس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اُن میں رُوح پھونکی۔ حضرت عرواض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اُن کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ: میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اگرچہ سب سے پچھلے ہیں لیکن قیادت میں سب پر سبقت لے جانے والے ہوئی گے (یعنی جنت میں جاتے وقت سب سے آگے ہوں گے یا تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے)۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک، جن سے میں پیدا ہوا، اُن سب کے نکاح ہوئے تھے، اُن میں کوئی بھی بدکار نہیں تھا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کسی کے نزدیک سے بھی بدکاری (زنا) قطعاً نہیں گزری تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے والدین سفاح نہیں کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ پاک اصحاب سے پاک رحموں کی جانب منتقل کرتا رہا ہے، جو ہمیشہ صاف اور مہذب رہے۔ جہاں بھی میرے آباؤ اجداد ہیں دوسری شاخ پھوٹی تو مجھے اُن میں سے بہتر شاخ میں رکھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! قریش آپس میں بیٹھ کر حسب و نسب کا تذکرہ کر رہے تھے تو انھوں نے آپ کی مثال اُس کھجور جیسی بیان کی جو اونچی زمین پر اُگا ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہتر مخلوق میں رکھا، جب قبائل بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں پیدا فرمایا، جب نفسوں کو پیدا کیا تو مجھے بہتر نفوس میں رکھا، جب گھروں کی تقسیم فرمائی تو مجھے بہتر گھر میں پیدا فرمایا۔ پس میں قریش سے باپ کے اعتبار سے اور نفس و ذات کے اعتبار سے بہتر ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَ تَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے ہی انبیائے کرام کے پاک اصحاب سے منتقل ہوتے آئے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو جنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پلکیا تو اُن میں سے بنی آدم کو اختیار کیا، بنی آدم سے عرب کو چنا، عرب سے مضر، مضر سے قریش، قریش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم سے مجھے پسند فرمایا۔ تو میں بہتر لوگوں سے اگلے بہتر افراد کی جانب منتقل ہوتا آیا ہوں۔ پس جو شخص اہل عرب سے محبت کرے وہ میرے ساتھ محبت رکھنے کے باعث ہی محبت کرے گا اور جو اُن سے بُغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بُغض رکھنے کے باعث ہی اُن سے بُغض رکھے گا۔ (محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی محبت کے لائق ہوتی ہے)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے متعبد نام ہیں۔ میں محسند ہوں، میں احسد ہوں، میں کماچی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کفر کو مٹائے گا۔ میں عاشر ہوں کیونکہ لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ میں عاقب ہوں کیونکہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے پاس میرے دس نام ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اُن میں سے آٹھ نام یہ ہیں: محسند، احسد، ابوالقاسم، فاتح، خاتم، عاقب، عاشر اور کماچی۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے یہی یاد رہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہ اور یسین بھی آپ کے نام ہیں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ و باریک وسلم۔

حیاتِ مصطفیٰ کی قسم

اس فضیلت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کی قسم کھائی ہے، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معزز باری تعالیٰ شانہ نے کسی فرد کو پیدا نہیں فرمایا کیونکہ آپ کے علاوہ
 اور کسی کی حیات کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد نہیں فرمائی، لیکن آپ کے بارے میں فرمایا:
 لَعَنُوكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ اے محبوب! تمہاری جان کی قسم، بیشک وہ اپنے
 یَعْنَهُونَ ۝ ۷۰ نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں
 وَحَيَاتُكَ يَا مُحَمَّدٌ یعنی اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تمہاری حیاتِ طیبہ کی قسم۔ حافظ
 ابولعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عقلاء کے مسلمات سے ہے کہ معظم، محترم اور مکرم ہستیوں
 کی قسم ہی کھائی جاتی ہے۔ اس سے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 جلالتِ شان اور آپ کے احکام کی عظمت کا سکہ دلوں پر بیٹھ جاتا ہے نیز اللہ رب العزت نے
 آپ کی زبانِ حق تر جہان سے جو شرعی احکام جاری کروائے، اپنے بندوں کو ان کے ذریعے
 وحدانیت کا سبق ازبر کر دیا اور دولتِ ایمانی سے مالا مال کرنے کی جانب دعوت دینے کی
 عظمت میرہن ہوتی ہے۔ اس قسم سے آپ کی نبوت و رسالتِ جلیلہ کا مکمل یقین ہو جاتا ہے اور
 یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ باری تعالیٰ شانہ کے نزدیک نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 ساری مخلوق سے معزز اور دائرہ تخلیق کا مرکز و محور ہیں۔

بزمِ محشر میں شانِ محبوبی

حافظ ابولعیم رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت اور اس سے متعلقہ احادیث اپنی
 سند کے ساتھ روایت کی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
 فجرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا

۱۔ پ ۱۴، سورہ الحج، آیت ۷۲

۷۰ گردش میں جس کے گرد ہے پرکار کائنات
 وہ ایک خاص مرکزِ دوراں ہے مصطفیٰ (اختر الحامدی)

سردار ہوں گا۔ زمین سب سے پہلے میرے لیے کھلے گی اور میں اپنے روضۂ اطہر سے باہر تشریف فرما ہوں گا۔
 سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور لواء الحمد اُس روز میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے آدم علیہ السلام
 اور دیگر انبیائے کرام بھی ہوں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں
 اپنے روضۂ انور سے باہر نکلوں گا، جب وہ وفد کی صورت میں چلیں گے تو اُن کا قائد میں ہوں گا۔
 جب وہ خاموش ہوں گے تو اُن کی جانب سے گفتگو کرنے والا میں ہوں گا، جب وہ جنت میں
 داخل ہونے سے روکے جائیں گے تو اُن کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، جب وہ مایوس
 ہو چکے ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری دوں گا، کرامت کا جھنڈا، جنت کی گنجیاں اور لواء الحمد
 اُس روز میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اُس روز آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سب سے
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوں گا۔ ایک ہزار خادم میرا طواف کریں گے گویا وہ چھپی
 ہوئی سفیدی ہیں یا بکھرے موتی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنوں اور انسانوں بلکہ ہر کالے گورے کی جانب مبعوث
 فرمایا گیا ہوں۔ مجملہ انبیائے کرام میں سے غنیمتیں صرف میرے ہی لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔
 ساری زمین میرے لیے پاک اور مسجد ٹھہرا دی گئی۔ میں اپنے سامنے ایک ماہ کی مسافت تک
 رعب کے ساتھ مدد فرمایا گیا ہوں۔ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات مرحمت فرمائی گئی ہیں، جو
 جو جنت کے خزانوں سے ہیں۔ مجھے مفصل (سورتوں کے ساتھ) فضیلت دی گئی ہے۔ میں

اے ایسے حضرات کی جرأت کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے جو اپنے دین و ایمان کی لٹیا ڈبو کر، عقل کی
 آنکھوں پر لُغض و عناد اور ہٹ دھرمی کی پٹی باندھتے ہوئے بھند ہو کر آج تک تقویۃ الایمان میں ہی کھتے
 اور شائع کرتے آرہے ہیں کہ "سب انبیاء اور اولیاء اُس کے نزدیک ایک درجہ ناپیر سے بھی کمتر ہیں۔"
 اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت مرحمت فرمائے۔ (ایمن)

دنیا اور آخرت میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ زمین سب سے پہلے میرے لیے اور میری امت کے لیے کھلے گی۔ یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا (یعنی تحدیثِ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں) قیامت کے روز نواب احمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے سارے انبیائے کرام اس روز میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ بروز قیامت جنت کی گنجیاں میرے سپرد فرمائی جائیں گی اور یہ فخر و غرور کے طور پر نہیں کہتا۔ اس روز میرے ہی وسیلے سے در شفاعت کھلے گا اور یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ اس روز مخلوق خدا کو جنت کی طرف لے جانے والا میں ہوں گا۔ یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ میں اہل محشر کا امام ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے پیچھے چلے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص میں ہوں جس کے لیے زمین سب سے پہلے کھلے گی، پھر ابوبکر سے پھر عمر سے (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) پھر اہل بیت ائین گے اور میرے پاس جمع ہو جائیں گے پھر میں مکہ مکرمہ والوں کا انتظار کروں گا اور حرمین شریفین کے درمیان سب کو اکٹھا کروں گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میں ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول فرمائی جائے گی۔ یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ بروز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہی دست مبارک میں ہوگا اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اس روز بنی آدم کا سردار میں ہوں گا اور یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ میرے بعد سب سے پہلے

لے اسی لیے تو مولانا حسن رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے: ۱۰

فقط اتنا سبب ہے العقدِ بزمِ محشر کا

کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

۱۱ یہ عصیاں شمارِ بارگاہِ رسالت میں عرض گزار ہے: ۱۰

ترے صدقے مجھے اک بوند بہت ہے تیری

(رضا)

جس دن اچھوں کو طے جام چھلکتا تیرا

جنت میں فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوگی کیونکہ اس اُمت میں اُس کی مثال ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہ السلام کی۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شفیع البذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الناس يصعقون يوم القيامة بروز قیامت جب سارے انسان بیہوش ہو جائیں گے

فاصكون اول من يفتق وعن امر كوزا قوسب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ ام کرز

مرضی اللہ عنہا انہا قالت سمعت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمان

اناسید المومنین اذا بعثوا وسائقهم جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا سردار

اذا وردو ومبشرهم اذا البسوا واما هم میں ہوں گا جب وہ آئیں گے تو میں ان کی رہنمائی

اذا سجدوا واقربهم مجلسا کروں گا۔ جب وہ ناامید ہو جائیں گے تو میں خوشخبری

من الرب تعالیٰ اذا اجتمعوا دوں گا۔ جب وہ سجدے میں پڑیں گے تو میں ان کا

اقول فاتكلم فیصدقنی امام ہوں گا۔ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو میں رب

واشفع فیشفعنی واسئال تعالیٰ کے دوسروں کی نسبت زیادہ قریب تمکین

ہوں گا۔ جب کلام کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری معروضا

فیعطینی۔ (ص ۳۷) کو قبول فرمائے گا۔ شفاعت کروں گا تو قبول

ہوگی۔ سوال کروں گا تو عطا فرمایا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے نبیوں پر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دیا گیا ہوں (۱) مجھے جامع کلمات

دئے گئے ہیں (۲) رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے (۳) ایک روز میں سورہا تھا کہ زمین کے تمام

خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں (۴) میں سارے انسانوں کا رسول ہوں (۵) غنیمتیں صرف میرے لیے حلال

فرمائی گئی ہیں (۶) نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرمایا گیا ہے۔ جو اسع الکلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام علوم و معارف بھی جمع فرما دیئے ہیں جو سابقہ کتب

میں مندرج تھے۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

۲۳۲ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھے محمد بن احمد بن حسن نے خبر دی،
 انھیں محمد بن عثمان بن ابوشیبہ نے، انھیں جبارہ بن مغلس نے، انھیں ربیع بن نعمان نے، انھیں
 سہل بن صالح نے اپنے باپ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی اور اُس میں اس اُمتِ رحیم
 کے فضائل پڑھے تو بارگاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب! میں نے توریت کی تختیوں
 میں ایک ایسی اُمت کا تذکرہ پایا ہے جو سب سے آخری لیکن سب پر سبقت لے جانے والی ہے،
 اُسے میری اُمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اُمت ہے۔
 پھر عرض گزار ہوئے: اے باری تعالیٰ! میں نے توریت میں ایک ایسی اُمت کا ذکر دیکھا ہے جس کے
 بارے میں سب سے پہلے شفاعت قبول فرمائی جائے گی، اُسے میری اُمت بنا دے۔ اللہ رب العزت
 نے فرمایا: وہ احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اُمت ہے۔ پھر عرض کرنے لگے: اے پروردگار!
 میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی اُمت کا بیان پڑھا ہے جو تیری جانب رجوع کرتی رہے گی
 اور تُو ان کی دعائیں قبول فرماتا رہے گا، اُسے میری اُمت بنا دے۔ جواب ملے گا: وہ احمد
 (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اُمت ہے۔

پھر عرض کیا: اے رب العزت! میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی
 اُمت کا بیان پڑھا ہے، جو تیرے احکام کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گی اور اُسے ازبر
 پڑھے گی، اُسے میری اُمت کر دے۔ جواب ملا: وہ احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اُمت ہے۔
 پھر عرض گزار ہوئے: اے پالنے والے! میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی اُمت کا حال
 پڑھا ہے جو فنی کھائے گی۔ اُسے میری اُمت بنا دے۔ جواب ملا: وہ احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
 کی اُمت ہے، پھر عرض کرنے لگے: اے پروردگار! میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی اُمت دیکھی
 ہے جو صدقہ خود کھائے گی، لیکن اس پر بھی ثواب کی حقدار ہوگی، اُسے میری اُمت بنا دے۔ جواب ملا: وہ احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
 کی اُمت ہے۔ پھر ملتی ہوئے: اے اللہ رب العزت! میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی اُمت
 کے حالات پڑھے ہیں کہ جب وہ لوگ نیکی کا قصد کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب اُسی وقت لکھ دیا جائیگا

خواہ اُس پر عمل نہ کر سکیں اور اگر اُس نیکی کو کر پائے تو نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اُسے میری اُمت بنا دے۔ جواب ملا: وہ احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اُمت ہے۔ پھر عرض کرنے لگے: رب غفور! میں نے توریت میں ایک ایسی اُمت کے حالات پڑھے ہیں کہ اگر وہ لوگ بُرائی کا قصد کریں گے اور اُس کا ارتکاب نہ کر سکیں تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا اور جب اُس بُرائی کے مرتکب ہو جائیں تو صرف ایک بُرائی لکھی جائے گی۔ اُسے میری اُمت کر دے۔ جواب دیا گیا: وہ احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اُمت ہے۔ پھر عرض پر داز ہوئے: اے ربِّ کریم! میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی اُمت کا تذکرہ دیکھا ہے، جنہیں اگلے پھلوں کا علم مرحمت فرمایا جائے گا اور وہ گمراہی کے عالم گیر سرخپہ یعنی اُس سب سے بڑے دجال کے ساتھ جہاد کریں گے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کرنا ہے اسے میری اُمت کر دیا جائے۔ جواب ملا: وہ تو احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اُمت ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سراپا التجا ہو کر عرض گزار ہوئے:

يَا رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةٍ أَحَدًا اے رب! مجھے احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

فَاعْطِنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَصْلَتَيْنِ۔ کا اُمتی بنا دے۔ اس سے مجھے دو خوبیاں

(ص ۷۷) حاصل ہو جائیں گی۔ (رسالت اور نبی آخر الزماں کا اُمتی)

ارشاد باری تعالیٰ ہوا: اے موسیٰ! میں نے اپنی رسالت اور شرف مہکلامی کے لیے تمہیں لوگوں سے چُن لیا ہے۔ پس جو میں نے عطا فرمایا ہے اُسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور شکر ادا کرتے رہو۔ عرض کرنے لگے: اے پروردگار! میں تیری رضا پر دل و جان سے راضی ہوں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، سہیل کی غریب حدیثوں سے ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہو، سوائے اس سند کے۔ سہیل سے روایت کرنے میں ربیع بن نعمان متفرد ہیں۔ سند کے لحاظ سے اس حدیث میں نرمی ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

خلقِ عظیم

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم اور

صفاتِ عالیہ کے بارے میں اپنی سند سے متعدد احادیث ذکر کی ہیں، اُن میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اُن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

خلقِ قرآنِ کریم تھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا اور کوئی نہیں۔ کوئی صحابی یا گھر والا جب بھی آپ کو پکارتا تو آپ فوراً لبیک کہتے۔ باری تعالیٰ شانہ نے آپ کے خلق کی قرآنِ کریم میں یوں تعریف فرمائی ہے:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ اور بے شک تمہاری نحو بڑی شان کی ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض اخلاقِ کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: میں اُس مولائے کائنات کا ہمسا یہ تھا۔ جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو میری جانب پیغام بھیجا جاتا۔ میں حاضر ہو کر وحی لکھا کرتا تھا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرنے لگتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر فرماتے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی آخرت کا ذکر کرنے لگتے۔ ہم جب طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اُسی کا ذکر فرماتے۔ یہ تھا سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم کہ اس درجہ دلجوئی فرماتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے۔ اللہ کی قسم کوئی غلام، لونڈی یا بچہ آپ کے پاس سخت سردی میں پانی لے کر (تبرک حاصل کرنے کے لیے) حاضر ہوتا کہ آپ اُس میں منہ ہاتھ دھولیں، تو آپ کسی صورت میں بھی ایسا کرنے سے نہ رکتے۔ اگر کوئی سائل سوال کرتا تو آپ بغور اُس کی بات سنتے اور اُس وقت وہاں سے نہ جاتے جب تک سائل خود نہ چلا جاتا۔ اگر کسی نے آپ کا دست مبارک پکڑا تو آپ اُس وقت تک ہاتھ نہ پھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا، اُس وقت تک اُسی کے ہاتھ میں ہاتھ رہنے دیتے۔

اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اُن میں سے آسان ہی کو اختیار فرمایا جبکہ اُس میں کوئی گناہ نہ ہوتا ورنہ اُس سے بہت دُور رہتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محارم کے سوا اپنی ذات کا آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ کا بدلہ لینا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کبھی نہیں پٹیا اور نہ اپنے ہاتھ سے جہاد کے سوا کسی کو مارا۔ اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں جب اللہ تعالیٰ کے محارم کی خلافت ورزی ہوتی تو خدا کے لیے ضرور انتقام لیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سا لہا سال تک آپ کی خدمت میں رہا۔ اس دوران میں آپ نے مجھے کبھی گالی نہیں دی، نہ مارا، نہ ڈانٹا اور نہ تیوری ہی چڑھائی۔ جب آپ نے مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور مجھ سے سستی واقع ہو گئی تو کبھی نہیں جھڑکا اور اگر گھروالوں میں سے کوئی ڈانٹتا تو آپ فرماتے: اسے چھوڑ دو، اگر قسمت میں ہوتا تو وہ کام ضرور ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کم عقل عورت بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر کہنے لگی: مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرمایا: اے فلاں کی والدہ! تم جس راستے سے جانا چاہتی ہو، وہ مجھے بتا دو، میں تمہیں اُسی راستے میں کھڑا ہوا ملوں گا اور اُس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہارا کام نہ ہو جائے۔ وہ عورت راستے کے ایک جانب جا کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُس سے وہیں گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ گفتگو کر کے چلی گئی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ نے موٹے کناروں والی چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی ملا اور اُس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے چادر کو زور سے کھینچنے کے نشانات آپ کی گردن پر دیکھے۔ اس کے بعد وہ دیہاتی کہنے لگا: اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے مجھے اُس میں سے کچھ دو۔ آپ اُس کی جانب متوجہ ہو کر مسکرائے اور اُس کو مال دے دینے کا حکم صادر فرمایا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

قرآن کی مثل ناممکن ہے

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن عزیز دلوں میں جاگزیں ہو گیا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال جہاں آراء بھی دلوں میں سماتا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی اہل علم و دانش پہلی ہی ملاقات میں مسلمان ہو گئے۔ انھوں نے

بیان کیا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس درجہ تائید و نصرت فرمائی کہ دنیا میں اتنی کسی اور کی تائید نہیں فرمائی گئی۔ آپ کو ایسے خصائص سے ممتاز و سرفراز فرمایا گیا جو دیگر انبیائے کرام کے معجزے اور اولیاء اللہ کی کرامات پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی پہچان اُس کے مرتبے کے لحاظ سے ہوتی، جو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مرحمت فرمایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کی پہچان کے لیے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جس میں کسی قسم کی فروگزاشت نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی آیت یعنی نشانی ایسی نہیں جس کی نظیر نہ ہو اور وہ دلوں میں اس درجہ گھر کرنے والی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسے زمانے میں نازل فرمایا جبکہ مدعیان عقل و دانش صاحبانِ فہم و فراست، تیز زبان والوں، ستھری طبیعت والوں، صائب الرائے، تجربہ کاروں اور جیلہ گروں کی کمی نہ تھی۔ جب معاندین نے قرآن عزیز سنا تو گپیں ہانکنے لگے کہ اس کا معارضہ کر نیکی وہ بھی استطاعت رکھتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس جیسا کلام وہ بھی بنا کر پیش کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیوں کے علاوہ اور دھرا بھی کیا ہے؟ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ قرآن مجید کا معارضہ طلب کیا حتیٰ کہ اذنِ عام دے دیا کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسا کلام بنا کر لے آئیں، جس کے بارے میں اُن کا یگان ہو کہ اس جیسی تو ہم معمولی سی کوشش اور ناقابلِ ذکر محنت کر کے ہی بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ اہل زبان اور میدانِ فصاحت و بلاغت کے شہسوار تھے لیکن سب مل کر بھی اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر رہے اور قاصر کیوں نہ رہتے جبکہ ارشاد باری تعالیٰ:

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِدْنُ وَالْحِجْتُ تَمْ فَرَاؤُا، اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق

عَلٰی اَنْ يَّآتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا

لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَوْ كَانَ يَعْضُوْهُمْ مِثْلُ نَمْلٍ لَّسْ يَظْلِمُوْا اَنْ يَّآتُوْا بِمِثْلِهٖ وَاَوْ كَانَ يَعْضُوْهُمْ

لِبَعْضٍ ظَلِمُوْا ۝۱۵ لے

مددگار ہو۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان فرمادینے کے باوجود معاندین و منکرین اپنی تمام تر صلاحیتوں کے

باوجود قرآن کریم کی کسی چھوٹی سی سُورت کے مانند بھی بنا کر لانے پر قادر نہ ہوئے کیونکہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا تھا اُس کے بارے میں خودیوں خبر دی ہے:

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ وَمَا هُوَ
بِالْفَهْرِ ۚ لَہ

کی بات نہیں۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُّجِيدٌ ۚ لَوْ جِ
مَحْفُوظٌ - لَہ

بکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں۔

فضائل و معجزات میں دیگر انبیاء سے تقابل

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوة کی تینتیسویں فصل میں دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے فضائل کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل سے اور اُن کے معجزات کا آپ کے معجزات کے ساتھ موازنہ و مقابلہ کیا ہے جو حسب ذیل ہے:

اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل بنایا تھا تو ہم کہیں گے کہ باری تعالیٰ شانہ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا بلکہ حبیب بھی ٹھہرایا ہے اور حبیب تو خلیل سے بدرجہا زیادہ موردِ الطاف و کرم ہوتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تین پردوں کے ساتھ نمود کی سازش سے محفوظ رکھا گیا تو ہم کہیں گے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی جب اہل مکہ نے سازش کی تھی تو آپ کی پانچ پردوں کے ساتھ حفاظت فرمائی گئی چنانچہ اس بارے میں باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْ نَبِيِّنَ آيِدِيهِمْ سَدًّا ۚ

اور ہم نے اُن کے آگے ایک دیوار بنا دی اور

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ۝۱۷
ان کے پیچھے ایک دیوار اور انھیں اوپر سے ڈھانک
دیا، تو انھیں کچھ نہیں دیکھتا۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعَكَ
وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
اور اے محبوب! جب تم نے قرآن پڑھا، تو ہم نے
تم پر اور ان میں جو اثرت پر ایمان نہیں لاتے،
یا لآخرۃ حجاباً مَسْتُورًا ۝۱۸ ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔

فَبِهِمُ الرِّبَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ۝۱۹
پس یہ پانچ پردے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نرود کے سامنے اپنی نبوت کی حقانیت
پر ایسی قاطع برہان پیش کی کہ اُسے مہوت اور بھونچکا کر دیا جس کی باری تعالیٰ شانہ نے خبر دی ہے کہ
لَبِثَ الَّذِي كَفَرَ ۝۲۰ تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اُبی بن خلف آیا جو مرنے کے بعد
دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی جسے وہ اپنے
ہاتھوں سے مسل کر باریک کر رہا تھا۔ کہنے لگا: ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ محکم برہان نازل فرمائی:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَ آدَمَ ۚ تَمَّ فَمَاؤُا، اُنْهَيْسَ وَهَ زَنْدَهَ كَرْهَ كَا جِسْ نَہِی
مَسْرُوقًا ۝۲۱
بار انھیں بنایا۔

جب اُس نے آپ کی نبوت کو ایسی قاطع برہان سے مزین دیکھا تو مہوت ہو کر واپس لوٹ گیا۔
اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تھا کیونکہ وہ غضبِ الہی کا

۱۷ پ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۲۵

۱۸ پ ۳، سورہ البقرہ، آیت ۲۵۸

۱۹ پ ۲۲، سورہ یس، آیت ۹

۲۰ پ ۱۶، سورہ یس، آیت ۸

۲۱ پ ۲۳، سورہ یس، آیت ۷۹

باعث تھے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین سو ساڑھ بتوں کو پامال کر دیا تھا، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب تھے۔ آپ کے دستِ مبارک کے اشارے ہی سے وہ سارے بت اُوندھے منہ گرتے چلے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا اثر دہا بن کر جادو گروں کے جادو کو نکل گیا اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اثر دہا بنا دیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے اعلیٰ معجزات مرحمت فرمانے گئے تھے۔ چنانچہ خشک لکڑی کے ستون کا آپ کے فراق میں چھوٹ چھوٹ کر رونا، درختوں کا آپ کے بلانے پر حاضر ہونا، اکٹھے ہو جانا، پھر آپ کے حکم اور اجازت سے اپنی جگہ کی جانب واپس لوٹ جانا۔ اگر چشمِ بصیرت ہو تو یہ معجزات اُس معجزے سے زیادہ تعجب خیز ہیں۔

اگر کہا جائے کہ میدانِ تیرہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایک پتھر پر مارا تو اُس سے بارہ چشمے جاری ہو گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ تعجب خیز معجزہ ثابت ہے کیونکہ پتھروں سے پانی کا نکل آنا تو عام مشاہدہ ہے لیکن گوشت، خون اور ہڈیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا کتنی تعجب خیز بات ہے۔ اگر آپ برتن میں دستِ مبارک رکھتے تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ نکلے تھے اور وہ پانی نہر کی طرح جاری ہوا اور میٹھا تھا۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے وہ پانی پیا، حتیٰ کہ اُن کے اُونٹ اور گھوڑے تک سیراب ہو گئے اور ایسا متعدد بار واقع ہوا۔

۱۔ مجدداتِ حاضرہ قدس سرہ نے فرمایا ہے : ۱۔

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا

تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرتھرا کر گر گیا

۲۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

(اعلیٰ حضرت)

ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

اگر کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ گیا تھا جبکہ انہوں نے اپنے عصا کو پانی پر مارا تھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر اُس سے پار ہو گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بعض افراد کے ذریعے ہونا بھی مشہور ہے۔ چنانچہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین میں تھے اور سمندر عبور کرنے پر مجبور ہوئے تو اپنے ساتھیوں سمیت اس طرح سمندر پار کر گئے جیسے پانی کی سطح پر چل رہے ہوں اور اُن کے کپڑے ٹپک نہ بھیگے۔

اگر کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے مکڑی، جنگلی چوہوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب لے کر آئے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے تو ہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش پر دھواں بھیجا جو بہت بڑی نشانی اور عذاب تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَاَمَّا ثَقِيبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ
هَذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝
یہ ہے دردناک عذاب۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کو متنبہ کر کے کی دعا فرمائی تو وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار! مضر قبیلے پر اپنا عذاب سونپ کر دے اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے والی قحط سالی مسلط فرما دے۔

اگر کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم کو موت و سلوی کھلایا گیا یعنی بٹیر جیسے جانور کا گوشت اور ترنجبین کھلائی گئی اور اُن پر بادلوں کے ذریعے سایہ کیا گیا اور یہ حقیقت کہ موت و سلوی انھیں بیٹھے بٹھائے ملتا تھا جس کے لیے کسی قسم کی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو وہ اعلیٰ اور ارفع چیز عطا فرمائی گئی جن سے پہلے تمام انبیائے کرام تک بھی محروم رہے اور وہ مالِ غنیمت ہے جو کسی نبی کے لیے

بھی حلال قرار نہیں دیا گیا۔ علاوہ بریں مذکورہ بالا قسم کے کمالات تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی عطا فرمادیئے تھے مثلاً جب انھیں کسی غزوہ پر بھیجا گیا اور اثنائے سفر میں زادِ راہ ختم ہونے پر وہ جھوک کی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو قریبی سمندر نے اُن کی جانب ایک بہت بڑی مچھلی کو باہر پھینک دیا جس کا گوشت انھوں نے ایک ماہ تک کھایا اور چربی استعمال کرتے رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تھوڑے سے طعام اور دودھ سے بہت بڑی جماعت کو بھی سیر کر دیا کرتے تھے اور مزید کھانے پینے سے منہ پھر جاتا تھا۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم تین سو سواروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے ایک قافلے کی گھات میں بھیجا۔ اُس روز ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ہمیں راستے میں سخت جھوک لگی، حتیٰ کہ درختوں کے پتے تک کھانے پڑے۔ اسی لیے اس غزوہ کو حبشہ الخبیط کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سمندر کے نزدیک ہوئے تو اُس نے ایک بہت بڑی مچھلی ہماری جانب پھینک دی، جسے غنبر کہا جاتا ہے۔ ہم مہینہ بھر اُس کا گوشت کھاتے رہے اور چربی استعمال کی، یہاں تک کہ ہم خوب موٹے تازے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور لشکر میں سے ایک لمبے آدمی کو حکم دیا کہ کسی قد اور اونٹ پر سوار ہو کر اس پسلی کے نیچے سے گزرے۔ چنانچہ حسبِ حکم وہ آدمی پسلی کے نیچے سے سوار ہو کر گزر گیا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس اُس کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ ہم نے بچا ہوا گوشت بارگاہِ رسالت میں پیش کر دیا تو

لے ایسے ہی ایک واقعے کی جانب اعلیٰ حضرت نے یوں اشارہ کیا ہے: ۱۰

کیوں جنابِ بزمِ ہریرہ! تھا وہ کیسا جامِ شیر
جس سے سترھا جوں کا دودھ سے منہ بھر گیا

آپ نے بھی اُس میں سے تناول فرمایا۔

اگر کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا مرحمت ہوا تھا، جو اژدہا بن جاتا تھا اور وہ فرعون بنی جاد و گرون کے سارے جادو کو نگل گیا تھا، حتیٰ کہ اُس سے ڈر کر فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بعینہ اس قسم کے معجزے کا ظہور ہوا تھا، چنانچہ ابوہل بن ہشام کا واقعہ ہے کہ اُس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بہت بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سجدے میں جائے گا تو وہی پتھر اُس کے سر پر دے ماروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوئے اور سجدے میں گئے تو وہ بدبخت پتھر لے کر آپ کی جانب بڑھا لیکن نزدیک پہنچتے ہی مہوت رہ گیا اور مارے خوف کے ہانپتا کانپتا واپس بھاگ گیا۔ اُس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مارے خوف کے لرزہ بر اندام تھا اور دونوں ہاتھ اپنی قوت کھو بیٹھے تھے، جس کے باعث پتھر اُس کے ہاتھوں سے گر گیا تھا۔ قریش کے چند آدمی اُس کے پاس پہنچے اور صورت حال کو چھی تو ابوہل کہنے لگا: میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ یہ کچھ کرنے کے ارادے سے گیا تھا، جیسا کہ گزشتہ رات تم سے وعدہ کر کے آیا تھا لیکن جب میں اس ارادے سے اُس کے قریب گیا تو میرے سامنے ایک بہت بڑا اونٹ آگیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اتنے موٹے سروالا یا ایسے قد و قامت والا یا اتنے لمبے دانتوں والا کبھی کوئی اونٹ نہیں دیکھا۔ وہ اونٹ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ جب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اگر ابوہل میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتا تو اُسے ہلاک کر دیا جاتا۔ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ۔

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے حضرت صالح علیہ السلام اُونٹنی ظاہر کی اور وہ اُن کے لیے حجت اور نشانی بنائی گئی چنانچہ ایک روز اُونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے روز وہ قوم پانی پیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی محبت تو فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مرحمت فرمائی گئی تھی بلکہ اس سے اعلیٰ و ارفع کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اُونٹنی بولتی نہیں تھی اسی وجہ سے وہ صالح علیہ السلام کے نبی ہونے کی

شہادت بھی نہیں دے سکی لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اُونٹ حافر ہوا اور اُس نے آپ کی نبوت کے بارے میں شہادت دی تھی۔ اُونٹ کا مالک اُسے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ اُونٹ اُس کے ارادے کو بھانپ کر بھاگ نکلا اور بارگاہِ نبوی میں حاضر ہو کر اُس نے اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

حضرت داؤد علیہ السلام اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیئے تھے جو اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے اور اُن کے ہاتھ میں لوسہ کو نرم کر دیا جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزے عطا ہوئے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر، مثلاً یہ کہ کنکریوں نے آپ کے دستِ مبارک میں اور تصدیق کرنے والوں کے ہاتھ میں تسبیح بیان کی۔ اس میں آپ کی اور تصدیق کرنے والوں کی عظمت اور سرفرازی زیادہ ہے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سوید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد (مسجدِ نبوی) میں حاضر ہوا۔ وہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تنہائی میں اُن کے ساتھ بیٹھنے کو غنیمت جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اتفاقاً ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہا بیٹھا تھا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک روز میں مسجدِ نبوی میں گیا۔ آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ میں خاموشی سے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے۔ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اے ابو بکر! کیسے آنا ہوا؟ اُنھوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اُس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے آیا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ اُن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے۔ آپ نے دریافت فرمایا: اے عمر! کیسے آئے ہو؟ عرض کی کہ بارگاہِ رسالت میں حاضری دینے کے ارادے سے آیا ہوں اور وہ آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ آپ نے دریافت فرمایا: اے عثمان کس غرض سے آئے ہو؟ اُنھوں نے بھی پہلے دونوں حضرات کی طرح یہی جواب دیا

کہ اللہ اور اُس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ارادے سے آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سات کنکریاں پکڑیں تو انھوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح بیان کرنی شروع کر دی تھی کہ میں (حضرت ابو ذر) نے بھی اُن کی آواز سنی، جو ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی ہیں۔ جب آپ نے اُن کنکریوں کو رکھ دیا تو خاموش ہو گئیں۔

تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح بیان کرنے لگیں جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی ہیں۔ جب انھوں نے بھی کنکریوں کو رکھ دیا، تو خاموش ہو گئیں۔ آپ نے پھر اُن کو پکڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح بیان کرنے لگیں جیسے شہد کی مکھی بھنبھناتی ہے۔ جب انھوں نے بھی وہ کنکریاں رکھ دیں، تو خاموش ہو گئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بھی کنکریوں نے اسی طرح تسبیح بیان کی۔

اگر یہ کہا جائے کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیئے گئے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ پرندوں کے علاوہ اونٹ جیسے بہائم عظیمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع تھے نیز سخت قسم کے شکاری پرندے بھی آپ کے فرماں بردار تھے۔ بھاگنے والے اونٹ نے آپ کا حکم مانا، بھیڑیے نے آپ کی دعوت اور نبوت و رسالت کی تصدیق کی، یہاں تک کہ ایک شیر کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو اُس نے سرگوشی کی اور راستہ بتایا۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اُن کا بیان ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

لے مجتہداتہ عافہ قدس سرہ نے فرمایا ہے: ہ

ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی زالی ہاتھ میں

سنگیزے پاتے ہیں شیریں متالی ہاتھ میں

وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا اور وہاں سے حجرہ کے انڈے لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حجرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عاجزی کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا: اس جانور کو کس نے ستایا ہے؟ اُس شخص نے جواب دیا کہ میں اس کے انڈے لے آیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس کر دو اور حجرہ پر شفقت فرمائی۔

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوسہ کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ لوسہ کی زرہیں ہاتھ سے بنا لیتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو بڑے بڑے پتھر بھی نرم ہو جاتے حتیٰ کہ غار بن جاتے تھے جیسا کہ غزوہ احد کے روز آپ ایسی ہی غار کے ذریعے جنگ کا معائنہ فرماتے رہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو پہاڑ کی جانب مائل فرمایا تاکہ آپ مُشرکین تکہ کو نظر نہ آئیں، تو وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ نے اپنے سر مبارک کو اُس میں چھپا لیا۔ یہ معجزہ عجیب تر ہے کیونکہ لوسہ کو آگ نرم کر دیتی ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آگ نے پتھروں کو بھی نرم کیا ہو۔ اُحد پہاڑ میں وہ نشان ابھی تک باقی ہے اور لوگ اُس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کی اضم نامی ایک وادی میں وہ پتھر بھی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی تو وہ پتھر اتنا نرم ہو گیا تھا کہ آپ کی کہنیوں اور کلائیوں تک کے نشانات اُس پر پڑ گئے تھے۔ یہ بات عام مشہور ہے اور حاجی لوگ اُس پتھر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ معراج کی رات میں بیت المقدس کا ایک پتھر آپ کے لیے اتنا نرم ہو گیا تھا کہ آپ نے بُراق کو اُس کے ساتھ باندھا تھا۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی
حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمائی گئی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہیں فرمائی، تو ہم
کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مرحمت فرمائی گئیں۔

لے ۷ مانک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں (رضاء)

لیکن آپ نے تھوڑی شے اور قلیل طعام کو رضاۓ الہی کی خاطر اختیار کیا اور دنیا کو حقیر جانتے ہوئے اور آخرت کے بلند مراتب کو پسند فرماتے ہوئے، اُن گنجیوں کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ شانہ نے وادی بطناء کو میرے لیے سونا بنا دینے کے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں عرض گزار ہوا کہ اسے پروردگار! میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک روز سیر ہو کر کھاؤں اور تین دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں گا تو تیرے حضور عاجزی پیش کروں گا اور تیری یاد میں مصروف رہوں گا۔ جب شکم سیر ہو کر کھاؤں گا تو تیری حمد و ثنا بیان کروں گا اور شکر بجا لاؤں گا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا، جس کی کمر عمارت کعبہ حبشی محیط تھی، اُس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کے رب نے سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ نبی عبد بننا پسند کرتے ہیں یا نبی بادشاہ؟ آپ دونوں میں سے جو کچھ بننا چاہیں گے اُسی کے مطابق ہو جائے گا۔ میں نے جبریل علیہ السلام کی جانب (برائے مشورہ) نظر اٹھائی تو اُن کا اشارہ تواضع کی جانب تھا۔ میں بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا اسے پروردگار! میں نبی عبد رہنا چاہتا ہوں۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر تھیں، جو اُنھیں تمام زمین کی سیر کراتی تھیں، جس کے باعث اُن کی صبح کی منزل ایک ماہ کی راہ اور شام کی منزل بھی ایک ماہ کی راہ ہوا کرتی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ عنایات سے نواز اگیا ہے کیونکہ آپ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کی سیر فرمائی، جو ایک مہینے کی مسافت ہے اور آسمانی بادشاہی کا نظارہ کرنے کے لیے آسمان دنیا تک گئے جو پچاس ہزار سال کا راستہ ہے۔ یہ سفر بھی رات کے وقت ایک قلیل مدت میں طے فرمایا۔ اس کے بعد ایک آسمان سے دوسرے کی جانب گئے

اور وہاں کے عجائبات کا معائنہ فرمایا، جنت اور دوزخ کو دیکھا، اپنی اُمت کے اعمال، جو پیش
 کیے گئے تھے ملاحظہ فرمائے۔ انبیائے کرام اور فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ تمام عجائبات کو
 دیکھتے ہوئے عجائبات سے بھی گزر گئے۔ پھر ایک سبز رُف آپ کو اُڑا دیا، یہاں تک کہ
 باری تعالیٰ شانہ کی خاص تجلیات نے آپ کو آغوشِ رحمت میں لے لیا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ
 نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور جو اُس نے چاہا وحی فرمائی۔ آپ کو سورہ نقرہ
 کی آخری آیات بھی مرحمت ہوئیں جو عرشِ الہی کا نیچے والا خزانہ ہے۔ آپ سے یہ وعدہ بھی فرمایا گیا
 کہ آپ کے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب رکھا جائے گا، حتیٰ کہ زمین کے مشرق و مغرب میں
 آپ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین نہ ہوگا۔ یہ بھی وعدہ فرمایا گیا کہ کافر ہمیشہ آپ کے پیروکاروں کے
 باج گزار رہیں گے اور ہمیشہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ وہیں آپ کی اُمت پر پانچ نمازیں فسخ
 فرمائی گئیں۔ وہیں موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوئی اور نمازوں کی تخفیف کا مرحلہ
 درپیش رہا۔ یہ تمام واقعات رات کے ایک ذرا سے حصے میں واقع ہو گئے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات آتے تھے۔
 وہ آپ کے تابع اور مجبور کر دیئے گئے تھے اور آپ اُن کے سرکشوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید
 رکھتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن برضا و رغبت مطیع
 ہو کر آتے، آپ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے اور ایمان لے آتے تھے۔
 والہانہ طور پر آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور عاجزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے تھے
 آپ سے عنایات طلب کرتے اور کھانے پینے کی چیزیں مانگتے تھے۔ اُن کے جواب میں سرورِ کون و مکان
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ گوہر کو پائیں گے تو اُن کی خوراک بن جایا کرے گا اور ہر ہڈی
 گوشت والی ہو جایا کرے گی۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے جن اور اُن کے نو سردار بارگاہِ رسالت میں حاضر
 ہو کر دولتِ ایمان سے مالا مال ہوئے، جن کا اللہ جل شانہ نے قرآنِ کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے:
 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ۖ أَوْرَادُكُمْ وَجِبْہُمْ نَارٌ ۚ وَمِنَ الْجِنِّ مَعْشَرَ ثَمُودَ ۖ وَكَانُوا كَافِرِينَ ۚ

نیز یوں بھی ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ اُدْعِیْ اِلَیَّ اِنَّہٗ اَسْتَمِعُ تم فرماؤ کہ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا
نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن
قُرْاٰنًا عَجَبًا یَّہْدِیْۤ اِلَی الرُّشْدِ سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان
فَاَمْتَابِہٖ ط لے آئے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہزار ہا جن حاضر ہوئے اور نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور
مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے بیعت کی اور آپ کے سامنے
اس بات پر معذرت چاہی کہ اُنھوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں جہالت کے باعث ناروا
باتیں بھی کہی تھیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نبوت کے باعث اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے لیے جنوں کو مستخر کر دیا حالانکہ وہ شرارتی ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اولاد کے
قائل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت جنوں اور انسانوں کے بے شمار امور کو شامل ہے۔
چنانچہ جو کچھ اس سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا تھا۔ اُس کی نسبت یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے
کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم سرور کون و مکاں صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے ایک جانب تشریف لے گئے
آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب آپ
فارغ ہو گئے تو میں پانی کا مشکیزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے آپ کے پاس جھکڑنے
کی آوازیں اور شور و غوغا سنا، حالانکہ اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں ایسا منظر کبھی دیکھا
نہیں تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا: کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ فرمایا:
بہت خوب اور پانی مجھ سے لے لیا۔ طہارت کے بعد وضو فرمایا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ!
(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں نے آپ کے پاس بلند آوازیں سنی ہیں اور شور و غوغا دیکھا ہے، حالانکہ

اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں یہ بات دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے فرمایا: اُس وقت میرے پاس مسلمان جن اور مشرک جن آپس میں جھگڑ رہے تھے اور وہ مجھ سے اپنے اپنے رہنے کی جگہ مانگ رہے تھے میں نے مسلمان جنوں کو جلس میں اور کافر جنوں کو غور میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے دریافت کیا کہ جلس کیا چیز ہے اور غور کس مقام کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جلس سے مراد بستیاں اور پہاڑ ہیں جبکہ غور پہاڑوں اور سمندروں کی درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ کثیر فرماتے ہیں کہ جلس میں جانے والوں کو ہم نے سلامت ہی دیکھا ہے لیکن جو غور میں پہنچ جاتا ہے اُس کا پھر خدا ہی حافظ ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگزا فرمانی کرتا تھا تو آپ اُس کو جکڑ دیتے اور قید کر دیا کرتے تھے اور اس امر کی اللہ تعالیٰ نے اُنہیں قدرت دی تھی اسی لیے جن ہر کام میں اُن کے حکم کی تعمیل پر کمر بستہ رہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کے اصحاب میں سے کتنے ہی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر تسلط دیا تھا اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح جنوں کو قبضے میں رکھتے اور سرکشوں کو بتلائے عذاب کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔

حافظ ابوالعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک غبیث جن آج رات کو مجھ پر گودا تاکہ میری نماز ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اُس پر قدرت دی اور میں نے اُسے پکڑ لیا۔ میرا ارادہ ہوا کہ اُسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح ہوتے ہی مسلمان بھی اُس کا حشر دیکھ لیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آگئی، جو انہوں نے اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے مانگی تھی کہ:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُدْكَ لَا اَعْمِي رُبَّ! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت

يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ عَظِيمُ الدَّرَجَاتِ عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ بے شک تُو ہی

أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اے بڑی دین والا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس جس حق کو میرے پاس سے ذیل و غوار کر کے لوٹایا۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جنوں کے ایسے کتنے ہی واقعات ذکر کیے ہیں، جن سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جنات اُن کے لیے بھی مسخر فرمائے گئے تھے اور اُنھوں نے ایسی احادیث بھی نقل فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد اور اطاعت کی ہے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور چوٹیوں کا کلام سمجھ لیتے تھے اور اُنھیں ان چیزوں پر تسلط بھی دیا گیا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ قدرت دی گئی ہے۔ قبل انہیں ہم بارگاہ رسالت میں بہائم اور درندوں کا کلام کرنا، ستون کا رونا، اونٹ کا شکایت کرنا، درختوں کا کلام کرنا، کنکریوں اور پتھروں کا تسبیح بیان کرنا، آپ کا پتھروں کو بلانا اور اُن کا حاضر بارگاہ ہوجانا، بھیڑیے کا آپ کی نبوت کا اقرار کرنا، پرندوں کا آپ کے حکم کو بجالانا، ہر فی کا کلام کرنا بلکہ آپ سے شکایت کرنا، گوہ کا آپ سے کلام کرنا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنا وغیرہ کے متعدد واقعات نقل کر چکے ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جملہ انبیاء و حضرت یوسف علیہ السلام مرسلین علیہم السلام میں سب سے زیادہ خوب صورت مشہور ہیں بلکہ ساری مخلوق سے بڑھ کر خوب صورتی کا مجسمہ تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب صورتی، جس کے ساتھ صحابہ کرام آپ کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے، اُس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کیونکہ اُنھوں نے آپ کی مثال چمکتے ہوئے سورج اور چودھویں رات کے چاند سے دی ہے حالانکہ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ کا چہرہ انور سونے کی طرح دکھاتا تھا جیسے چاند اپنی پوری تابانی دکھا رہا ہو۔ آپ کے پسینے کی خوشبو مہکنے والی مشک (کستوری) کی طرح تھی۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ بن عمرو

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف دریافت کیے تو انہوں نے جواب دیا: اے بیٹے!

لو سارایتہ رأیت الشمس اگر تو انہیں دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ سورج الطالعة۔ (ص ۵)

چمک رہا ہے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ:

صف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت
علیہ وسلم حتی کانتی انظر
الیہ قال نعم کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حسن
الوجه یتلأ لوجه تلأ لوا
لقمر لیلة البدر۔ (ص ۵)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت

حسن و جمال میرے سامنے اس طرح بیان کیجئے

جس سے محسوس ہو کہ گویا میں خود اس جمال

جہاں آراء کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہا اچھا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے حسین اور

چمکدار چہرے والے تھے جیسے چودھویں رات کا

چاند چمکتا ہے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی یہ کیفیت تھی کہ:

اذا سرہ الامر استناد وجهہ جب خوشی کا موقع ہوتا تو آپ کا چہرہ اس طرح
کانہ دار القمر۔ (ص ۵) دیکھا جیسے چاند کا گھیرا چمکتا ہے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ:

کان عرق رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فی وجہہ مثل
الثلث والیلب من المسلب

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور

پر سینہ موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا، جو مشک

اذفر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کا چہرہ

الاذفروکان احسن الناس تمام انسانوں سے زیادہ حسین تھا اور رنگ نورانی
 وجہاً والنوارهم لوناً لحم تھا اگر کوئی آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرنا چاہے
 یصفه واصف قال بمعنی صفتہ تو کما حقہ توصیف نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی
 الاشبه وجهہ بالقمر لیلۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی کوئی بھی
 البدر صلی اللہ علیہ وسلم و توصیف کرنے والا چودھویں رات کے چاند سے
 تشبیہ دیئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ (ص ۸)

حضرت یحییٰ علیہ السلام اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکماء فرمایا گیا تھا
 اسی لیے وہ گناہوں سے بچے رہنے کے باوجود بھی دور دورے
 اور وصال کے روزے رکھا کرتے تھے یعنی متواتر روزے رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خوبی میں اُن پر بھی فضیلت دی گئی ہے کیونکہ یحییٰ علیہ السلام بت پرستی اور
 جاہلیت کے زمانے میں مبعوث نہیں ہوئے تھے جبکہ سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُس
 دور میں مبعوث فرمایا گیا تھا جب جاہلیت اپنے شباب پر تھی اس کے باوجود
 آپ بچپن ہی میں بہت پرستی اور شیطانی جماعت سے اجتناب کرنے کا
 محکم و فہم ملا اور ایسی فراست مرحمت فرمائی گئی، جس کے باعث نہ آپ نے کبھی بتوں کی جانب رغبت کی
 اور نہ بت پرستوں کے ساتھ اُن کے میلوں تہواروں میں شرکت کی۔ علاوہ بریں کسی نے آپ کی زبان
 مبارک سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں سنی بلکہ قوم اور ماحول کے اندر آپ سچے، امین، حلیم، شفیع
 اور مہربان مشہور تھے اور:

کان یواصل الاسبوع صوماً آپ ایک ایک ہفتے تک متواتر روزے رکھتے ہتے
 فیقول اتی اظل عند ربی یطعننی اور فرماتے کہ میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں
 ویستقینی وکان صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
 وسلم کی حتیٰ لیسع لصدرة تعالیٰ علیہ وسلم جب (خوف الہی سے) روتے
 ان یزکاذب المرجل من البكاء تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی جیسے
 (ص ۸) ہانڈی جوش مارتی ہے اور اس وقت ہانڈی سے
 آواز آتی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ
 خصوصاً تھے یعنی عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیشک
 نبی تو تھے لیکن اپنی قوم کی جانب مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے۔ ان حالات میں وہ تنہا اپنے احوال
 کی اصلاح میں مصروف رہتے تھے لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی ہدایت
 و رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تاکہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے مخلوق کو خدا کی طرف
 بلائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف احوال اور بلند
 مقامات ظاہر فرمائے جن میں آپ کے تصرف کے لحاظ سے تفاوت ہے تاکہ ہر مرتبے کا انسان
 آپ کے افعال و اوصاف کی اقتدا کر سکے۔ چنانچہ صدیق اپنی بزرگی میں، شہداء اپنے مراتب میں
 اور صالحین اپنے مختلف حالات کے مطابق اُس ہادی کائنات کی پیروی کریں اور ہر اعلیٰ، ادنیٰ
 اور متوسط درجے کا آدمی بلکہ ایک خاص منصب پر فائز ہونے والا بھی آپ کے مختلف اور اپنے
 مطابق احوال و کردار سے رہنمائی کا سامان حاصل کر کے نفع اندوز ہو سکے۔

یہ تو ظاہری بات ہے کہ نکاح کی جانب نفس کو خاص رغبت ہے اور خواہشات
 کا اس طرف خاص میلان ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نکاح کا
 حکم دیا اور اس کی رغبت دلائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اسی کے مطابق رکھا ہے
 اور اسی لیے انسانوں کے لیے اسے مباح کیا ہے تاکہ اس کی بدولت وہ زنا کاری سے محفوظ
 رہیں۔ بایں وجہ آپ بھی لوگوں کی خاطر ظاہری طور پر اس فعل میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ
 نام کی شمولیت ہو گئی کیونکہ آپ دوسروں جیسے نہیں بلکہ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے
 فرمایا ہے:

تزوجوا فانی مکاثریکم الامم۔ نکاح کرو تاکہ میں تمہاری کثرت تعداد کے باعث دوسری
 فان غلب علیہ و علی قلبہ امتوں پر فخر کروں کیونکہ آپ پر یا آپ کے قلب مبارک
 ما افرده الحق به من قبلہ پر عورتوں کی جانب میلان غالب ہوتا جبکہ آپ کی
 وجعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ انفرادیت تو توجہ الی اللہ تھی جیسا کہ فرمایا ہے:
 تلتطف علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں کی ٹٹنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

فی مرضاتہ۔ (ص ۸) یہ معاملہ نہ ہوتا بلکہ اپنی خواہشات سے لطف اندوز ہوتے

آپ اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے، تم مجھے اجازت دو کہ میں آج کی رات عبادت میں بسر کروں۔ وہ عرض کرتیں، اگرچہ مجھے آپ کا قرب محبوب ہے لیکن آپ کی رضا بھی محبوب ہے۔ پس آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور ساری ساری رات نماز پڑھتے اور بارگاہِ الہی میں گریہ و زاری کرتے ہوئے گزار دیتے۔ بعض اوقات جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے وہاں اپنے رب کے حضور میں عجز و نیاز پیش کرتے، قبرستان کو اپنے قدمِ میمنت لزوم کی برکتوں سے مستفید فرماتے اور اس طرح اہل قبور کی قسمت جگاتے۔ کبھی رات بھر سرگوشی کے انداز میں بار بار صبح تک اس آیت کو پڑھتے رہتے:

إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ

تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

علاوہ بریں بشریت کے احکام اور نفس کے تقاضوں سے تو آپ شی صدر کے وقت ہی پاک ہو چکے تھے جبکہ فرشتوں نے آپ کے قلبِ اطہر کو ایمان اور حکمت کی ہر ممکن دولت سے بھر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا ساری اُمت کے ساتھ بھی وزن کیا گیا تو آپ ہی بھاری رہے تھے۔ یہ اسی وجہ سے تو تھا کہ آپ کے قلبِ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا ہوا تھا۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کل فضیلة اوتی عیسیٰ علیہ

السلام فقد اوتیہا نبینا صلی اللہ

علیہ وسلم وانہا لم ینکرہا

متذیر مع ما اطلعه اللہ علیہ

خصوصاً من الغیوب التي لم

کو ایسے خاص غیوب پر بھی مطلع فرمایا گیا، جن کی آپ کے

یطلع علیہا غیرہ من الفتن سوا کسی کو اطلاع نہیں بخشی گئی مثلاً اس کائناتِ ارضی
الکائنات التي لم یخیر بہا پر ظہور پذیر ہونے والے فتنے، ان کی خبر فخرِ دو عالم
سواہ من المرسلین صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی یا مرسل
علیہ وسلم۔ (ص ۸۷) نے بالکل نہیں دی۔

اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل
علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ کی جانب بھیجا گیا، جو مکمل بشر کی صورت میں حاضر ہوئے اور کہا،
اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ لَا هَبْ بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں
لَكَ غُلَامًا نَرَجِيًّا ۛ تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔

نیز جب کنواری ہونے کے باعث عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر قوم نے اعتراض کیا تو مریم
علیہا السلام نے آپ کی جانب اشارہ فرمایا۔ اُس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو قوتِ گویائی مرحمت
فرمائی اور پنگوڑے میں تشریف فرما ہونے کے باوجود آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا،
اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِي الْكِتَابُ ۛ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اُس نے مجھے کتاب
جَعَلَنِي نَبِيًّا ۛ دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا (نبی) کیا۔

معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں کے لیے بہت بڑی نشانی اور بعد میں آنے والوں کے لیے
ایک مثال تھے۔ لیکن یہ نہیں سنا گیا کہ دوسرے کسی نبی کو ایسی خصوصیت مرحمت فرمائی گئی ہو۔ ہم
کہتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیات مرحمت فرمائی گئی تھیں اور ان جیسی
متعدد اور بھی، جو آپ کی پیدائش مقدسہ متعلق تھیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے
تشریف لانے کی بشارت دے دی گئی تھی اور تولد کے وقت بھی متعدد عجیب باتیں ظہور میں آئیں۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک
میں تشریف فرما ہونے کی کئی چیزوں نے دلالت کی۔ منجملہ ان کے قریش کے ہر جانور نے اُس رات کلام کیا

اور کہا، رب کعبہ کی قسم، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تشریف لایچکے ہیں۔

آپ کا وجود دنیا کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے اور آپ اس کائنات ارضی و سماوی کے سورج ہیں۔ قریش اور عرب کے دیگر قبائل میں کوئی کاہن مرد یا عورت ایسا باقی نہ رہا جس کے پاس خبریں لانے سے اُس کا حق روک نہ دیا گیا ہو، گویا کاہنوں کا علم آپ کی تشریف آوری کے باعث چھن گیا۔ بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو کر گر گئے اور شاہانِ عالم مُہربان اُس روز اُن میں سے کوئی بھی کلام نہ کر سکا۔ مشرق کے درندوں نے مغرب کے درندوں کو بشارت دی۔ سمندروں نے ایک دوسرے کو آپ کی آمد کا مژدہ سنایا۔ شکمِ مادر میں رونق افروز ہوتے ہی ہر ماہ ایک آواز زمین پر اور دوسری آسمان پر سنی جاتی تھی کہ دنیا والوں کو مبارک ہو کہ حضرت ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برکتیں اور رحمتیں لے کر دنیا میں تشریف لارہے ہیں۔

آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جب حمل کو کئی ماہ گزر گئے تو کسی نے مجھے خواب کی حالت میں پیر کی آہٹ سے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا: اے آمنہ! تیرے شکم مبارک میں وہ نادر روزگار سہتی ہے جو دونوں جہانوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب وہ رونق آرائے گیتی ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور اس معاملے کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتی تھیں کہ جس طرح بچوں کی پیدائش کے وقت عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اُسی طرح مجھے بھی دردِ دہش شروع ہوا۔ ہماری قوم کے کسی مرد یا عورت کو اُس وقت یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ آپ کے جدِ امجد حضرت عبدالمطلب اُس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک سخت آواز سنی، جو قابلِ ذکر ہے اور میں اُس سے خوفزدہ ہوئی۔ وہ پیر کا روز یعنی دو شنبہ تھا۔ اسی آثناء میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید پرندہ میرے دل کے اوپر اپنا پر پھیر رہا ہے جس کے باعث خوف، گھبراہٹ اور درد کا تصور تک میرے نزدیک نہ رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک سفید چیز نظر آئی، میں نے سمجھا تھا کہ وہ دودھ ہے، چونکہ مجھے سخت

پیا س محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اُس میں سے کچھ پی لیا تو فوراً میرے پاس سے ایک نور پھٹتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے چند عورتوں کو دیکھا جو بھور کے درختوں کی طرح دراز قد تھیں، گویا وہ حضرت عبدالمطلب کی صاحبزادیاں ہیں اور وہ میرے گرد کھڑی تھیں۔ میں نے سمجھا چونکہ میں منجیب ہو کر کہہ رہی تھی وَ اَنْوُشَاہُ یعنی اے فریادرس! شاید یہ عورتیں میری تکلیف کو محسوس کر کے خبر گیری کے لیے آئی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک عظیم اور خوفناک آواز سنی تھی۔ اسی آواز میں اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان سفید ریشم ٹٹک رہا ہے اور کوئی کئے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اُسے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دو۔

آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چند مرد دیکھے جو اپنے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے پکڑے ہوئے فضا میں کھڑے تھے۔ اُس وقت میرے جسم سے مشک جیسا خوشبودار پسینہ موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی: کاش! حضرت عبدالمطلب اس وقت میرے پاس ہوتے کیونکہ وہ مجھ سے دور گئے ہوئے تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے بہت سے پرندے دیکھے جنہیں معلوم وہ کہاں سے آئے تھے؟ اُن میں سے ہر ایک کی چونچ زمر کی اور پر یا قوت کے تھے۔ اُنھوں نے میرے حجرے کو گھیر رکھا تھا۔ مزید فرمایا:

فكشفت لي عن بصرى فابصرت اُس وقت میری نگاہوں کے سامنے سنے پردے
فی ساعتي مشارق الارض و اُٹھ گئے، پس میں نے زمین کو مشرق اور مغرب
مغاربھا و اُیت ثلاثة اعلام تک دیکھ لیا تھا۔ اُسی دوران میں یہ بھی میں نے
مضروبات علماء فی المشرق دیکھا کہ تین جھنڈے گمڑے ہوئے ہیں۔ ایک
علماء فی المغرب و علماء علی جھنڈا مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں اور
ظہر الکعبة۔ (ص ۸۶) تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔

آپ کا بیان ہے کہ درد کی شکایت کے باعث میری حالت عجیب و غریب تھی۔ اسی آواز میں کیا دیکھتی ہوں کہ چند عورتوں نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے۔ وہ قطار اندر قطار میرے پاس آ رہی تھیں اور میرے گھر میں اس قدر عورتیں جمع ہو گئیں کہ تل و دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ اس غیبی برات کی آمد پر وہ آقا کے کائنات میرے بطن سے فضا کے عالم میں رونق افروز ہو گئے۔ دنیا میں تشریف

لاتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور عجز و نیاز پیش کرنے کے ساتھ شہادت کی دونوں انگلیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں آپ کو اس حالت میں تعجب کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ایک سفید بادل نظر آیا، جو آسمان سے زمین کی جانب اُتر اُتر اُس نے آپ کو ڈھانپ لیا پھر مجھ سے غائب کر دیا۔ اس کے بعد ایک ندا کرنے والے کی آواز سنی، جو کہہ رہا تھا: محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور تمام سمندروں کو آپ کی زیارت کے شرف حاصل کرنے کا موقع دو، تاکہ وہ آپ کو اوصاف اور صورت کے لحاظ سے پہچانیں اور جان لیں کہ آپ مآجی کے اسم سے موسوم ہیں، کیونکہ آپ کی بدولت شرک ایسا مٹے گا کہ اُس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔

تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سفید بادل ہٹ گیا اور آپ صوف کے سفید کپڑوں میں ملبوس آرام فرماتے تھے۔ اُس کپڑے کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ آپ کے نیچے سبز ریشم تھا اور ہاتھ میں تین چابیاں تھیں، جن کا رنگ موتیوں کی طرح چمکدار تھا۔ ایک شخص یہ منادی کر رہا تھا کہ سرورِ عالم نے نصرت، ذبح اور نبوت کی کنجیاں سنبھال لی ہیں۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُڑنے لگتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ بنی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے معجزات صادر ہوئے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جنگِ بدر میں ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُنہیں لکڑی مرحمت فرمائی جو کسی پودے کی جڑ تھی۔ وہ اُن کے ہاتھ میں لوسے کی ایک ایسی تلوار بن گئی جو سفید، مضبوط اور لمبی تھی اور وہ فرمانِ مصطفیٰ کے مطابق اُسی تلوار کے ذریعے معرکہ آرا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتحِ مبین مرحمت فرمائی۔ وہ ایامِ رسالت تک اُسی تلوار کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتے رہے۔ جو بات اس میں ہے کہ لکڑی کو لوہا بنا دیا اور وہ مدتوں تلوار کی شکل میں کام دیتا رہا وہی نوعیت اس جانب ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا دیا جاتا تھا۔ علاوہ بریں آپ کے ہاتھ میں سخت پتھروں سے اللہ جل شانہ کی تسبیح و تقدیس کے ترانے سننا، درختوں اور پتھروں کا آپ کی نبوت کی گواہی دینا، درختوں کا آپ کے حکم پر جمع ہونا اور ایک دوسرے سے مل جانا یہ مجملہ امور مروجے زندہ کرنے اور مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اُڑا دینے کے مانند ہیں یعنی ان معجزات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں، بہروں اور کوڑھیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست کر دیا کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جنگِ احد کے دوران تیرینگے سے باہر نکل آئی تھی۔ انھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اُس نکلی ہوئی آنکھ کو اُس کے مقام پر رکھ دیا اور وہی آنکھ اس طرح کام کرنے لگی کہ کسی کو یہ شک بھی نہیں گزرتا تھا کہ ان کی کوئی سی آنکھ متاثر ہوئی تھی۔ نطف کی بات تو یہ ہے کہ اُس آنکھ کی بنیائی دوسری سے بڑھ گئی۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حبیب بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُن کے والدِ محترم انھیں ساتھ لے کر بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اُن کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، جس کے باعث بنیائی ختم ہو چکی تھی۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اِس کی وجہ دریافت فرمائی۔ عرض گزار ہوئے کہ میرا پاؤں ایک سفید سانپ کے اوپر پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میری بنیائی جاتی رہی اور اُس وقت میں اپنے اُونٹ کی ٹانگیں مل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کی آنکھوں پر دم کیا تو بنیائی لوٹ آئی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے والدِ محترم کو دیکھا کہ عمر کی اسی منزلیں طے کر لینے کے باوجود بنیائی کا یہ حال تھا کہ سُئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ بدر کے روز مجھے تیر لگا، جس کے باعث میری ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس پر اپنا لعابِ دہن لگایا اور دُعا فرمائی تو میری تکلیف بالکل جاتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خیر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابِ دہن لگایا جبکہ وہ آشوبِ چشم تھے، تو فوراً تندرست ہو گئے اور اِس کے بعد کبھی یہ عارضہ پھر لاحق نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیمار اور مصیبت زدہ آتے تو آپ اُن کے حق میں دُعا فرماتے اور اپنا دستِ شفقت اُن پر پھیرتے تو وہ تندرست ہو کر واپس لوٹتے تھے۔

بارگاہِ رسالت میں ایک بچہ لایا گیا جسے شیطان تنگ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا:

اسے خدا کے دشمن! دور ہو جا۔ فوراً اُس بچے نے قے کر دی اور ساتھ ہی وہ شرارتی جن پتے (کُتے کا بچہ) کی شکل میں نکل کر بھاگ گیا اور اُس بچے کی تکلیف دُور ہو گئی حالانکہ وہ پرندے کے اُس بچے کی مانند ہو گیا تھا، جس کے علالت کے باعث بال بھی جھڑ گئے ہوں۔ پھر آپ نے اُس کے لیے دُعا فرمائی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی رستیوں سے باز دھڑے ہوئے کو کھولا جا رہا ہو۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ بیماروں نے آپ کے ذریعے شفا پائی۔ جو بارگاہ رسالت سے شفا کے طلب گار ہوئے اور اپنی تکلیف بیان کی، تو آپ اُن کے لیے دُعا فرماتے اور وہ صحت و تندرستی سے ہمکنار ہو کر لوٹتے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابیص بن جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُن کے چہرے پر کوئی پھوڑا جیسی چیز تھی جس کے باعث اُن کی ناک بھی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دستِ کرم پھیرا تو اُن کے چہرے پر پھوڑے کا نشان تک نہ رہا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اُن کا بیان ہے کہ ایک روز مجھے مہمان کی حیثیت میں ایسے لوگوں کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، جن کے ہاں گوشت کی ہانڈی اُبل رہی تھی۔ مجھے اُس کی چربی بہت پسند آئی اور زیادہ مقدار میں کھا گیا۔ اس کے بعد متواتر ایک سال تک بیمار رہا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: تمہیں سات آدمیوں کی نظر لگی ہے۔ اس کے بعد میرے پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو مجھے سبز رنگ کی قے آئی اور تندرست ہو گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اُس روز سے لے کر آج کے دن تک میرے پیٹ میں پھر کبھی درد نہیں ہوا۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت غیلیبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مُردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی عجیب تر وہ واقعہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبیِ آخرِ اِزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا اور معجزہ بھی ایسا جسے ایک پوری جماعت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یعنی آپ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی بکری کو زندہ کیا تھا نیز یہ معجزہ بھی عجیب ہے کہ آپ کے عہدِ مبارک میں ایک انصاری عورت کے لڑکے کو زندہ فرمایا گیا ان کے علاوہ بھی حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اور کئی واقعات احادیث سے

پیش کیے ہیں، جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں:

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے کیونکہ جو کچھ لوگ کھاتے تھے اور جو گھروں میں جمع کر کے رکھتے، وہ اُن کے متعلق بتا دیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غیبی امور کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ ان سے زیادہ عجیب ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اُن چیزوں کی خبر دیتے تھے جنہیں لوگ گھروں کی چار دیواری میں کھاتے پیتے تھے لیکن فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن چیزوں کی خبر بھی دے دیا کرتے تھے جو ایک ماہ کی مسافت کے فاصلے پر ہوں مثلاً آپ نے نجاشی کے وصال کی خبر دی نیز غزوہ موتہ میں معرکہ آرائی کرنے والے سپہ سالاروں یعنی حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شہید ہونے کی خبریں دیں۔ جب کوئی شخص کچھ پوچھنے آتا تو آپ فرماتے: اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، چنانچہ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک یہ واقعہ ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ جنگِ بدر میں مشرکین کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد، انھوں نے اور صفوان بن امیہ نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ خفیہ طور پر پتھر کے ساتھ آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ جب عمیر نے یہ بات سنی تو مسلمان ہو گئے۔ غیب کی خبریں دینے کے بارے میں قرآن و حدیث کے کتنے ہی دلائل پیچھے گزر چکے ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیرو سیاحت بھی کی تھی اور وہ جنگلات میں سفر کیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس سے عظیم سیاحت فرمائی اور وہ جہاد ہے۔ چنانچہ آپ نے دس سال کے عرصے میں کتنے ہی شہر اور دیہات طے کیے اور قبائل فتح فرمائے۔

اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زاہد تھے۔ تھوڑی چیز پر قناعت کرتے اور معمولی شے سے بھی راضی ہو جایا کرتے تھے۔ جب تک اس زمین پر تشریف فرما رہے تو بقدر کفایت چیز پر ہی گزارہ کرتے رہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسملہ انبیائے کرام علیہم السلام سے زیادہ زاہد تھے۔ آپ کا دسترخوان خالی اُٹایا جاتا تھا۔ آپ نے

کبھی سیر ہو کر متواتر تین دن گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ فاقے کے باعث اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ آپ کا لباس اُون کا، بچونا بکری کے چمڑے کا اور تکیہ بھی چمڑے کا ہوتا تھا، جس میں کھجور کا بورا بھرا ہوا ہوتا تھا۔ بعض اوقات دو تین مہینے تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ بوقتِ وصال آپ کی زِرہ رہن رکھی ہوئی تھی حالانکہ:

ولم یترك صفراء ولا بیضاء
مع ما عرض علیہ من
مفاتیح خزائن الارض و وطنی
له من البلاد و منہ من
غنائم العباد فكان صلی اللہ
علیہ وسلم یقسم فی الیوم
الواحد ثلاث مائۃ الف و
یعطی الرجل مائۃ من الابل
و یعطی ما بین الحبیلین من
الاغنام و یتاہیہ السائل فیقول
صلی اللہ علیہ وسلم والذی
بعثنی بالحق ما امسی فی
ال محمد صاع من شعیر
ولا من تمر اجوع یومًا و
اشبع یومًا فاذا جعت تضربت
واذا شبعتم حمدت و کیف
لا یكون کذا لك من عظم
اللہ خلقہ۔ (ص ۸)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے چاندی کا
ترکہ نہیں چھوڑا حالانکہ آپ کے حضور زمین کے
خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی تھیں۔ آپ نے کتنے
ہی شہروں کو فتح کیا اور وہاں سے بہت سا مال
غنیمت اور غلام ہاتھ لگتے۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی روز میں تین ہزار تک تقسیم
فرما دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کو آپ نے ازراہِ کرم
ایک سو اونٹ مرحمت فرما دیئے۔ آپ نے ایک
آدمی کو اتنا بڑا ریڑ عنایت فرمایا جس سے دو
پہاڑیوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی۔ اگر کوئی
سائل آتا تو شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے: قسم اُس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ
مبعوث فرمایا ہے، آلِ محمد کے گھر میں شام تک جو
یا کھجور کا ایک صاع بھی نہیں بچا۔ میں ایک وز بھوکا
رہتا ہوں اور دوسرے روز سیر ہو کر کھالیتا ہوں
جب بھوکا رہتا ہوں تو بارگاہِ الہی میں عاجز بندہ
پیش کرتا ہوں اور جب شکم سیر ہوتا ہوں تو شکم
بجالاتا ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے
اُنہیں خلقِ عظیم عطا فرمایا تھا۔

چنانچہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا :
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوقت وصال اللہ جل شانہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں جسے چاہیں پسند کر لیا جائے۔ آپ نے دنیاوی زندگی پر اخروی کو ترجیح دی، لیکن آپ کی روح مبارک کو قبض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خاص قرب میں لے لیا۔ اگر آپ دنیوی بقا کو پسند فرماتے تو حضرت خضر، حضرت ایساں اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی طرح آپ بھی آسمانوں اور زمین میں رہتے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں مقیم ہیں اور حضرت خضر اولیساں علیہما السلام جہاں چاہتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جاتے رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے ایک جماعت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ تھے، جب انہیں آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا تھا تو لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو انہیں دشمن کی مقبوضہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اس خوف سے کہ کفار ان کی لاش کو جوش انتقام میں قبر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، انہیں دشمن کی مقبوضہ زمین سے منتقل کرنے کے لیے قبر کو کھولا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ کدھر چلے گئے۔

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمرو بن اُمیہ ضمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ستون کے قریب پہنچا جس پر انہیں باندھ کر شہید کیا گیا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن

میں ستون پر چڑھ گیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کھولا تو وہ زمین پر گر گئے اور
میں بھی اُن کے قریب ہی گرا۔ اُٹھتے ہی میں نے لاش کی جانب دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا،
گویا اُسے زمین نگل گئی کیونکہ آج کے دن تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کسی کو
پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ سے بنو حارثہ نے ایک کلڑی کے
ستون کے ساتھ باندھ کر قتل کیا تھا۔ حضرت عمرو بن اُمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُن کے پاس گئے اور
اُنہیں کھولا، لیکن اس کے بعد معلوم نہ ہو سکا کہ وہ گئے کدھر؟ اس کے بعد اُن کی لاش کسی کو نہ
مل سکی۔ اللہ تعالیٰ اُن سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے ہی اصحاب سے
راضی رہے۔ (دائیں)

اس کتاب کا جامع فقیر یوسف نبہانی عفا اللہ عنہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی
تالیف حجة اللہ علی العالمین میں، جو معجزات سرورِ کائنات و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے بیان پر مشتمل ہے، مواہب لدنیہ مصنفہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر انبیاء کرام
علیہم السلام کے معجزات کا معجزاتِ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے مقابلہ نقل کیا ہے اور یہ
بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے
معجزات کی جنس ہی سے ہیں۔ میں اُن بیانات کو اپنے لفظوں میں بلا کم و کاست بیان کرتا ہوں؛
صحابہ کرام سے لے کر اب تک کے اولیائے اُمتِ محمدیہ کی کرامات کا اگر
کوئی شخص تتبع کرے تو اس پر روشن ہو جائے گا کہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات سے ہر
معجزے کی جنس سے یہاں اتنی کرامتوں کا وقوع نظر آئے گا، جن کو شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔
اُن میں سے ہزاروں کرامتیں کتابوں میں مذکور و محفوظ نہیں لیکن یہ جمع شدہ کرامتیں غیر جمع شدہ
کرامتوں کے مقابلے میں اتنی ہی قلیل ہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ کیونکہ کرامتوں کا
ظہور تو ہر جگہ اور ہر زمانے میں اولیاء اللہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا اور اولیائے
اُمتِ محمدیہ کی یہ جملہ کرامتیں ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ہی کے معجزات ہیں۔

کتاب حجة اللہ علی العالمین کی اشاعت کے بعد میں نے ایک اور جامع

کتاب لکھی، جس کا نام میں نے جامع کراماتِ اولیاء رکھا ہے۔ پس بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جو آگ میں گودے لیکن اُن پر آگ نے ذرا بھی اثر نہ کیا، جیسے ابو مسلم خولانی تابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ علاوہ بریں ایسے واقعات ہر زمانے میں بکثرت واقع ہوتے رہے ہیں حالانکہ دوسری جانب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔ بعض بزرگوں نے سمندر کو عبور کیا اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ چنانچہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بحرین پر حملہ کیا تو انہیں دریا کو بغیر کسی سہارے کے عبور کرنا پڑا، سارا شکر پار ہو گیا اور ایک آدمی کا نقصان بھی نہیں ہوا اور نہ کوئی چیز ہی ضائع ہوئی۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن کسری کو فتح کیا، تو انہوں نے بہت بڑے لشکر سمیت دریائے دجلہ کو عبور کیا، حالانکہ اُس میں سیلاب تھا اور دریا ٹھاٹھیں مار رہا تھا لیکن اُن کی کسی ایک چیز کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ جب اہل فارس نے انہیں اس طرح دریا عبور کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ضرور یہ جنات ہیں، انسان ہرگز نہیں اور اُن کا لشکر جزا رہ کھٹے ہوئے سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کسری پر قابض ہو گئے، حالانکہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔ اسی قبیل سے بعض اولیائے کرام کا پانی کی سطح پر زمین کی طرح چلنا پھرنا ہے اور ہر زمانے میں ایسے واقعات کثیر تعداد میں وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔

بعض اولیائے اُمتِ محمدیہ کے ہاتھوں مُردے زندہ ہونے کے واقعات بھی مشہور ہیں جیسا کہ متعدد علمائے کرام نے لکھا ہے۔ چنانچہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ (رسالہ قشیریہ) میں لکھا ہے کہ امام عبدالوہاب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقاتِ کبریٰ میں سیدی شیخ ابراہیم مقبول رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ وہ فقرا سے اُن کے حالات

لے اسی لیے تو شاعرِ مشرق نے کہا ہے اسے

دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

دریافت کیا کرتے اور اُن سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے شخص کو دیکھا جو بہت عبادت گزار اور نیکو کار تھا اور لوگ اُس کے بہت معتقد تھے۔ شیخ مقبول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے بیٹے! میں دیکھتا ہوں کہ تم عبادت تو بہت کرتے ہو لیکن تمہارا درجہ بہت ناقص ہے، لیکن تمہارے والد محترم تو تم سے ناراض نہیں ہیں؛ اُس نے جواب دیا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ شیخ نے فرمایا: تم اُن کی قبر پہچانتے ہو۔ اُس نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: ہمارے ساتھ اُن کی قبر پر چلو، شاید وہ راضی ہو جائیں۔ شیخ یوسف کردی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے خود اُس کے والد کو دیکھا کہ وہ قبر سے باہر آئے اور سر سے مٹی جھاڑ رہے تھے، حالانکہ شیخ علیہ الرحمۃ نے ابھی آواز ہی دی تھی۔

شیخ مقبول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ فقراء آپ کے لڑکے کے بارے میں سفارش کرنے آتے ہیں کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اُس کے والد نے جواب دیا: میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے لڑکے سے راضی ہو گیا ہوں۔ شیخ نے فرمایا: تو اپنی جگہ واپس لوٹ جائیے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ گیا۔ اُس کی قبر اس حسینیہ میں جامع شرف الدین کے قریب واقع ہے، حالانکہ مُردوں کو زندہ کرنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مُردے زندہ کرنا ثابت ہے۔

اولیائے کرام کے ہاتھوں بیماروں کا شفا پانا اور اولیاء اللہ کا غیب کی خبریں دینا یہ بھی بکثرت اولیائے کرام سے ہر جگہ اور ہر زمانے میں واقع ہوتا رہا ہے حالانکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مشہور ہے۔ اسی طرح بعض اولیاء اللہ جب ارادہ کرتے تو اُن کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا۔ منجملہ اُن کے اس زمانے میں والی کبیر، مشہور بزرگ، شیخ علی عمری شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو طرابلس شام میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی عمر دراز کرے نیز ہمیں اور سب مسلمانوں کو

لے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے: ۷

جس کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات

ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی

اُن سے نفع حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (وہ ۱۲۶۱ھ میں فوت ہوئے) ہیں (علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی رحمۃ اللہ علیہ) نے بچپن خود دیکھا ہے کہ وہ وائیں ہاتھ سے لوسہ کی بڑی چابی کو پکڑ کر انگلی سے لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے اُن کی یہ کرامت اور بھی کتنے ہی ثقہ حضرات سے سنی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے تھے۔

اُنہوں نے شیخ علی عمری شامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ چاندی کو بھی لوسہ کی طرح ہی جدھر چاہتے توڑ مروڑ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ریال مجیدی یا اُس جیسے دوسرے کسی سکے کا ایک کنارہ کسی کے منہ پر رکھتے اور دوسرے سرے کو انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کی ذرا سی حرکت سے یوں باسانی دوہرا کر دیتے جیسے وہ اُٹے سے بنایا گیا ہے۔ پھر اُسی حالت پر اُسے رہنے دیتے اور وہ شخص اُسے تبرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا۔ میں نے خود اور دیگر مختلف حضرات نے اُن کی متعدد کرامتیں دیکھی ہیں، جن میں سے بعض کا وقوع ہم نے اولیائے ماضی سے سنا ہے اور بعض کا واقع ہونا سنا بھی نہیں ہے۔ اگر شیخ موصوف کی کرامتیں بیان کی جائیں تو اُن کا شمار ہزاروں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کی برکات سے ہمیں دنیا و آخرت میں نطف اندوز کرے۔ اس میں شک نہیں کہ لوسہ کا نرم کرنا سیدنا داؤد علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔

بعض اولیائے کرام صاحبِ خطوہ ہوتے ہیں، جو ذرا سی دیر میں مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ طے کر لیا کرتے ہیں۔ بعض ہوا میں اُڑتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے جنتِ تابع ہوتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کی کرامتیں ایسی ہیں کہ اولیائے اُمتِ محمدیہ سے ان کا وقوع اس کثرت سے ہوا ہے جن کے بیان سے بے شمار گنا ہیں بھری پڑی ہیں حالانکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور معجزے ہیں۔

اگر ہر نبی اور رسول کے معجزات کو شمار کرو اور اولیائے اُمتِ محمدیہ کی کرامتوں کو اُن کے بالمقابل رکھو تو صاف نظر آئے گا کہ اُن میں کمال درجہ مطابقت ہے۔ علاوہ بریں خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر معجزات کو اُن کے ساتھ مطابقت ہے۔ یہ جان لینے کے بعد فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علیحدہ علیحدہ بر معجزے کی اُن کے ساتھ

مطابقت دکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

امام خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور اُس نے انہیں نہ جلایا اسی طرح فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کفار کے ساتھ جنگ و جدل کی آتشِ شعلہ بار سے دوچار ہوئے لیکن وہ آپ کو جلانہ سکی۔ ان کی تفصیلات میں جانے کی یہاں حاجت نہیں ہے کیونکہ یہاں تو اولیائے اُمتِ محمدیہ سے بھی اس قسم کے بے شمار واقعات ظہور پذیر ہوئے بلکہ عوام تک سے جو سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہیں اور یہ شیخ موصوف ہی کی کرامت ہے۔

لیکن میں (علامہ یوسف بن اسماعیل نہہانی رحمۃ اللہ علیہ) دوسرے اعتبار سے کہتا ہوں کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر انبیائے کرام پر فضیلت دینے میں اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کے معجزات دیگر انبیائے کرام کے معجزات سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں؛ جبکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اُن پر اور ساری مخلوق پر روزِ روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس امر کے دلائل اتنے کثیر اور واضح ہیں کہ اہل علم اور صاحبِ بصیرت کو انکار کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی افضلیت ایسی واضح ہے کہ ایک عام مسلمان جسے انبیاء و مرسلین کے حالات و کمالات اور اُن کی شرائط کی معرفت حاصل ہے، وہ بھی اس سے بے خبر نہیں اور اُس کے سامنے بھی اس حقیقت کے بے شمار دلائل موجود ہوں گے۔

دیگر انبیاء و مرسلین سے اُن معجزات کا ظہور ہوتا تھا، جو اُن کے زمانہ والوں کے حال کے مناسب ہوتا تھا، جن کی جانب اُنہیں مبعوث فرمایا جاتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زور تھا، آپ کے لیے ایسا ہی معجزہ درکار تھا جس کے باعث جادوگروں کو مغلوب کر سکیں اور اُس کی بدولت جادوگروں سے ممتاز ثابت ہوں، چنانچہ آپ کو عصا مرحمت ہوا جو اڑوا بن جاتا تھا اور مقابلے کے وقت وہ ساحروں کی ساری رستیوں کو نکل گیا، جو لوگوں کی نگاہوں میں چلتے پھرتے سانپ معلوم ہوتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں پر علم طب کی معرفت کا غلبہ تھا۔ چنانچہ آپ کو ایسا ہی معجزہ ملنا چاہیے تھا، جس کے وقوع کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر طب تصور

بھی نہ کر سکے، چنانچہ آپ کو مُردے زندہ کرنے اور کورڑھیوں، مادر زاد اندھوں کو شفا دینے کا معجزہ
مرحمت ہوا۔

دیگر انبیائے کرام علیہم السلام سے جو معجزات کسی سبب کی مناسبت سے واقع
ہوئے اُن میں سے بعض سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ اُن پر آگ سرد اور سلامتی والی
کردی گئی جبکہ دشمنوں نے اُنہیں آگ میں ڈالا تھا۔ اس معجزے کے وقت کفار کا مقصد سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا۔ اگر ہم ایسے ہی معجزے کا سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے لیے بھی اثبات کریں تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ پر بھی آگ سلامتی والی سرد
ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی باتوں کا وقوع تو اُمتِ محمدیہ کے بکثرت اولیائے کرام تک سے
ہوا ہے جیسا کہ اس سے پہلے مذکور ہوا۔

ایسے معجزات میں سے بعض سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ اُن
کے لیے سمندر کھل گیا تھا۔ یعنی اپنے لشکر سمیت فرعون اُن کا تعاقب کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے
اُن کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستے بنا دیے تاکہ وہ اپنی قوم سمیت دشمن سے نجات پا جائیں۔ اگر
اسی قسم کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا ہوگا تو ایسے ہی واقعے کا صدور
دکھانا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی مدد تو اللہ جلّ شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت کے اولیائے کرام تک کی فرمائی ہے۔ صاحبِ مواہب نے جو نقل کیا ہے
اُدھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اُنہوں نے نقل کیا ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے معراج کی رات زمین و آسمان کے درمیان ملفوف نامی سمندر کو عبور کیا اور اسے موسیٰ علیہ السلام
کے معجزے کی مثل قرار دیا ہے۔ صحیح مطابقت میں یہ واقعات مذکور ہو چکے کہ حضرت علاءِ حضرمی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سمیت سمندر کو عبور کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اپنے لشکر کو لے کر بغیر کسی معمولی نقصان کے دریائے وجلہ کو عبور کر گئے۔ یہ کرامتیں واقعی الفلاقِ بحر
(سمندر پھٹنے) کے معجزے کی طرح ہیں۔

ان معجزات میں سے بعض اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں مثلاً
جب اُن کی قوم کو پانی کی حاجت ہوئی اور کہیں پانی نہ ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا

اور اُس سے پانی کے بارہ چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اس جیسا بلکہ اس سے بھی عظیم معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف صورتوں میں متعدد بار ظاہر ہوا، جن کا وقوع مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر ہوا، جیسا کہ صلح حدیبیہ اور جنگ تبوک کے مواقع پر ایسے معجزات کا صدور ہوا۔ ہم اُن کی تفصیل مناسب مقام پر پیش کریں گے۔ علاوہ بریں بعض اوقات تھوڑے پانی میں لعابِ دہن ڈال دیتے تو اللہ تعالیٰ اُس پانی میں اتنی برکت پیدا کر دیتا کہ وہی پانی ایک بہت بڑے لشکر کے لیے کافی ہو جاتا اور کبھی مسلمانوں کو تیرِ محبت فرما دیتے کہ اُسے خشک چشمے پر رکھ دیا جائے تو اُس چشمے سے پورے جوش و خروش کے ساتھ پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور کبھی اپنے دستِ کرم کو پیالے میں رکھتے، جس میں تھوڑا سا پانی ہوتا تو آپ کی انگشت ہائے مبارک سے پانی کے چشمے اُبل پڑتے، یہاں تک کہ خواہ وہ کتنی ہی تعداد میں ہوتے لیکن پانی کافی ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے عظیم تر ہے کیونکہ پتھر سے پانی کا جاری ہونا پھر عادی ہے اگرچہ معجزے کی صورت کے لحاظ سے اس کی نوعیت ہی مختلف ہے لیکن انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا تو بالکل ہی عادی نہیں ہے۔

ان میں سے بعض معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے جیسا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ چنانچہ اس قسم کے معجزات سرورِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بکثرت ظہور پذیر ہوئے، جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ ان کا تفصیلی بیان بھی عنقریب آگے آئے گا بلکہ بیماروں کو تندرستی دینا تو اولیائے اُمتِ محمدیہ سے ہر زمانہ اور ہر مقام پر واقع ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ان میں سے جو شیخ علی عمری رحمۃ اللہ علیہ سے واقع ہوئے ہیں، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اُن کا شمار کیا جائے تو مختلف بیماریوں کے باعث وہ ہزاروں کی تعداد کو پہنچتے ہیں۔ اگر ایک قلیل عرصے کے لیے بھی کسی کو اُن کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا تب بھی یہی سامنے آتا کہ بے شمار مریض

لے اسی لیے مجددِ مائتہ حاضرہ قدس سرہ نے فرمایا ہے: ہ

انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیا سے مجھوم کر

ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

آپ کے باعث شفا یاب ہو رہے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ اور متعدد قسم کی کرامتوں کا ظہور اُن سے دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اُن کے فیوض و برکات سے بہرہ مند کرے۔ (آمین)

ان میں سے بعض معجزات سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق ہیں، جیسا کہ جتن اُن کے تابع تھے اور یہ اُن کے ملک کی قوت و شوکت کی مناسبت کے لحاظ سے تھا۔ یہ شرف انھیں باری تعالیٰ نے مرحمت فرمایا تھا جبکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ معجزہ ثابت ہے کہ جتن آپ کے تابع فرمان تھے۔ جنوں کی بھاری تعداد آپ پر ایمان لائی اور طاعت گزاری پر کمر بستہ رہی، علاوہ انہیں آپ کی اُمت کے ادیبانے کرام جب چاہیں جنات سے خدمات لیتے ہیں بلکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا تو فرشتے بھی شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر اور دیگر مواقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیج کر آپ کی مدد فرمائی۔ اُن خدمت گزار فرشتوں میں حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی مرحمت ہوا تھا کہ ہوا اُن کے تابع فرما کر دی گئی تھی کہ اُس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی راہ ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی آپ کی مملکت کی شان و شوکت کے لیے تھا، جس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے آپ کو فضیلت بخشی تھی۔ لیکن اس سے بھی عظیم تر معراج کی رات کا واقعہ ہے اور ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے جس کے ساتھ دیگر انبیاء کے کسی بھی معجزے کو کوئی نسبت نہیں۔ چنانچہ آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے آسمانوں تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہی تک اور وہاں سے لامکان تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سیر کرائی، جس کے بارے میں سیر کرانے والے اور سیر کرنے والے کے سوا اور کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر رات کے قلیل عرصے میں واپس تشریف بھی لے آئے۔ کفار مکہ کو بیت المقدس کی تفصیلات بھی بتائیں، اُن کے قافلے کا ذکر بھی فرمایا، جو راستے میں بلا تھا، چنانچہ آپ کی یہ خبر واقعات کے مطابق ہی ثابت ہوئی۔ حالانکہ اہل مکہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے آپ کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ (ان حالات میں وہ انکار کی گنجائش نہیں پاتے تھے)

یہاں یہ معجزہ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ملک عطا فرمایا تھا

تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم، نور مجسم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ وہ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی عبد۔ آپ نے نبی عبد ہونے کو پسند فرمایا تھا۔ ایک فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ تھامہ کی پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے؛ آپ نے انکار فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس معجزے کی مناسبت کے لحاظ سے متعدد معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن کا عنقریب ذکر ہوگا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے معجزات سے ایک یہ ہے کہ آپ نے جب ہجرت فرمائی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں آرام فرما ہوئے تو غار کے دروازے پر مکڑی نے جالاتن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیئے۔ جب قریش کے جوان (تلاش کرنے والے) وہاں پہنچے تو غار میں داخل نہ ہوئے۔ اُن میں سے ایک شخص نے کہا کہ مکڑی کا یہ جالاتو غار کے منہ پر اُن کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے اور اس طرح ناامید ہو کر واپس لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چل پڑے تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے لگ گیا، تاکہ گرفتار کر کے قریش کے حوالے کرے اور انعام کے سو اونٹ حاصل کرے۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو اُس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں اور وہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے دعا کی تو خلاصی پاتے ہی واپس لوٹا اور سیدھا اپنے گھر جا پہنچا۔

اس کے بعد آپ نے اُمّ معبد کے خیمے میں قدم رنجہ فرمایا، تو اُس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ مہمان نوازی کا فریضہ ادا کرتی۔ اُس کے پاس صرف ایک بکری تھی جو بے حد کمزور ہو چکی تھی اور کمزوری کے باعث اُس کا دودھ خشک ہو گیا تھا اور باہر جانے سے بھی عاجز تھی۔ آپ نے اُس بکری کا دودھ دوا، جو آپ، ابوبکر صدیق اور دوسرے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد دوسرے برتن میں دوا اور اُسے بھی دودھ سے بھر دیا اور اُسے اُمّ معبد کے حوالے کر کے آپ سرگرم سفر ہو گئے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض لڑائیوں میں کنکریاں اور مٹی بھر مٹی پھینکی، جو اُن سب تک پہنچی اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحابہ کرام کتے کھانے پینے کی

چیزوں میں بوقتِ ضرورت آپ کی بدولت اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ وہی چند افراد کی ضرورت کا کھانا ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی زخم ہوتا یا پنڈلی ٹوٹ گئی ہوتی یا آنکھیں درد کرتی ہوں اور اُن سے پیپ بہتی ہو یا کسی کی آنکھ اُس کی جگہ سے نکل جاتی اور آپ اُس پر اپنا دستِ کرم پھیرتے تو تکلیف اور شکایت دور ہو جاتی۔ اسی طرح حالات کے مطابق آپ سے غیب کی خبریں واقع ہوتی رہیں۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ بعض معجزات کا دیگر انبیائے کرام سے صادر ہونا اور اُن جیسے معجزات کا فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر ظاہر نہ ہوں تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُن حضرات کو سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فضیلت و سیادت حاصل ہے، ایسا ہرگز نہیں کیونکہ یہ نظریہ آپ کے مِنْ كُلِّ الْوُجُوہِ فُضُل و کمالات کے عقیدے کا خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس معجزے کا کسی نبی سے صدور ہوا اُس کا مقتضی فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پایا ہی نہ گیا ہو اور اس طرح بعینہ اُس معجزے کے صادر ہونے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا اور اُن کی خاطر سمندر کا پھٹ جانا اور صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہو جانا، ان کا مقتضی سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں پایا ہی کب گیا؟ لیکن دوسری جانب ان سے بھی عظیم تر معجزات کا آپ سے وقوع ہو گیا۔

کفار کا آپ سے انشعاقِ قمر (چاند پھٹنے) کا مطالبہ کرنا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ ایسا معجزہ ہے کہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات میں قطعاً اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ چاہے آپ کے عظیم ترین معجزہ یعنی قرآنِ کریم کی نظیر پائی جائے، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا جبکہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات کا آج نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ نبیِ آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے معجزات بھی کثرت سے صادر ہوئے کہ اُن جیسے معجزات کا کسی نبی سے صدور نہیں ہوا بلکہ آپ کی امت کے بعض اولیائے کرام سے ایسی عظیم کرامتیں بھی ظہور میں آئی ہیں کہ معجزے کے طور پر اُن کا وقوع دیگر انبیائے کرام سے نہیں ہوا۔ نہ اُن کی مثل اور نہ اُس جیسے ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن اولیائے عظام سے ایسی کرامتوں کا

وقوع ہوا، ایسے حضرات کو ان انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہو جائے جن سے ان کرامتوں جیسے معجزات کا صدور نہیں ہوا اور اولیائے کرام پر رسولوں کو جو فضیلت حاصل ہے اُس میں ایسے معجزات کے صدور نہ ہونے کے باعث کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے متعدد وجوہ ہیں:

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفضل سے وہ کام صادر ہو گیا جس کے صدور کی افضل کو پہلی وجہ ضرورت پیش نہ آئی۔

اس اُمت کے اولیائے کرام کی تمام کرامتیں ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا دُوسری وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ اس صورت میں سب پر حقیقی فضیلت فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور اُمتِ محمدیہ کے ایسے اولیاء اللہ کو بالفتح ایک گونہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔

جس مناسبت کے باعث کسی ولی سے ایسی کرامت کا صدور ہوا وہ مناسبت تیسری وجہ یا ضرورت اُس نبی کے زمانے میں پیش آتی تو عین ممکن ہے کہ نبی سے معجزے کی صورت میں وہی کچھ ظاہر ہوتا بلکہ اس سے عظیم تر۔

مُجلد اولیائے کرام پر ہر نبی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دُوسرے فضائل اور دلائل کے چوتھی وجہ لحاظ سے ہے۔ اگر ایک فعل بطور کرامت ولی سے صادر ہوا اور اُس کا صدور نبی سے نہیں ہوا تو نہ سہی، فضیلت کا انحصار صرف کرامت ہی پر نہیں ہے۔ بعینہ یوں سمجھیے کہ بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو دیگر انبیاء و مرسلین سے صادر ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اُن کا صدور نہیں ہوا، کیونکہ جس مناسبت کے لحاظ سے اُن حضرات سے ایسے معجزات کا صدور ہوا وہ مناسبت سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہ پائی گئی اگر وہ مناسبت پائی جاتی تو یقیناً آپ سے بھی اُن معجزات کا صدور ہوتا بلکہ اُن سے بھی عظیم تر صورت میں وقوع ہوتا۔ جس طرح ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بکثرت معجزات اسی عدم مناسبت کے باعث دُوسرے انبیائے کرام سے صادر نہیں ہوئے اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ بعض معجزات کا دیگر انبیائے کرام سے صادر ہونے اور ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولیٰ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اُن کا صدور نہ ہونے کے باعث آپ کی افضلیت پر کوئی حرف نہیں آتا اور نہ اس سے کوئی حرج واقع ہوتا ہے کیونکہ دیگر انبیاء و مرسلین کے سارے معجزے بھی اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ مجموعہ بھی آپ کے اکیلے معجزہ قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ تنہا قرآن مجید ہی ہزار ہا معجزات، آیات و بینات علوم نافعہ، انوارِ ساطعہ اور ہر اُس معرفت کا حامل ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی یا دور پھینک دیتی ہے۔ علاوہ بریں یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور مسلمان اس سے ہمیشہ نفع حاصل کرتے رہیں گے کیونکہ اس کی تلاوت بھی عبادت ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قُرب میں لے جاتی رہتی ہے اور اس کے ذریعے رضائے الہی حاصل کرنے کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔

مذکورہ بحث کی کتابت کے دو ماہ بعد میں (علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی رحمۃ اللہ علیہ) نے کتاب الابرار کے چوتھے باب میں شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اپنے مندرجہ بالا بیان کی تائید میں پڑھا۔ اُن کے شاگرد علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک روز میں آپ سے گفتگو میں مصروف تھا، تو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں جنوں، انسانوں، شیاطین اور ہوا پر تسلط دیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ اُن کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ مرحمت ہوا کہ لوہے کو اُن کے ہاتھوں میں ایسا نرم کر دیا کہ آٹے کی طرح جدھر چاہتے پھر جاتا نیز یہ ذکر بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کمال معجزہ ملا کہ وہ بہروں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مُردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح بعض دیگر انبیائے کرام کے معجزات کا تذکرہ کیا۔ شیخ موصوف نے میری گفتگو کا حاصل اور مرکزی خیال یہی قرار دیا کہ جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انبیائے کرام سے افضل ہیں تو آپ سے اُن معجزات کا صدور کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ جو دوسرے بے شمار معجزات آپ سے ظاہر ہوئے وہ دوسری نوعیت کے ہیں۔

شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک مرحمت فرمایا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جو مسخر کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اکرام ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب اور اس سے بھی زیادہ اُمت محمدیہ کے اہلِ تصرف حضرات کو

مرحمت فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جن، انسان، شیاطین، ہوا اور فرشتے بھی مطیع کر دیئے بلکہ جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے اور انہیں بہروں، کوڑھیوں کو شفا دیتے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت بھی مرحمت فرمائی ہے لیکن یہ غیبی امر ہے جو چھپا ہوا ہے اور مخلوق میں عام ظاہر نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں اور اس طرح اپنے رب کو بھلا بیٹھیں۔ اہل تصرف کو یہ قدرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ مجملہ کرامتیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ حجۃ اللہ علی العالمین سے میری عبارت ختم ہوئی۔ اب میں صاحب عنوان کا باقی کلام نقل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ:

حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوة کے پینتیسویں باب میں جس پر وہ اس کتاب کو ختم کرتے ہیں، سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ، عادات شریفہ اور سیرتِ طیبہ کا ذکر کیا ہے، جو ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ یہ حدیث شاملِ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے فرموداتِ گرامی کے تحت اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس لیے طوالت کے خوف سے یہاں اُسے نقل نہیں کیا جاتا۔ علاوہ بریں تکرار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہوں نے آگے فرمایا ہے:

شاملِ رسول

اُس دستِ قدرت کے شہکارِ کارنگ بالکل سفید نہ تھا اور نہ گندمی، بلکہ آپ پھول کی مانند کھلے ہوئے رنگ والے تھے جسے ازہر کہتے ہیں اور یہ ایسا سفید و سرخ ہوتا ہے جس میں زردی کی ملاوٹ نہ پائی جائے جو علامتِ مرض ہے۔ اکثر حضرات نے آپ کی رنگت یہی بیان کی ہے لیکن یہ جسمِ اطہر کے اُن حصّوں کا رنگ ہے جو عموماً کھلے رہتے ہیں اور جنہیں سورج کی روشنی اور ہوائیں بلا واسطہ پہنچتی رہتی ہیں، اُن کی رنگت واقعی سرخی مائل تھی لیکن جو حقے عموماً لباس میں ڈھکے رہتے ہیں وہ سرخ و سفید تھے۔ جن حضرات نے بھی حسنِ مصطفیٰ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی انہوں نے آپ کا رنگ سفید ازہر ہی بیان کیا ہے۔ پس یہ سمجھ

لینا چاہیے کہ جن حضرات نے آپ کا رنگ سفید ازہر بتایا اُن کی مراد اُن حصّوں کا رنگ ہے جو عموماً کپڑوں میں ڈھکے رہتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ درست ہی کہتے ہیں لیکن جن حضرات نے سُرخی مائل رنگ بتایا ہے، اُن کی مراد وہی ظاہر حقّے ہوں گے جن پر سورج کی کرنیں براہِ راست پڑتی ہیں اور جنہیں کھلی ہوا لگتی رہتی ہے اور اس لحاظ سے اُن حضرات نے بھی درست فرمایا ہے کیونکہ آپ کا اصل رنگ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں وہ ازہر ہی تھا اور ظاہر حصّوں کا سُرخی مائل ہونا خارجی اثرات یعنی دھوپ اور ہواؤں کے باعث تھا۔ (فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْحَقَائِقِينَ)

آپ کے چہرہ انور کا پسینہ موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا، جس میں تیز خوشبودار مُشک سے بھی زیادہ مہک تھی۔ بال لمبے اور خم دار، نہ بالکل سیدھے اور نہ ایک دوسرے میں اُلجھے ہوئے۔ جب شانہ کیا ہوا ہوتا تو مانگ اس طرح نظر آتی جیسے ریتلی زمین میں راستہ واضح دکھائی دیتا ہے یا جیسے سخت پتھریلی زمین میں اُبھری ہوئی جگہ صاف نظر آتی ہے اور ہوائیں اُس سے اٹھکھیلیاں کرتی ہیں۔ شانہ فرماتے تو بال ایک دوسرے سے گتھ جاتے اور اس طرح گھیرا کر لیتے جیسے انگوٹھی کے گھیرے ہوتے ہیں۔ شروع میں آپ بالوں کو آگے کی جانب لٹکایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کی گزارش پر بالوں کو پیچھے کی جانب کرنا شروع کر دیا جو بعض اوقات کندھوں تک پہنچ جاتے تھے اور کبھی کانوں کی ٹوٹک۔ بعض اوقات آپ بالوں کے پار حقّے کر لیتے۔ دو حقّے دائیں گوش مبارک کو اور دو حقّے دوسرے گوشِ اقدس کو گھیرے میں لے لیتے لیکن دونوں لعلِ سماعت کے کان باہر نکلے ہوئے ہوتے اور دیکھنے والائیوں محسوس کرتا جیسے بادلوں کی سیاہی کے اندر سے چمکدار ستارے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی ہر دو کنبٹی مبارک پر چند بال سفید تھے اسی طرح ریش مبارک میں ٹھوڑی کے گرد چند ٹوٹے مبارک سفید تھے، جن کی سفیدی چاندی کے تاروں کی مانند تھی، جن کا سیاہ بالوں کے درمیان میں چمکنا ایک زالا اور دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ جب آپ زرد خوشبو استعمال کرتے اور عموماً آپ یہی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے تو آپ کے سفید بالوں پر سنہری دھاریوں کا گمان گزرتا تھا۔

آپ کا چہرہ انور تمام لوگوں سے خوب صورت اور رنگ سب سے چمکدار تھا کوئی واضح رخِ مصطفیٰ کو چاند سے تشبیہ دئے بغیر نہ رہ سکا جبکہ بعض تو چودھویں رات کے

چاند سے بھی خوش نما اور بارونق قرار دیتے تھے اور ایسا کیوں نہ کہتے جبکہ وہ چہرہ انور چاند کی طرح ہی چمکتا تھا۔ آپ کی رضا و رغبت کو چہرے ہی سے پہچانا جاسکتا تھا۔ جب آپ خوش و خرم ہوتے تو چہرہ پر نور آئینے کی طرح چمکتا اور جب ناراض ہوتے تو رخِ مصطفیٰ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آنکھیں سُرخ ہو جاتیں۔ رضا مندی کی حالت کا نقشہ آپ کے یارِ غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کھینچا ہے:

أَمِينٌ مُصْطَفًى لِلْخَيْرِ يَدْعُوا

كَضَوْءِ الْبَدْرِ ذَا إِلَهٍ الظِّلَامِ

لوگ جب اس شعر کو سنتے تو یہی کہتے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی ایسے ہی تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر اوقات زہیر بن ابی سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر درو زبان رکھتے:

لَوْ كُنْتُ مِنْ شَيْءٍ سِوَى بَشَرٍ

كُنْتُ الْمُنَوَّرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

جو شخص بھی اسے سنتا تو کہتا کہ واقعی سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے گریہ و زاری کرتے ہوئے کہا:

اے اسی لیے مولانا کافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

ۛ

گو ترقی پہ جمالِ میرِ کامل ہووے

منہ تو دیکھوں کہ ترے منہ کے مقابل ہووے

ۛ (ترجمہ) وہ امین، ساری مخلوق سے چنے ہوئے اور بھلائی کی جانب بلانے والے ہیں۔ وہ چودھویں رات

کے چاند کی طرح اندھیروں کو زائل کرنے والے تھے۔

ۛ (ترجمہ) اگر آپ بشر کے سوا کوئی اور چیز ہوتے تو چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہوتے۔

أَعْيَنِي جُودِي بِالْذُّمِّ مَوْجِ الشَّوَارِحِ عَلَى الْمُصْطَفَى كَالْبَدْرِ مِنْ أَلِ هَاشِمٍ
عَلَى الْمُصْطَفَى لِلْبَرِّ وَالْعَدْلِ وَالْتَقَى وَلِدَيْنِ وَالْذُّنْيَا مُقِيمُ الْمَعَالِمِ
عَلَى الصَّادِقِ الْمَيْمُونِ ذِي الْحِلْمِ وَالنَّهْيِ وَذِي الْفَضْلِ وَالذَّاعِي الْخَيْرِ التَّوَّاحِمِ

آپ کی پھوپھی نے بدر کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشبیہ دی اور اُسی طرح آپ کی تعریف و توصیف کی جیسا کہ اللہ جل شانہ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہوئی ہے حالانکہ وہ اپنی قوم کے دین پر تھیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک روشن تھی اور رات کے اندھیرے میں جب وہ بادلوں کے اندر سے دکھائی دیتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج ہے جس سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ رخسار مبارک صاف تھے، جن پر گوشت کم یا زیادہ نہ تھا۔ چہرہ مبارک لمبا تھا اور نہ بالکل گول۔ ریش مبارک بھاری تھی۔ ٹھوڑی کے بال ابھرے ہوئے تھے، گویا اُس کے ارد گرد دونوں جانب موٹیوں کی سفیدی تھی۔ گردن مبارک سب لوگوں سے خوب صورت تھی جو بالکل مناسب تھی، اُسے نہ لمبی کہا جاسکتا نہ کوتاہ۔ گردن کا ظاہری حصہ یوں محسوس ہوتا کہ چاندی ہے جس میں سونے کی ملاوٹ ہو۔ اُس میں چاندی سونے جیسی دھمکتی تھی کیونکہ چاندی کی سفیدی اور سونے کی سُرخ اپنی نیرنگیاں دکھاتی تھی جبکہ گردن مبارک کا ملبوس حصہ چاند کے مانند تھا۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ جو علوم و معارفِ الہیہ کا گنجینہ تھا، وہ کشادہ تھا۔ گلے کے نیچے سے ناف تک بالوں کی دھاری تھی، جو ناف کو گلے سے ملائی تھی۔ ان کے علاوہ آپ کے سینہ اقدس یا شکم مبارک پر اور کسی جگہ بال نہیں تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ اور انگشت ہائے مبارک لمبی تھیں، گویا وہ چاندی کی ڈلیاں ہیں۔ ہتھیلیاں ریشم

لے (ترجمہ) اسے میری دونوں آنکھوں! مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے فراق میں بہنے والے آنسوؤں کے ساتھ میری مدد کر کیونکہ وہ قبیلہ بنی ہاشم کے چاند تھے۔

- اُس مصطفیٰ پر جو بھلائی، انصاف اور پرہیزگاری کی حدود کو دین اور دنیا کے لیے قائم کرنے والے تھے۔
- اُس صادق اور بابرکت پر جو تحمل والا، عقلمند، صاحبِ فضل و کرم اور بہتر ہمدردی کی طرف بلائے والا ہے۔

سے زیادہ نرم اور ملائم تھیں، جن کی مہک کو دیکھ کر یہی گمان گزرتا تھا کہ شاید کسی عطار کی پھیلیاں ہیں آپ خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، ہر حالت میں یہ اسی طرح عطر بیزی اور عطر ریزی کا کام کرتی رہتی تھیں۔ اگر کوئی شخص مصافحہ کرتا تو اس کے ہاتھ بھی خوشبودار ہو جاتے۔ اگر آپ کسی بچے کے سر پر دستِ شفقت پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو کے باعث دوسرے بچوں سے پہچانا جاتا۔


ازار سے نیچے آپ کی رانیں اور پنڈلیاں مبارک بھی خوب صورت اور معتدل تھیں۔ آپ آگے کی جانب ذرا سا جھک کر چلا کرتے تھے، جیسے اونچی جگہ سے نشیبی جگہ کی جانب اترنے کی حالت ہو ا کرتی ہے۔ آرام سے چلتے اور اس میں متکبرانہ انداز کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اور آرام سے اٹھاتے۔ جب کسی نیک کام کے لیے جانا ہوتا تو جلدی فرماتے اور سب لوگوں سے آگے چلتے اور جن مواقع پر ایسی کوئی جلدی نہ ہوتی تو لوگوں کے پیچھے چلتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ باقی لوگوں سے مجھے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خلق اور پیدائش میں میرے مشابہ ہیں اس حصے کی نقل ہے جس کا میں نے حافظ ابوالنعمان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف دلائل النبوة سے انتخاب کیا تھا۔ وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِہٖ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

امام کبیر و صدق مشاہیر قاضی ابوالحسن ماوردی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے

فرمودات گرامی



اخلاق و فضائل

قاضی ابوالحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۴۵۰ھ) نے اپنی تصنیف

لطیف اعلام النبوة کے بیسویں باب کو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقی شرف اور فضائل کمالیہ کے بیان کی خاطر وضع فرمایا ہے کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے آپ سب سے شرف والے ہیں اور آپ کے افعال سب سے حسین و جمیل ہیں۔ بلحاظ اعلیٰ مراتب اور افضل اعمال کے اس کائنات کے گوہر یک و انہ آپ ہیں، کیونکہ اصول و قوانین ہمیشہ اپنی مناسبت کی جانب رجوع ہوتے اور مخالف سمت سے نفرت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس دنیا میں نبوت سے اوپر اور کوئی منصب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان نبوت ہی سفارتی تعلقات کا ذریعہ ہے۔

تبعث علی مصالح الخلق و طاعة مخلوق کی بھلائی اور نجات کی اطاعت کیلئے

الخالق فكان افضل الخلق بها نبی کو مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ پس جو ساری

مخلوق سے افضل ہو وہی اس کے لیے

مختص کیا جاتا تھا۔

نبی اپنے معاصرین سے اعلیٰ اور کامل اوصاف کے لائق ہو گا اور اس کا ثبوت پیش کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو فضیلت میں کسی طرح بھی آپ کا ہم پلہ ہو اور نہ کوئی ایسا شخص ہی تھا جو اخلاقی و تخلیقی صفات میں یا اقوال و افعال کے کمالات میں آپ سے نزدیک ہو۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں آپ کی یوں توصیف فرمائی ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۖ اذربیشک تمھاری خوبو بڑی شان کی ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے فضائل تو نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتے کیونکہ سنا نہیں گیا کہ کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے انھیں نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہو اور نہ اپنی رسالت کی مقبولیت میں ان

پراعتقاد کیا ہے کیونکہ ان میں کبھی غیر نبی بھی شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی جب خرقِ عادت امر (معجزہ) ظاہر کرے پھر ان سے ممتاز شخصیت ثابت ہوتا ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ ہی دلیلِ نبوت ہے نہ کہ دیگر فضائل و اوصاف۔

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ فضیلتِ نبوت کی متاع اور نشانیوں سے ہے اگرچہ اُس کے معجزات میں شمار نہیں، حالانکہ فضیلت میں کمال درجے کو پہنچنا انتہائی کٹھن مرحلہ ہے اور مرتبہ کمال تک پہنچنا بھی معجزے کی مانند ہے۔ دوسرے انداز سے دیکھیے تو جھوٹ سے بچنا کمالِ فضیلت ہے اور جو شخص دعویٰ نبوت ہی میں جھوٹا ہو وہاں فضیلت کیسی اور کمال کہاں؟ لہذا کمالِ فضلِ صدق کا موجب ہوا اور صدقِ کلام کی مقبولیت کا باعث اور موجب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء و مرسلین کے لیے فضیلت میں کمال رکھنا، اُن کی نبوت و رسالت کی دلیل بن سکتا ہے۔ جب یہ امر واضح ہو چکا تو جان لینا چاہیے کہ کمالاتِ بشریہ کے معتبر ہونے کی چار وجوہات ہیں، یعنی:

- ۱۔ کمالِ پیدائش
- ۲۔ کمالِ اخلاق
- ۳۔ کلام کے فضائل
- ۴۔ اعمال کے فضائل

پہلی وجہ

اعتدالِ صورت کے بعد آپ کے اخلاقِ عالیہ کا کمال درجہ چار اوصاف کے

لمحاط سے ہے:

اول وقار و طمانیت، جو ہیبت اور تعظیم کا سبب بنتی اور تقدیم و تسلیم کی جانب بلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی ہیبت تھی، یہاں تک کہ کسریٰ کے قاصد جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اُن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، حالانکہ ایران کے بادشاہوں کی سطوت و دبدبہ اور ظلم و تشدد کے باوجود اُن سے اتنے خائف نہ تھے لیکن آپ کی ہیبت اُن کے دلوں اور دماغوں پر مسلط ہو جاتی اور اُن کی نگاہوں میں آپ کی عظمت سما جاتی تھی، حالانکہ آپ نے کبھی شاہانہ عظمت دکھانے کا تکلف نہیں فرمایا تھا اور نہ کبھی اس انداز سے فخر کیا جس سے سطوت و دبدبہ کی نمائش مترشح ہوتی کیونکہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو واضح کی صفت

مُتَّصِف اور اس وصف میں شہرہ آفاق تھے۔

خندہ پیشانی، جو اخلاص و محبت کی موجب اور مودت و خلوص کا باعث ہے۔ رسولِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں محبوب تھے کیونکہ خندہ پیشانی کے سبب دلوں میں آپ کی محبت مستحکم ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں اکثر حاضر رہنے والے حضرات بھی کبھی ناراض نہ ہو سکے اور جو آپ کے قریب تھا وہ کبھی دُور نہ ہوا۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب اُسی طرح محبوب تھے جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے عزیز ہوتے ہیں یا ایک پیاسے کو جس طرح ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، ان سے بدرجہا محبوب تھے۔

حُسنِ قبول، جو دلوں کو آپ کی جانب مائل کرتا تھا۔ اسی لیے لوگ آپ کی اطاعت گزاری میں سُم تیزی دکھاتے اور موافقت پر تِلے رہتے تھے۔ آپ اُن میں اس درجہ مقبول تھے کہ دلوں کو حیات رکھاتا تھا۔ اسی لیے قلوب میں آپ کی مصاحبت اور محبت کے جذبات مضبوط و مستحکم ہو گئے تھے۔ یہاں تک مخالف بھی آپ سے بھاگتا نہ تھا اور نہ دُور ہونے والا آپ سے متوجش ہوتا، ہاں جو بدبختی کے باعث حسد کی آگ میں جلنا پسند کرتا یا محرومی کی بدولت آپ کی مخالفت پر کمر بستہ رہتا، اُس کا معاملہ ہی اور ہے۔

آپ کی اطاعت گزاری کی جانب دلوں کا میلان اور لوگوں کا آپ کی موافقت کے لیے چہارم ایسا اطاعت شعار بن جانا کہ خواہ وہ ظلم و ستم کی چکی میں خوب پیسے جاتے لیکن اُن کے پائے ثبات میں لغزش نہ آتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلوصِ دل سے حلقہ بگوش ہونے والا کوئی آپ سے جُدا نہ ہوا اور خواص میں سے کسی نے دُوری گوارا نہ کی۔ یہ چاروں اوصاف سعادت کی طرف بلانے اور قوانین رسالت ہیں۔ یہ اوصاف نبیِ آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مکمل طور پر پائے جاتے تھے اور آپ اُن اخلاق و صفات میں بھی کامل تھے جو ان کے موازی شمار ہوتے ہیں اور اُن کے مقتضی کے آپ پوری طرح مستحق تھے۔ صَلَوَاتُ اللہِ تَعَالٰی وَسَلَامُہُ عَلَیْہِ۔

دوسری وجہ

دوسری وجہ آپ کے اخلاقی کمال سے متعلق ہے اور یہ چھ اوصاف۔ و

خصائل پر مشتمل ہے،

یہ عقل مصطفیٰ کے بارے میں ہے کہ آپ کا ذہنی رجحان اور خیالات صحیح اور پہلی خصلت فراست بنی برصداقت تھی۔ فہم و فراست کے وفور و کمال پر آپ کی اصابت رائے، حسن تدبیر اور احسن تالیف دلالت کرتی ہیں۔ آپ نے تدبیر میں کبھی غفلت اور سختی میں عجز کو قطعاً اختیار نہیں فرمایا بلکہ شروع ہی میں انجام تک غور فرما لیتے اور ان کے عیوب و نقائص کو معلوم کر کے مشکلات پر قابو پانے کی تدبیر اختیار کرتے اور انھیں حل کر کے چھوڑتے۔ یہ بات فہم کی درستی اور یقین کی پختگی کے بغیر کہاں حاصل ہوتی ہے؟

دوسری خصلت جنگوں اور تکالیف شدیدہ کے مواقع پر صبر و سکون کا پایا جانا انتہائی حیران کن ہے لیکن قربان جایش حبیب پروردگار (جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے حوصلے پر کہ با و مخالف کی ایسی تندہی و تیزی کے وقت بھی آپ کو مطمئن ہی دیکھا گیا۔ کسی بڑی سے بڑی تکلیف نے آپ کے اوسان خطا نہ کیے اور کسی مصیبت سے آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ اگر ایک جانب سے مصائب و آلام کے بادل گھر کر آتے تھے تو ادھر آپ کو اتنی قدرت حاصل تھی کہ خندہ پیشانی کے ساتھ تمام اندھیروں کو چھانٹ کر رکھ دیتے تھے۔ قریش مکہ نے آپ کو ایسے ایسے شائد و تکالیف میں مبتلا کیا جو پیشانیوں کو سفید کر دینے والی اور قلعوں کو ڈھانے والی تھیں لیکن آپ عدوی ضعف کے باعث صبر کرتے اور سب کچھ اس طرح برداشت کرتے رہے جیسے غالب آنے والا مطمئن رہتا ہے۔

حماد بن سلمہ نے ثابت سے اور انھوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا لیکن نہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی تو اس کی پاداش میں مجھے اتنی تکالیف پہنچائی گئیں جتنی کسی دوسرے کو نہیں پہنچائی گئیں۔ ایسے بھی وقت آئے کہ ایک مرتبہ تین شب و روز گزر گئے لیکن ہمارے پاس صرف وہی طعام تھا، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغل کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔

حضرت عبدالرحمن بن زید نے اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی سیر ہو کر متواتر دو دن جو کی روٹیاں بھی نہیں کھائی تھیں اور تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک اُن کی یہی حالت رہی۔ جائے غور ہے کہ جو ہستی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے عوض اتنی تکالیف اٹھائے اور صبر کرے، اُس پر کسی دنیاوی منفعت چاہنے کا تصور کرنا بھی حماقت ہے یا نہیں؟

تیسری خصلت فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زہد یعنی دنیا سے اعراض کرنا اور معمولی سی چیز پر قناعت کرنا ہے۔ آپ نے دنیاوی عیش و عشرت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا اور نہ اُس کی رنگارنگی کو ترک کرنے کا کبھی افسوس ہی فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری نے حبیب بن ابی ثابت سے اور انھوں نے غوثِ بن عبد الرحمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس قدر دنیا کے خزانے چاہیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئے ہوں اور نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کو دیئے جائیں اور آپ کے ثوابِ آخرت میں بھی کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو، تو آپ کی خواہش پوری کر دی جائیگی۔ آپ نے یہی جواب دیا کہ وہ خزانے بھی میری آخرت ہی کے لیے ذخیرہ کر دیئے جائیں۔ اس پر یہ آئیہ مبارکہ نازل ہوئی:

تَبَادَلَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ
لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتِ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝ ۱۰
بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے
لیے بہت بہتر اس سے کر دے، جنتیں جن کے
نیچے نہریں بہیں اور کرے گا تمہارے لیے
اوپنے اوپنے محل۔

ہلال بن ابی خباب نے عکرمہ سے انھوں نے عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اُس وقت

کونین کے تاجدار، حبیب پروردگار (جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) چٹائی پر تشریف فرما تھے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹائے کائنات کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اگر آپ نرم بستر استعمال فرمایا کریں تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کونین کے تاجدار، احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے دنیا سے کیا سروکار؟ میرا دنیا سے کیا تعلق؟ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میری مثال جنگل میں سفر کرنے والے اُس مسافر سوار جیسی ہے جو گرمیوں میں دوپہر کے وقت کسی درخت کے سایے میں آرام کرنے لگے اور دن ڈھلتے ہی اُسے چھوڑ کر چل دے۔

حضرت حمید بن بلال بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے سامنے ایک موٹا کبل اور ایک موٹی سی چادر نکالی اور فرمایا: ان دونوں کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا حالانکہ اُس وقت حالت یہ تھی کہ حجاز مقدس کے آخری کنارے سے عراق کی آخری حد تک اور یمن کی پرے والی سرحد سے عمان کے سمندر تک کے آپ مالک و مختار تھے، لیکن آپ دنیا کمانے اور ذخیرہ کرنے میں سب سے بڑے زاہد اور دنیوی منفعت حاصل کرنے میں تمام انسانوں سے زیادہ اعراض فرمانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ پیچھے مال چھوڑا نہ قرضہ، نہ نہر کھدوائی نہ مکان بنوایا اور نہ اپنے بیوی بچوں کو کسی قسم کے دنیاوی مال و متاع کا وارث قرار دیا۔ اس سے بھی مقصود تھا کہ جس طرح آپ نے زہد کو اختیار فرمایا اور دنیا کی جانب رغبت کرتے سے اپنی ذات کو روک رکھا، اسی طرح اہل بیت اطہار بھی منزل دنیا میں صرف آپ ہی کے نقوش قدم پر گامزن رہیں اور دنیا سے حتی الامکان کنارہ کشی فرمائیں۔

اے مولانا اختر الحامدی مدظلہ نے یہ نقشہ یوں پیش کیا ہے:

بستر چٹائی، دوش پہ کبل، غنڈا کھجور

اے تاجدار! یہ تری شانِ گدا پسند

ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد محترم کی وراثت کا مطالبہ کیا تو انھوں نے ایسا مطالبہ کرنے سے منع کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: اچھا آپ کا وارث کون ہوگا؟ جواب دیا: میری اولاد اور بیوی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ یہ معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کیوں انکی وارث نہیں ہو سکتی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے پس جن کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھالت فرماتے تھے ان کی کفالت اب میرے ذمے ہے جس پر ہمارے آقا خرچ کرتے تھے ان پر اب میں خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں زہد اختیار کرنے اور اس کی زیب و زینت سے اعراض کرنے کی جانب رغبت دلائی ہے تاکہ لوگ دنیا کے نقصانات سے محفوظ رہیں اور اسی لیے دنیوی خواہشات سے روکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہد کی فضیلت میں اور خلفائے راشدین کی اقتدا کرنے کے متعلق حدیث بیان کر کے مذکورہ بالا وضاحت فرمائی تھی۔

چوتھی خصلت لوگوں سے آپ کا تواضع کے ساتھ پیش آنا حالانکہ وہ آپ کے مصلح تھے اور ان سے مشفقانہ سلوک کرنا حالانکہ وہ آپ کی پیروی کرتے تھے۔ آپ بازار میں تشریف لے جاتے تو مٹی پر بھی بیٹھ جاتے۔ اپنے اصحاب اور اہل مجلس سے گھل مل کر رہتے۔ حیا کے سبب نظریں نیچی رکھنے کے باعث پہچانے جاتے تھے۔ تواضع کے سبب ممتاز اور عاجزی کے باعث باوقار تھے۔ آپ کے پاس جب کوئی دیہاتی آتا تو مارے خوف اور ہیبت کے کانپنے لگتا۔ آپ فرماتے: اطمینان رکھو، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ مکرمہ میں سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ تھا آپ کا شرف والا اخلاق اور یہ تھیں آپ کی حسین عادتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فطرت میں داخل تھیں۔ سیرت مصطفیٰ میں یہ باتیں نادر نہ تھیں کہ انھیں شمار کیا جائے اور اتنی کم نہ تھیں جن کا احاطہ کیا جاسکے۔

پانچویں خصلت مشتعل ہر دینے والے امور کے مواقع پر بردباری اور وقار سے کام لینا۔

سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت ہر عقلمند سے بڑھ کر ثابت قدم اور جھگڑوں کے مواقع پر ہر عقل سلیم رکھنے والے سے زیادہ راہِ راست پر رہتے۔ بدووں والی سنگدلی کا آپ کی سیرت مقدسہ پر نام و نشان بھی نہیں تھا اور نہ کسی نے یہ نقل کیا کہ جلد بازی آپ کے قریب بھی پھٹکنے پائی ہو۔ آپ کے سوا کوئی حلیم ایسا نہیں جو پھسلانہ ہو اور کوئی باوقار ایسا نہیں جس سے لغزش صادر نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواہشات کی حرکت اور خفت والی لغزش سے اپنی قدرتِ کاملہ کے ذریعے محفوظ فرمایا تھا تاکہ اپنی اُمت پر رحیم اور مخلوق پر مہربان رہیں۔ قریش نے آپ پر طرح طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے لیکن آپ نے مظالم کے مقابلے میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اُن کی ذات سے اعراض فرماتے رہے۔ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک صرف بے وقوف اور کینے لوگ ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ جو بڑے عقلمند شمار ہوتے تھے انھوں نے بھی ذلیل انسانوں کی طرح آپ کی ذات پر حملے کیے۔ وہ آپ پر زیادتی کرتے لیکن آپ اُن سے ملنے کی کوشش کرتے اور درگزر فرماتے رہتے۔ جب آپ مخالفوں پر غالب آئے تو انھیں معاف فرمادیا اور قدرتِ پانے پر انھیں بخش دیا۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو کامیابی حاصل کر لینے کے باوجود دشمنوں کو معاف فرمادیا۔ وہ سارے کے سارے آپ کے حضور کھڑے تھے، پوچھا: تم مجھ سے کیسے سلوک کا گمان رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ آپ احسان فرمانے والے باپ کے احسان فرمانے والے بیٹے ہیں، ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ ہمیں معاف فرمادیں گے اور اگر آپ انتقام لیں تو ایسا کرنا زیادتی نہیں کیونکہ خطا کار ہونے کے سبب ہم اسی لائق ہیں۔ یہ سن کر اُس رحمتِ مجسم نے فرمایا: میں وہی کتنا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْنَا الْيَوْمَ طَٰلِعَفْرًا اَ جَ تَمَّ بِرَ كِبْجَ مَلَامَتِ نَحْنِیْ۔ اللہ تمہیں معاف کرے

اللہ لکھو ط وہو ارحم الراحمین۔ اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی: اے پروردگار عالم! اس سے پہلے تو نے قریش پر عذاب بھیجا تھا، اب انھیں اپنے انعامات سے مالا مال فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہندرت عتبہ حاضر ہوئی آپ نے اُس کے افعال سے درگزر کرتے ہوئے بیعت فرمایا، حالانکہ اُس نے آپ کے علم محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم مبارک چیر کر آپ کا کلیجہ نکالا اور چبایا تھا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کو کھڑا کر کے ایک ہی دن میں سات سو افراد کی گردنیں کٹوا دی تھیں، وہاں عفو و درگزر سے کام کیوں نہ لیا؟ وہاں آپ نے اُس شخص کی طرح انتقام لیا جس کے نزدیک سے بھی مہربانی کا گزر نہ ہوا ہو اور آپ کا دل اُن پر ذرا نہ پیجا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کے ساتھ یہ سلوک اللہ کے سلسلے میں کیا تھا نیز بنی قریظہ خود ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحکیم (ثالثی) پر رضا مند ہوئے تھے اور یہ فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سنایا تھا کہ بنی قریظہ کے ہر بالغ کو قتل کر دیا جائے اور نابالغوں کو غلام بنا کر رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کا آسمانی فیصلہ بھی یہی ہے۔ پس جو اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا آپ کے لیے اُسے تبدیل کرنا کب جائز تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درگزر کرنا صرف اُن امور سے متعلق تھا جن کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہوتا تھا۔

چھٹی حصلت آپ عہد کی حفاظت اور وعدے کا ایفاء فرماتے تھے۔ آپ نے عہد کا پاس لحاظ کرنے والے کے ساتھ کبھی عہد نہیں توڑا اور نہ کبھی وعدے کا خلاف کیا کیونکہ وعدہ خلافی کرنا آپ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ تھا اور وعدے کی خلاف ورزی کو بُری عادتوں میں شمار فرماتے تھے۔ عہد کی حفاظت اور وعدے کو وفا کرنے کے معاملے میں آپ سختی کا التزام فرماتے اور عہد کو قائم رکھنے کی خاطر سخت مشکلات کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم فرمایا کرتے تھے اور اس طرح ہر صورت میں وعدے پر قائم رہتے تھے۔ ہاں جب معاہدہ کرنے والا دوسرا فریق ہی عہد توڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر راستہ نکال دیا کرتا تھا جیسے بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودیوں نے کیا اور جس کا مظاہرہ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ نے کیا، تو پروردگارِ عالم نے اُن کی عہد شکنی کے باوجود اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بہتری کا پہلو نکال دیا۔ یہ چھ

خصائل ہیں جو آپ کے اخلاقِ عالیہ میں کامل طور پر موجود تھے اور جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پر آپ کو فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔

تیسری وجہ

یہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائلِ اقوال میں ہے۔ یہ آٹھ خصلتوں کے باعث معتبر ہے، جو یہ ہیں:

آپ کو حکمت بالغہ اور بڑے بڑے علوم مرحمت فرمائے گئے حالانکہ آپ اس خصلتِ اول اُمت کے اُمتی نبی ہیں کیونکہ نہ کسی سے کوئی کتاب پڑھی نہ کوئی علم ہی کسی سے سیکھا اور نہ کسی کے سامنے زانوئے تلمذ ہی تہہ کرنے کی نوبت آئی، اس کے باوجود آپ سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس سے عقلیں حیران اور انسانی فہم و ذکا کو اپنی نارسائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ آپ سے اقوال و افعال میں کبھی لغزش صادر نہیں ہوئی۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعتِ مطہرہ کا دار و مدار چار احادیث پر رکھا، جن سے مقصد حاصل اور اجتہاد کی جڑیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے:

اتَّبِعُوا أَعْمَالًا بِالنِّيَّاتِ وَأَنْتُمْ بَعْدَ شُكِّ أَعْمَالِكُمْ دَارُودَ رِئِيسَ بَرٍّ وَنَجِيٍّ
لِكُلِّ أَمْرٍ مَا تَوَى - (ص ۹۷) کے لیے وہی ہے جو اُس نے کمایا۔

اسی سلسلے کی دوسری حدیث یہ ہے:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ حَلَالٍ وَاضِحٌ هُوَ أَوْ حَرَامٌ وَاضِحٌ هُوَ لَيْكِنْ إِنْ كُنْتَ
وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ دَرَمِيَانٌ لِبَعْضِ أُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ هِيَ - يَوْ شَخْصٍ يَرَاكَ
وَمِنْ يَحْمِلُ حَوْكَ الْحَمَى يَوْ شَكَّ أَرْدُورٍ يَرَاتُ هُوَ، خَطَرُهُ هُوَ كَيْفَ رَوْزُهُ أَوْ
إِنْ يَقَعُ فِيهِ - (ص ۹۷) میں داخل ہو جائے۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں تیسرا فرمان یہ ہے:

مَنْ حَسَنَ اسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا النَّاسُ كَالْأُجْحَا اسْلَامُ رَأْسِ بَاتٍ سَمَّ ظَاهِرٌ هُوَ
لَا يَعْنِيهِ - (ص ۹۷) جب وہ غیر مقصود کو ترک کر دے۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چوتھا بنیادی ارشادِ گرامی یہ ہے:

دع ما یریدک الا ما لا یریدک۔ جو بات شک و شبہ میں ڈالے اُسے چھوڑ دو

(ص ۹۷) اور اُسے اختیار کرو جس میں شبہ نہ ہو۔

سرورِ عالم کی جلوہ گری سے پہلے حکمائے فلاسفہ نے کچھ اصول وضع کیے تھے اور لوگوں کو اُن پر عمل کرنے کے لیے ابھارتے تھے لیکن وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ دُنیا والوں کی اصلاح دین کے بغیر ممکن نہیں۔ اصلاح کا صرف یہی طریقہ ہے کہ لوگ سچے دین کے تابع ہو کر اُس کے مطابق عمل کریں کیونکہ فلاسفہ کا نہ تو صحیح معنوں میں اثر ہوا اور نہ اُن کی خبریں واضح اور اطمینان بخش تھیں حالانکہ لوگ اُنہیں حکمتوں کے سرچشمے اور قوموں میں ممتاز شمار کرتے تھے۔ ایسی فطرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پائی گئی، جو جوہر کی صفائی اور سچا تجربہ ہونے کے باعث ہے۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصلت دوم کے بارے میں قاضی ابوالحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ یوں رقمطراز ہیں:

حفظہ لما اطلعہ اللہ علیہ آپ کا اُن سب باتوں کو یاد رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے

من قصص الانبیاء مع الادم آپ کو گزشتہ انبیائے کرام کے اُن کی اُمتوں سمیت

ہواخبار العالم فی الزمن واقعات و حالات پر مطلع فرمایا جو پہلے زمانوں کے متعلق

الاتم حتی لم یعزب دنیا بھر کی خبریں ہیں یہاں تک کہ آپ سے کوئی چھوٹی

عنه منها صغیر ولا کبیر بڑی چیز پوشیدہ نہ رہی اور نہ کوئی قلیل یا کثیر چیز آپ سے

ولاشذ عنہ منها قلیل و دور رہی حالانکہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

لا کثیر و هو صلی اللہ وسلم نے اُن حالات کو کسی کتاب سے ذہن نشین

علیہ وسلم لا یضبطہا بکتا نہیں کیا، جسے آپ پڑھتے ہوں اور نہ اُنہیں

یدرسہ ولا یحفظہا بعین آنکھوں سے دیکھ کر صفحہ یادداشت پر محفوظ

تحرسہ وما ذاک الا من کیا تھا۔ آپ کی علمی وسعت تو ذہن صحیح، سینہ

ذهن صحیح و صدر وسیع اور قلب شریح کی بدولت

فسیم و قلب شریح و ہذہ ہے اور یہی تو وہ تینوں آلات ہیں

الشاذة الة ما استودع من جن کے سپرد رسالت کی جاتی ہے اور ان کے ذریعے
الرسالة وحمل من اعباء ہی نبوت کا بار گراں اٹھایا جاتا ہے۔ پس آپ ہی
النسبة فحیدیران یسکون اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ مبعوث ہوئے
بہا مبعوثا و علی لقیام بہما محتوثا۔^{دیکھئے} اور انہیں قائم رکھنے پر آپ کو ابھارا گیا۔

خصلت سوم آپ کا شریعتِ مطہرہ کو ظاہر دلائل کے ساتھ مضبوط کرنا اور واضح علل کے
ساتھ بیان فرمانا یہاں تک کہ کوئی ایسی بات نہ چھوڑنا جسے عقل انسانی معقول
نہ قرار دے اور نہ اس میں کوئی ایسی چیز داخل کی جائے جسے عقل رد کرتی ہو۔ اسی لیے خیر و علم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوامع الکلم یعنی حکمت آمیز جامع کلمات دیا گیا ہوں اور
حکمت میرے لیے مختصر فرمادی گئی ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند لفظوں کے
ساتھ کثیر حقائق سے مطلع فرمادیا کرتے تھے۔ آپ کلام کو طول دینے سے احتراز فرماتے۔ کوئی مجہول
امر آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جسے واضح نہ کر دیا ہو۔ ایسا کرنا آپ کے لیے بایں وجہ آسان تھا کہ اس
پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی تھی اور اسی راستے پر آپ کو چلایا گیا تھا۔

خصلت چہارم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا حکم دیا اور مستحسن آداب
کی جانب لوگوں کو بلایا ہے۔ صلہ رحمی پر ابھارا، ضعیفوں اور یتیموں پر
مہربانی کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے سے حسد کرنے اور بغض رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسرے
سے تعلقات منقطع کر لینے اور دور ہو جانے سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے
سے تعلق منقطع نہ کرو، نہ کسی سے منہ پھیرو، نہ کسی سے بغض و عداوت رکھو، اللہ کے بند و آپس
میں بھائی بھائی بن جاؤ تاکہ اس طرح تمہاری فضیلت کے آسمان میں چار چاند لگ جائیں اور
آپس میں اچھے اخلاق کی خوب نشر و اشاعت ہو جائے اور مستحسن آداب کثرت سے ظاہر
ہونے لگیں اور تمہارے اندر بھلائی کی جانب دوڑنے والی سپرٹ پیدا ہو جائے اور تمہارا ضمیر
تمہیں بُرے کاموں سے بالکل منع کرنے لگے اور تم پر اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد گرامی پوری طرح
صادق آتا ہے کہ:

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ لَہ کرتے ہو۔

پس اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور جن کاموں سے منع فرمایا گیا تھا اُن سے بچے۔ ایسے لوگوں کی اُن کے افعال و کردار کے باعث دین و دنیا کی بہتری کمال کو پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسوں کے ذریعے کمزوری کے بعد اسلام پھر غالب آ جاتا ہے اور شرک اپنے غلبے کے بعد پھر ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایسے نیکو کار درجہ امامت پر فائز ہوتے ہیں اور وہ بہترین قائد ہوتے ہیں۔

اگر آپ سے کچھ پوچھا جاتا تو جواب واضح اور اطمینان بخش ہوتا۔ جب کوئی آپ سے **حاصلتِ نجم** جھگڑتا تو حجِ قاہرہ اور دلائلِ باہرہ سے آپ مخالف پر غالب آتے۔ عجز کبھی آپ کے راستے میں حائل نہ ہوتا اور کوئی آپ کے دعوے کو رد کرنے پر قادر نہ ہوتا اور کوئی مد مقابل بننے والا آپ سے معارضہ نہ کر سکا کیونکہ دلائل و براہین کے ساتھ غالب آپ ہی رہتے اور مخالف بغلیں جھانکتے رہ جاتے۔

ابنِ جمحی قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ ہڈی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اُسے اپنے ہاتھ سے مسل کر رکھ کی طرح باریک کر کے کٹنے لگا: اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کا یہ گمان ہے کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گے اس کے باوجود پھر زندہ کیے جائیں گے۔ آپ کا یہ دعویٰ بڑا ہی حیران کن ہے حالانکہ ایسی بات کسی اور شخص سے ہم نے قطعاً نہیں سنی۔ بھلا بوسیدہ ہونے کے بعد یہ ہڈیاں کس طرح زندہ ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغامبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بُرہانِ نبوت کے ساتھ جواب سکھایا اور آپ کو یوں جواب دینے کا حکم ملا:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ ۖ تَم فَرَأَوْا، اُنْهَيْ وَہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار مَرَّةً ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ اُنْهَيْ بنایا اور اُسے ہر پیدا ئش کا علم ہے۔

مہسوت ہو کر واپس لوٹ گیا کیونکہ اس دعوت کو رد کرنے والی اسے کوئی دلیل نہیں سوجھتی تھی۔ اسی طرح جب ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا اور بد فاقی کوئی چیز نہیں ایک شخص کہنے لگا: ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کے ہونٹ پر معمولی سی خارش ہو جائے تو یہ بیماری سارے اونٹوں میں پھیل جاتی ہے۔ یہ سُن کر آپ نے جواباً فرمایا، اچھا پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا تھا؟ سائل خاموش ہو گیا۔

نصبت ششم کلام میں تضاد اور خبریں استرسال سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کو محفوظ رکھا تھا کیونکہ استرسال جھوٹ کے نزدیک اور سچائی سے دور ہوتا ہے۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بچپن ہی سے صدق میں مشہور تھے یہاں تک کہ صادق اور امین جیسے القاب سے مخاطب کیے جاتے تھے۔ ظہورِ اسلام سے پہلے قریش کا آپ کے پتے ہونے پر پورا یقین تھا، لیکن جب آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی تو تکذیب کرنے لگے۔ بعض حسد کے باعث اور بعض نے معاندانہ رویے کے ساتھ تکذیب کی اور کئی ایک نے تو آپ کے نبی اور رسول ہونے کو بعید جان کر تکذیب کا ارتکاب کیا۔ ان حالات میں اگر ان لوگوں کے دائرہ معلومات میں آپ کا کوئی معمولی سا جھوٹ بھی ہوتا تو اُسے تکذیب رسالت کی دلیل ضرور بناتے۔ لیکن جس نے اوائل عمر ہی میں صدق کو اپنے لیے ضروری ٹھہرایا ہو۔ یقیناً بڑی عمر میں تو اُس نے خوب ہی پختگی حاصل کر لی ہوگی۔ علاوہ بریں قابلِ غور کہ جو اپنے معاملات اور اُمت کے بارے میں جھوٹ سے معصوم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کیوں نہ زیادہ معصوم ہوگا۔ یہ نگلیہ منکر و معاند کو دفع کرنے اور ان کے رد میں کافی ہے۔

نصبت ہفتم بوقتِ حاجت آپ کلام کا ارادہ فرماتے اور اُس میں بھی بقدرِ کفایت پر انصاف فرماتے۔ نہ زائد گفتگو کرتے اور نہ بالکل خاموش رہتے، ہاں حاجت و کفایت کے مطابق گفتگو کرنے کے بعد خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا کلام محفوظ رہا اور مختل نہ ہوا، دلکش ٹھہرا کیونکہ کمزوری سے مبرا تھا، سُنے والے اُس کی حلاوت سے لطف اندوز ہوتے، یہی وجہ ہے کہ وہ دلوں اور دماغوں میں گھر کر جا چلا گیا، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے والا لغزش سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور یہودہ باتیں بنانے والا تنگدل ہوئے بغیر

نہیں رہتا۔ ایک اعرابی آپ کے پاس بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اعرابی! تمہاری زبان کے سامنے کتنے پردے ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہنٹ اور دانت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلام کی تیزی اور زیادتی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو خوشی و خرمی سے دوچار رکھتا ہے جو زبان کو تیزی سے روکے اور بقدر حاجت گفتگو پر اکتفا کرے۔

خصلت، مشتم فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ فصیح اللسان تھے۔ اپنے بیان کی خوب وضاحت فرمادیا کرتے تھے۔ کلام میں اختصار، الفاظ میں فصاحت و وضاحت اور مفہوم و معانی میں صحت ملحوظ ہوتی۔ آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا، اور نہ لگی لپٹی بات کی۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ باتیں کرنیوالے مجھے مبغوض ہیں۔ فرمایا: کلام میں تکلف کرنے سے بچو۔ جب آپ پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی،

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ۖ أَنْ يُكَرَّمُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

اور اُن میں اُس کا نام لیا جاتا ہے۔

تو آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھ دی۔ اُس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! جس نے مسجدیں بنائیں وہ کامیاب ہوا۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک کہتے ہو، اے ابن رواحہ! پھر عرض گزار ہوئے: وہ لوگ جو نمازیں پڑھیں کبھی قیام میں جا کر اور کبھی قعدے میں۔ فرمایا، اے ابن رواحہ! ٹھیک کہتے ہو۔ پھر عرض کرنے لگے: ہیں رات نہیں گزارتا مگر سجدے کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ! یہ کیسی تک بندی ہے؟ ایسی باتوں سے خود کو روکو۔ زبان کی فراخی سے زیادہ بُری چیز انسان کو اور کوئی نہیں دی گئی۔ ایجاز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں مثلاً:

۱۔ الناس بزمانهم اشبه
لوگ اپنے زمانے والوں کی طرح ہوتے ہیں۔

- ۲۔ ماہدک امرء عرف قدرہ
 ۳۔ لو تکاشفتم ماتدا فنتم
 ۴۔ السعید من وعظ لغيره
 ۵۔ العاقل الوف مألوف
 ۶۔ حبك الشئ یعی ویصم
 ۷۔ العدة عطية
 ۸۔ اللہم انی اعوذ بك من طمع
 یہدی الی طمع
 ۹۔ افضل الصدقہ جہد المقل
 ۱۰۔ الید العلیا خیر من الید السفلی
 ۱۱۔ ترك الشر صدقة
 ۱۲۔ الخیر کثیر وقلیل فاعله
 ۱۳۔ الناس کمعادن الذهب والفضة
 ۱۴۔ نزلت النعونة علی قدر المونة
 ۱۵۔ اذا اراد الله بعبد خیرا جعل
 له واعظا من نفسه
 ۱۶۔ ادا لامانة الی من ائتمنک ولا
 تخن ما خافک
 ۱۷۔ المؤمن غر کریم والقابیر
 خب لئیم
- جس نے اپنی قدر پہچانی وہ ہلاک نہیں ہوتا۔
 اگر قبروں کے حالات پر مطلع ہو جاؤ تو مردے دفن کرنے
 چھوڑ دو گے۔
 نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔
 عقلمند آدمی محبوب ہوتا ہے۔
 کسی چیز کی محبت اندھا بہرہ کر دیتی ہے۔
 تیاری عطیہ ہے۔
 اے اللہ! میں طمع سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفس
 کی جانب لے جاتی ہے۔
 بہترین صدقہ غریب کی کوشش ہے۔
 اوپر والا ہاتھ (دینے والا) نیچے والے ہاتھ (لینے والے)
 سے بہتر ہے۔
 بُرائی کو چھوڑنا صدقہ ہے۔
 بھلائی تو بہت ہے لیکن بھلا کرنے والے کم ہیں۔
 لوگ سونے چاندی کی کاٹوں کے مانند ہیں۔
 مشقت کے مطابق اعانت نازل ہوئی ہے۔
 جب کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ
 کرتا ہے تو اس کے نفس کے لیے اُسے نصیحت کر نیوالا
 بنا دیتا ہے۔
 جو تجھے امین بنائے اُس کی امانت ادا کر دے جو تیرے
 ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔
 مومن نیک اور کریم ہوتا ہے، فاجر دھوکہ باز اور لئیم
 ہوتا ہے۔

۱۸۔ الدنيا سجن المؤمن وبلاؤه و دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور مقام مصیبت ہے لیکن
جنة الكافر ورضاؤه۔ کافر کے لیے جنت اور پسندیدہ جگہ ہے۔

اب سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا کلام ملاحظہ فرمایا جس کی فصاحت و بلاغت
میں کلام نہیں۔

۱۹۔ ایاکم والمشاراة فانہا تمیت العزّة وتحيى الغرّة۔
جھگڑے سے بچو کیونکہ یہ عزّت کو تباہ کر دیتا ہے اور غفلت کو تازہ کرتا ہے۔

۲۰۔ لا تزال امتی بغير مال ترا لامة مغنما والصدقة مغرمًا۔
میری امت کا حال اُس وقت تک درست رہے گا جب تک امانت کو مالی غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھا جائیگا۔

۲۱۔ رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم۔
اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اچھی بات کہنے کو غنیمت جانے یا خاموشی اختیار کر کے سلامت رہے۔

۲۲۔ اللهم اتني اعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع هل يتوقع احدكم الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرا مافندا او والد جال فهو شر غائب ينتظر او الساعة في الساعة ادھی و امر۔ (ص ۹۹)

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے دل سے جو (خدا سے) نہ ڈرے، ایسی آنکھ سے جو (تیرے خوف سے) آنسو نہ بہائے، کیا تم میں سے کوئی شخص امیری چاہتا ہے جو سرکشی پر ابھارتی ہے یا ایسی فقیری جو (خدا کو) بھلا

والی ہے یا مرض جو (جسم کو) بیکار کرتا ہے یا بڑھاپا جو عقل کو کمزور کر دیتا ہے یا دجال کو جو چھپا ہوا شر ہے۔ انتظا

اُس کا اور قیامت کا ہے جو بہت سخت اور بڑی کڑی ہے۔

فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین ہلاک کرنے والی۔ ان میں سے نجات دینے والی یہ ہیں، (۱) ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا

(۲) امیری ہو یا غریبی، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرنا (۳) رضا مندی ہو یا ناراضگی، ہر حالت میں انصاف کرنا۔ ہلاک کرنے والی باتیں یہ ہیں، (۱) سخیل کی اطاعت۔

(۲) خواہش کی پیروی (۳) خود کو بڑا سمجھنا۔

سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میری چھ باتوں کو قبول کرو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! وہ چھ باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا: (۱) جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے (۲) جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف نہ کرے (۳) جب ایمن بنایا جائے تو خیانت نہ کرے (۴) اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے (۵) شرمگاہ کی حفاظت کرے (۶) ہاتھوں کو روک کر رکھے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعض خطبوں میں فرمایا: خبردار رہو کہ زمانہ لپیٹا جا رہا ہے، عرس فنا ہو رہی ہیں، رات اور دن ڈایکے کی طرح دوڑ رہے ہیں جو ہر بعید کو قریب لا رہے ہیں اور ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو! اس مرورِ زمانہ سے سبق حاصل کر کے خواہشاتِ نفسانی سے بچو اور اُن نیک کاموں کی جانب راغب ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بعض صحابہ سے شرعی امور میں تساہل کا خطرہ نظر آیا تو اپنے ایک خطبے میں فرمایا: اے لوگو! کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیا میں موت صرف دوسروں کے لیے ہے اور حقوق کا ادا کرنا صرف غیروں پر واجب ہے اور جن مردوں کو ہم دفن کر رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس لوٹ آئیں گے؟ جن عزیزوں کو ہم دفن کر چکے، اُن کا مال اس طرح کھا رہے ہیں گویا ہم اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخر عبرت آموز واقعات اور نصیحت آمیز باتوں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آخرت کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کے بجائے دنیاوی راحت و آرام کو کس لیے مطلع نظر بنا لیا جاتا ہے۔ خوشخبری ہو اُس نیک بخت کو جسے فکرِ آخرت نے دنیا سے غافل کر دیا اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کے باعث اُسے دوسروں کی بُرائیاں معلوم کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادِ مبارک: یہ میں فصاحت و بلاغت کے اتنے محیر العقول نمونے موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا اور نہ اُن کی انتہاء کو پہنچا جاسکتا ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ مثنیٰ نمونہ از خردار ہے تاکہ ہر صاحبِ عقل و دانش پر یہ واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام معجز نظامِ بلاغت کی ہر شرط کا جامع ہے اور فصاحت

کے ہر طریقے کو واضح کرنے والا ہے۔ آپ کے کلام کو اگر دوسرے کے کلام میں ملا دیا جائے تو آپ کے ارشاداتِ عالیہ اپنے اسلوب و انداز کے باعث دوسرے کلام سے ممتاز نظر آئیں گے اور بنظرِ غائر دیکھنے سے دوسرے شخص کے کلام کی خامیاں ظاہر ہونے لگیں گی کیونکہ حق و باطل میں اور جھوٹ سچ میں گھل مل نہیں سکتا۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلیغ ارشاداتِ عالیہ کسی محنت یا تکلف کے مرہونِ منت نہیں ہیں کیونکہ آپ کا خطباء، شعراء اور فصحاء سے اختلاط نہیں تھا، بلکہ یہ سارا کمال بھی آپ کی فطرتِ مقدسہ کا ایک حصہ تھا، جس تک کوئی انتہائی کمال کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا کلام جب کمال کی اس حد تک ہے کہ فصاحت و بلاغت میں دوسروں کے کلام سے ممتاز ہے اور کسی کے لیے وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے تو یہ بھی آپ کا معجزہ ہوا۔ اس کا ہماری جانب سے یہی جواب ہے کہ واقعی آپ کا کلام ایسا ہی معجز نظام ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے اور دوسرا کوئی شخص آپ سے یقیناً معارضہ بھی نہیں کر سکتا، دریں حالات واقعی یہ معجزہ ہے اور معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے مقابلے سے دوسرے عاجز ہوں۔

چوتھی وجہ

یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال کے فضائل میں ہے، جس کو اچھے خصاتوں کے تحت پیش کیا جاتا ہے :

آپ کی بہترین سیرت، صحیح سیاست اور دین میں اعلیٰ انتظام، جس کا اجراء پہلی خصلت از سر نو ہوا، یہاں تک کہ خوب مستحکم ہو گیا اور بہترین طریقے پر وضع فرمایا جواب تک جاری ہے۔ اس دین کے باعث آپ نے امت کو ان کی مرغوب و محبوب چیزوں سے ہٹایا اور معروف سے اُنہیں غیر معروف کی جانب لے گئے تو لوگوں نے بخوشی اس دین کو قبول کیا اور خوف و طمع کے باعث آپ کے حلقہٴ بگوش ہو گئے۔ اس قدر استحکام اور احسن انتظام اسی صدمت میں ممکن ہے کہ صائب اور پختہ راستے نیز روشن ارادہ ہو اور اس کے

ساتھ تائیدِ ربانی حاصل ہو۔ دین کی جس بات کا آپ نے اعلان فرمایا اگر اس میں مامور ہیں تو یہی آپ کے لیے حُجَّتِ قاہرہ ہے، لیکن وہ بات اگر اپنے اجتہاد سے فرمائی، تب بھی یہ حقانیت کا واضح نشان ہے آپ کے بیان فرمودہ قواعد کی صحت ہمیشہ مسلمہ رہے گی اور تمہارے لہجے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سلف سے خلف تک سب انہیں تسلیم کرتے آئے ہیں، بلکہ ان میں دین کی حلاوت بڑھتی اور اس کی جدت مضبوط تر ہوتی رہی ہے۔ وہ دین کو ابنائے زمانہ کے لیے ایک نظامِ حیات مانتے ہیں، جس کے حوادث بدلتے اور مالوف مختلف ہوتے رہتے ہیں، جو اس پر قائم رہنے والے کے لیے دلیل اور شک کرنے والے کے لیے واضح بیان ہے۔

دوسری خصلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کرنے والوں اور خوف کھانے والوں کو اپنے پاس جمع ہونے کی جانب راغب کیا۔ یہ دونوں فریق آپ کی نصرت کے لیے اکٹھے ہو گئے اور آپ کے ساتھ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں منہمک ہو گئے کہ دنیا اور آخرت میں دین ہی ان کا مطلق نظر ہو گیا۔ نعمت کے زائل ہونے اور آخرت میں عذاب کے خطرے سے وہ خوف کھاتے تھے، لیکن اطاعت و فرماں برداری میں طباہ مختلف ہیں، جو مذکورہ دونوں فریقوں کے ساتھ قائم ہیں۔ دین صرف ایک فریق کے ذریعے حسنِ نظام کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ دونوں فریق ہی اس کے باقی و جاری رکھنے کے لیے ضروری ہیں اور دونوں کی بھلائی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔

تیسری خصلت فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو نصاریٰ کے غلو اور یہود کی غلطیوں سے پاک صاف اور مبرا رکھا ہے۔

چوتھی خصلت سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیا جیسے کہ یہودی دنیا داری میں ہی غرق ہو کر رہ گئے تھے اور نہ نصاریٰ کی طرح دنیا کو چھوڑ دینے ہی کا درس دیا، بلکہ انھیں راہِ اعتدال پر چلایا کہ دنیا سے بقدرِ ضرورت و کفایت حصّہ ضرور لیں لیکن حاجت سے زیادہ حاصل کرنے کی جانب راغب نہ ہوں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو دنیا کے لیے ترک نہ کرے۔ دونوں سے حصّہ لو، اس میں

بہتری ہے جبکہ صرف ایک کے اختیار کر لینے سے غفل واقع ہو جاتا ہے اور دونوں کا جمع کرنا راہ اعتدال ہے۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا بہتر سواری ہے۔ اسے سواری بنا کر رکھو، یہ تمہیں اس طرح منزل آخرت تک بطریق احسن پہنچا دے گی۔ مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں مصروف رہتا ہے اور طاعت گزاری میں حُسن اور پھرتی دکھاتا ہے۔ دنیا کا تارک محروم اور ضیاع کرنے والا ہے لیکن قابلِ رحم اور مستحقِ رعایت ہے۔ پہلی صورت میں وہ بوجھ اور دوسری میں ذیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض صحابہ کرام نے ایک شخص کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہا: یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جب ہم سوار ہوئے اُس وقت اترنے تک وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتا رہا اور جب ہم کسی جگہ قیام کرتے تو کوچ کرنے تک وہ نماز ہی میں مشغول رہتا۔ آپ نے دریافت فرمایا: اُس کے گھوڑے کے لیے چارہ اور خود اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا تھا؟ اُن اصحاب نے جواب دیا: ہم سب مل کر اُس کے یہ کام کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: تم سب اُس سے بہتر ہو۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علومِ دینیہ اور احکامِ نازلہ کا اہتمام پانچویں خصلت فرمانا، یہاں تک کہ اُمت کے لیے احکامِ تکلیفیہ کو بالکل واضح کر دینا۔ مبہات و محظورات سے اُمت کے لیے حلال اور حرام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا۔ نکاح اور باہمی معاملات کے عہد معاہدوں کو بالکل واضح کر دیا، حتیٰ کہ یہود و نصاریٰ تک معاملات اور میراث وغیرہ کے قواعد و ضوابط میں آپ کی شریعتِ مطہرہ سے اصول و قواعد حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے حالانکہ شریعتِ محمدیہ دوسری کسی بھی شریعت کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے شریعت کے اصول اس طرح مقرر فرمائے جو اُن واقعات و حوادث پر دلالت کرتے ہیں، جن سے دنیا والے بے خبر تھے اور اُن سے وہ احکام نکالے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی علت اور سبب پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین کو حکم دیا کہ یہ احکام اُن لوگوں تک پہنچا دیے جائیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ نے اُمت کو نص کے مرتفع ہو جانے اور التباس کے غلط کر دینے سے مستغنی کر دیا۔

غائب تک پہنچانے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کے انداز کو جان لے اور اُس کے ظاہر سے دلیل پکڑے۔ آپ نے حکم دیا کہ میرے احکام دوسروں تک پہنچانا لیکن میری جانب سے جھوٹی روایت نہ کرنا کیونکہ جن لوگوں تک میرے احکام پہنچاتے جائیں گے اُن میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بیان کرنے والوں سے زیادہ محفوظ کریں گے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاملِ فتنہ سے وہ شخص زیادہ قبیحہ ہوتا ہے جس تک وہ بات پہنچائی جاتے۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعتِ مطہرہ کے امور کو نص کے ساتھ محکم بیان فرمایا اور حاضر و غائب، قریب و بعید سب کے لیے عام حکم رکھا کہ احکامِ شریعت ہر کسی تک پہنچا دیے جائیں اور اس طرح اُمت کے حقوق پورے فرما دیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رہ جائے اور اُمت کے مصالح میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ سارا کام ایک قلیل مدت میں انجام دیا۔ آپ نے کوئی طویل زمانہ نہیں پایا تھا کہ تمام امور کو ہر شخص تک پہنچایا جاسکتا۔ لیکن تھوڑی سی مدت میں اتنا بڑا کارنامہ سرانجام دینا بھی ایک عظیم النظر معجزہ ہے۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمنانِ دین سے جہاد کرنے کے لیے ہمہ وقت چھٹی خصلت تیار رہنا حالانکہ اُنھوں نے ہر چار جانب سے آپ کو گھیر رکھا تھا اور آپ کو پوری طرح نرغے میں لیا ہوا تھا۔ آپ اس وقت بے یار و مددگار تھے صرف چند نفوس ساتھ تھے جو آپ کی برکت سے بڑھتے گئے، کمزور سے طاقت ور اور مغلوب سے غالب ہوئے۔ اپنی طاقت اور شدت کے باعث دشمنوں سے محفوظ رہے اور اُن کے مقابلے میں رعب کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو امور کو بیک وقت حاصل کیا۔ اولاً دین کے پھیلنے اور غالب ہونے تک شب و روز اُس کے اہتمام میں مصروف رہے۔ ثانیاً دشمن پر غالب آنے تک اُن کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ ان دونوں امور میں اس درجہ کامیابی و کامرانی حاصل کر لینا اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔

حبیب پروردگار، احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت بھی ساتویں خصلت حاصل تھی کہ آپ لڑائیوں میں شجاعت اور دلیری کا ایسا مظاہرہ فرماتے جو اپنی مثال آپ ہے نیز دشمن کے مقابلے میں محیر العقول صبر و استقلال اور جرأت و دلیری

دکھاتے حتیٰ کہ میدان کارزار میں گھس جاتے اور وہاں بھی دشمن کے سامنے پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے، یہاں تک فتح و کامرانی سے دوچار ہو جاتے یا بطریق احسن اپنا دفاع کرتے، لیکن نہ کبھی اپنے مقام سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹے اور نہ کبھی مرعوب ہوئے بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ قدم جماتے رکھتے۔

غزوہ حنین میں جبکہ اکثر صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے تو آپ دشمن کی ایک بہت بڑی ٹولی کے مقابلے پر کھڑے تھے۔ اُس وقت آپ کے گرد اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے صرف نو افراد تھے۔ اُس وقت آپ ایک سست رفتار خچر پر سوار تھے۔ آپ اصحاب کو پکارتے اور خود کو ظاہر کر رہے تھے چنانچہ آپ اعلان فرما رہے تھے: اللہ کے بندو! میری طرف آؤ، میں نبی ہوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں اور عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں۔ صحابہ کرام نے جب آپ کی آواز سنی تو جہاں بھی وہ اپنے جال میں گرفتار تھے وہاں سے آپ کی جانب لوٹے۔ قبیلہ ہوازن والے آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن ہدیت کے مارے آپ کے نزدیک پھٹکنے سے کتراتے رہے۔ آپ کبھی دشمن کی ہڈی دل فوج سے بھی نہیں ڈرے اور نہ کسی مقابلہ کرنے والے حملہ آور سے کبھی کتراتے۔

پروردگارِ عالم نے طاقتور لشکروں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی، جو آپ کی آواز پر لبیک کہتے تھے، چنانچہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپ صبر و استقلال کا مظاہرہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی (یعنی فرشتے بھیج دیے)، آپ کی شجاعت کا یہ ایسا مظاہرہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔

ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک پریشان کن آواز سنی گئی (جیسا کہ وہاں خطرے کے وقت آواز دینے کا رواج تھا)، لوگ اس آواز کی جانب دوڑے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اس قدر سبقت لے گئے تھے کہ آپ انہیں واپس لوٹتے ہوئے ملے۔ چنانچہ آپ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی تنگی پیٹھ پر سوار واپس تشریف لارہے تھے۔ آپ کے دستِ اقدس میں تلوار تھی فرمایا لوگو! مت گھبراؤ، مت گھبراؤ۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ہم نے تمہارے گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رفتار دیکھا ہے، حالانکہ وہ گھوڑا بالکل سست تھا۔ اُس روز سے گھوڑے کی یہ حالت ہو گئی کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

یہ بے خوفی اسی وجہ سے تھی کہ آپ کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے دین کو جلد غلبہ دے گا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا ہے:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - تاکہ اُسے سب دینوں پر غالب کرے۔
اور یہ ارشاد باری تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق میں ہے:
نَارِيتُ لِي الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا مِیرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے، پس میں نے
ومغاربها سبیلہ ملک امتی اُس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا ہے عنقریب
مازوی لی منها۔ (ص ۱۲) میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک
میرے لیے زمین سمیٹی گئی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق کو قائم کرنا، یہی گواہ آپ کی صداقت کے لیے کافی ہے۔
نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخاوت عطا فرمائی گئی تھی، حتیٰ کہ
آٹھویں خصلت جو چیز بھی موجود ہوتی آپ دوسروں کو مرحمت فرمادیتے لیکن مطلوب و
محبوب کو ترجیح دیتے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی زرہ چند سیر جو کے بدلے ایک
یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، جو آپ نے گھر والوں کے لیے اُس سے حاصل کیے تھے،
حالانکہ اُس وقت جزیرہ عرب کے سفید و سیاہ کے مالک آپ تھے۔ عرب میں کتنے ہی بادشاہ
اور دولت مند تھے، جن کے پاس خزانے اور دولت کے ذخیرے تھے، جن کے باعث وہ فخر
کیا کرتے تھے اور خوش رہتے تھے لیکن آپ نے اُن علاقوں کو فتح کر لیا اور اُن کے ملک اب
آپ کے زیر فرمان تھے لیکن آپ نے وہم و دینار قطعاً جمع نہ کیے بلکہ خشک کھانا کھاتے، مٹا اور
سخت لباس پہنتے لیکن سخاوت خوب کرتے۔ بڑی بڑی جماعتوں میں دولت تقسیم کر دیتے اور
خود معمولی کھانے پر اکتفا کرتے۔ قافوں پر صبر کرتے حالانکہ قبیلہ ہوازن سے آپ کو بکثرت مالِ غنیمت
حاصل ہوا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ قیدی ————— چھ ہزار (۶۰۰۰)

۲۔ اونٹ ————— چوبیس ہزار (۲۴۰۰۰)

۳۔ بکریاں ————— چالیس ہزار (۴۰۰۰۰)

۴۔ چاندی ————— چار ہزار اوقیہ (۴۰۰۰)

یہ سارا مال غنیمت مستحقین میں تقسیم فرما کر کاشانہ اقدس کی جانب خالی ہاتھ لوٹے۔

ابو وائل مسروق سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درہم و دینار یا بکری اور اونٹ وراثت میں نہیں چھوڑے اور نہ کسی چیز کے بارے میں وصیت ہی فرمائی۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

عمر بن مڑہ حضرت سید بن حارث سے اور وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیاوی چیزیں خوش نہیں کرتیں اگر میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اُسے خدا کی راہ میں خرچ کر دوں گا اور جس دن بھی وفات پاؤں تو میرے پاس قرض ادا کرنے کے علاوہ ایک دینار بھی باقی نہیں ہوگا۔ (سبحان اللہ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا اور اُس وقت وہ آپ کے پاس نہ ہوتی تو اُسندہ کے لیے وعدہ فرما لیتے لیکن نفی میں جواب نہ دیتے اور منعم حقیقی کی عطا کا انتظار کرتے۔ حماد بن زیاد نے حضرت یعلیٰ بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کسی چیز کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، عنقریب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ بیٹھ گیا اور اسی دوران میں کئی سائل اور آگئے، تو انہیں بھی بٹھاتے گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی چار اوقیہ لے کر حاضر بارگاہ رسالت ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! یہ صدقہ ہے۔ آپ نے پہلے شخص کو بلایا اور اُسے ایک اوقیہ عطا فرمایا، پھر دوسرے کو بلایا اور ایک اوقیہ اسے مرحمت فرمایا، اسی طرح تیسرے کو عطا فرمانے کے بعد آپ کے پاس ایک اوقیہ بچ گیا۔ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو حاجت مند ہوا اسے لے سکتا ہے۔ کوئی شخص لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے سر ہانے رکھ لیا۔ آپ اونی کبل پر آرام فرما تھے لیکن ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح مسجد

میں نماز ادا فرمائی۔ اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: کیا دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے؟ فرمایا: بحمد اللہ ٹھیک ہوں۔ عرض گزار ہوئیں: کیا اللہ جل شانہ کی طرف سے اس رات کوئی حکم نازل فرمایا گیا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ عرض کی: آج رات آپ نے بڑی بے قراری سے گزاری ہے جبکہ اس سے پہلے یہ حالت کبھی دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے سر ہانے کے نیچے سے وہ اوقیہ نکال کر دکھاتے ہوئے فرمایا: مجھے ساری رات اس نے بے قرار رکھا ہے۔ میری پریشان حالی جو تم نے دیکھی وہ اسی کے باعث تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ اسے فی سبیل اللہ خرچ نہیں کر سکا، مبادا ایسی حالت میں خدا کی طرف سے کوئی حکم آجائے۔

زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ خُرد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مومنوں پر اُن کی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہوں۔ جس شخص نے مرتے وقت قرضہ چھوڑا وہ میرے ذمے ہے، اُسے میں ادا کروں گا اور جس نے مال چھوڑا وہ اُس کے وارثوں کے لیے ہے۔ کیا سخاوت کا ایسا عالم اور کسی جگہ نظر آیا ہے؟ کیا دنیا کے مال و متاع سے اعراض کرنے والا ایسا زاہد کوئی اور دیکھا یا سنا گیا ہے؟ آپ کی طرح دنیا سے اعراض کر کے زاہد بننا دوسروں سے بعید ہے۔ آپ کے ان فضائل کے کچھ حصے کو بھی نہیں پایا جاسکتا اور نہ آپ کے بے شمار محاسن و کمالات سے کسی ایک خصلت ہی کو آپ کی طرح حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ کمالاتِ مصطفیٰ کی کسی کو غایت ہی معلوم نہیں اور نہ کسی دوسرے میں وہ کمالات کامل طور پر پاتے ہی جاسکتے ہیں تاکہ اُسے آپ کا ہم پلہ قرار دیا جاسکے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کے کمالات کا انکار نہ کر سکے۔ تمام منافقوں، مخالفوں، زندلیقوں اور ملحدوں نے اڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ آپ کی کسی لغزش ہی پر مطلع ہو جائیں جو بغیر کسی قصد کے یا بے توجہی سے واقع ہو گئی ہو تاکہ اُس کے سبب آپ کی شانِ اقدس میں ایک گونہ اہانت جاری کر کے اپنے دلوں کی لگی بکھڑکتی ہوئی آگ بجھا سکیں، لیکن سعی بسیار کے باوجود وہ کسی لغزش پر مطلع ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ حاسدوں اور دشمنوں کی باریک بین اور عیب جو نگاہیں بھی آپ کی کسی لغزش کا کھوج نہ لگا سکیں اور اُن عیب لگانے والوں اور رسوا کرنے والوں کو نہ اہانت کی

گنجائش ملی اور نہ طعن و تشنیع کا موقع۔ آپ کا حال وہی ہے جیسا کسی شاعر نے کہا ہے:۔

شہد الانام بفصله حتی العدا

والفضل ما شهدت به الاعداء

جو فضیلت میں اُس کی غایت کو پہنچا ہو اور اُمور کی غایت کے اسباب کو کامل طور پر حاصل کر لیا ہو، وہی ساری دنیا کی سیادت و قیادت کے لائق اور اصلاح حُسن کی ذمہ داری کا اہل ہے۔ نبوت سے بڑھ کر اور کون سی غایت ایسی ہے جس کے ذریعے اُمور کی اصلاح کی جاسکے اور فساد کا مادہ دفع ہو جائے۔ اس کا مقتضی یہی تھا کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اس کے اہل ہیں اور ان امور کا قیام آپ ہی کا مرہونِ منت ہے کیونکہ جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو آپ ہی کے باعث ان امور نے قرار پکڑا تھا۔ جب آپ ان امور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس احسن طریقے سے حفاظت فرمائی کہ محافظت کا حق ادا کر دیا۔ پس آپ ہی اُن کے لیے مناسب تھے اور وہ آپ ہی کے مناسب تھے۔ ان امور کی کفالت کا فریضہ آپ پر عائد ہوا تو اُس کی ادائیگی میں آپ نے ذرا سی کوتاہی بھی واقع نہیں ہونے دی۔

جن دو چیزوں میں باہم مشابہت ہو، وہ متشاکل ہوتی ہیں اور جو متشاکل ہو اُن کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے اور جو ایک دوسرے سے محبت کریں وہ آپس میں متفق ہوتے ہیں اور اتفاق وفاق کی دلیل ہے جو ہر ایک انتظام کی دلیل اور ہر نظم کا قاعدہ و قانون ہے۔ یہ آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی بہت ہی واضح دلیل اور آپ کی رسالت کے سچے ہونے کا ظاہر نشان ہے۔ ایسی وضاحت کے باوجود آپ کی فضیلت کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو شرفِ انسانیت ہی سے عاری ہو۔ سب تعریفیں اُسی خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں آپ کی اطاعت کی توفیق بخشی اور آپ کی رسالت کو سچا ماننے کی جانب رہنمائی فرمائی۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

لے لوگوں نے اُس کے فضل و کمال کی گواہی دی، حتیٰ کہ دشمنوں نے بھی اور اعلیٰ فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی شہادت دیں۔

بعثت اور استقرارِ نبوت

امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”اعلام نبوت“ کے اکیسویں باب میں لکھا ہے اور وہ آخری باب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مبداء اور نبوت کا استقرار بیان کیا ہے۔ ہر کام جو مقدور ہوتا ہے جب وہ قریب الوقوع پہنچے تو خواہ اس کا تعلق ڈرانے سے ہو یا خوشخبری سنانے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اُن کے سبب پوشیدہ امور کے مبادی کو ظاہر فرمادیتا ہے اور اُس کے قضا و قدر میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اُس کی خبر دیتا ہے تاکہ یہ تعذیر و تحذیر کا کام دیں، جن کے باعث عقلیں بیدار ہوں اور جاہل ڈریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی ہے تاکہ وہ اچانک پیش آنے والے امور سے بچیں، جو انھیں تدابیر سے غافل کر دینے والے ہوں جبکہ وہ انھیں پوری تیزی کے ساتھ پہنچیں اور وہ ان کا دفعیہ نہ کر سکیں۔ آپ کی بعثت کے باعث نفوس کو اس قابل بنانا تھا تاکہ وہ پیش آمدہ حالات کی سختی کا دفاع کرنے اور اُن کی شدت سے بچنے کے اہل بن جائیں۔ جب فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت میں مبعوث ہونے کا وقت قریب آیا، تاکہ مخلوق خدا کو خوشخبری دیں اور عذاب الہی سے ڈرائیں، تو اُمم سابقہ میں بھی یہ چرچا عام تھا کہ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان نبی کو بھیجے گا۔ جس اُمت کو اللہ تعالیٰ نے کتابِ مرحمت فرمائی تھی وہ حضرات اُس کتاب کے باعث آپ کو پہچانتے تھے اور جنہیں کوئی کتاب عطا نہیں فرمائی گئی تھی انھیں ایسی نشانیوں کے ذریعے آپ کی معرفت حاصل ہوئی جس پر عقل سلیم دلالت کرتی ہے نیز اُن قلبی جاسوسوں کے ذریعے الہامی طور پر مطلع ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اور پاکیزہ ذہن بھی اس معاملے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور محتاط آدمی لوگوں کو ڈراتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانب توجہ بھی نہیں فرمائی تھی کہ اس اعلان سے آپ ہی مراد ہیں اور دارین کی سیادت کے اہل صرف آپ ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے اوصاف کی منادی کر دی گئی اور جب آپ کو اعلان کرنے کا حکم ملا اُس وقت اظہار فرمایا تاکہ تہمت سے دور اور بدگمانی سے محفوظ رہیں۔ یہ آپ کی حقانیت کی واضح برہان اور

غالب دلیل ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اخلاقی شرف اور مکرم طبیعت کے باعث اپنی قوم میں امتیازی مقام رکھتے تھے، بایں وجہ نہ کسی کے سامنے آپ نے بتوں کی تعریف کی اور نہ انھیں کسی طرح کی تعظیم کا مستحق ٹھہرایا۔ تمام فقہاء اور متکلمین کے نزدیک آپ توحید، قدم باری تعالیٰ، حدوثِ عالم، شکرِ منعمِ حقیقی، السدادِ ظلم و ستم، ضرورتِ انصاف اور امانتِ اہلس لوطمانے کو بمقتضائے عقل جانتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔

اہل علم حضرات کا اس بات میں اختلاف ہے کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کس نبی کی شریعت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر متکلمین اور بعض فقہاء جو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب تھے اس جانب گئے ہیں کہ گزشتہ انبیائے کرام میں سے کسی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی بھی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تو پہلے اُسے سیکھنا پڑتا اُس کے بعد ہی عمل کر پاتے، عمل کرنے سے وہ شریعت ظاہر ہوتی اور شریعت کے ظاہر ہونے سے لازمی طور پر بعض لوگ آپ کی موافقت کا دم بھرتے ہوئے پیروی کرتے جبکہ بعض مخالف جھگڑتے اور مخالفت پر آمادہ ہو جاتے۔

بعض متکلمین اور امام شافعی و امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب بعض فقہائے کرام اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیائے گزشتہ کی شرائع کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ ان انبیائے کرام نے اپنے زمانے والوں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو اپنی شریعتوں کی دعوت دی تھی اور ان کی شریعت اُس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک دوسری شریعت آکر اُسے منسوخ نہ کرے۔ بعثت سے پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دعوت کے عموم میں داخل تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے کو شریعت سے کبھی خالی نہیں رکھا اور نہ ایسے متدین لوگوں سے خالی رکھا ہے جو دوسروں سے سن کر عبادت کرتے ہیں۔

اس مذہب کے قائلین میں بھی اختلاف ہے کہ آفاتے نامدار، احمد مختار

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی شریعتوں میں سے کس نبی کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے جدِ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (۱۷) اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے

علاوہ بریں آپ حج اور عمرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کاربند تھے۔ بعض اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عامل تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے منسوخ نہیں کیا تھا کیونکہ پہلی شریعتیں منقطع تھیں اور توریت کے ذریعے صرف موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے احکام واضح تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا
هُدًى وَنُورٌ (۱۸) بے شک ہم نے توریت اتاری اُس میں ہدایت اور نور ہے۔

بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ فجرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے کیونکہ اُن کی شریعت نے شریعتِ موسیٰ کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس طرح بعثت سے پہلے اپنے دین میں حرج واقع ہونے اور یقین میں قدح کے خدشات سے محفوظ رہے۔ یہی تو شانِ مصطفائی کی نشانیاں اور منصبِ مجتہائی کا مقدمہ ہے۔ (صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ)

جب اعلانِ نبوت کا وقت ثابت ہوا اور قریب آیا اور حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دنیاوی حیات کی چالیس منزلیں طے کرنے والے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو خلوت پسند کر دیا کیونکہ آپ کی عمر پختہ اور قوی مضبوط ہو چکے تھے اور اس طرح اُس امانت کو بطریقِ احسن سنبھالنے کے قابل ہو چکے تھے جو آپ کے لیے مقتدر

فرامی گئی تھی۔ وقتِ معینہ سے پہلے غارِ حرا کے اندر چند راتیں آپ نے تنہائی میں گزاریں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ قریش کی عادت کے مطابق سال میں ایک مہینہ آپ غارِ حرا میں مجاورت کیا کرتے تھے۔ اس سے مقصود نیکی حاصل کرنا ہوتا اور ایک ماہ کے بعد اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹ آتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بارِ نبوت کی امانت آپ کے سپرد کرنے کا ارادہ فرمایا تو غار میں اتنے دنوں تک خلوت گزیر رہے کہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے لیے غار ہی میں پہنچائی جاتی تھیں۔ آپ ان میں سے خود کھاتے اور غراب و مساکین کو کھلایا کرتے تھے۔ جب آپ غار میں گوشہ نشین تھے اُس وقت بھی آپ کا دعویٰ نبوت کی طرف کوئی ارادہ نہیں تھا حالانکہ بعض لوگوں کو ایسا گمان گزرتا تھا اور اہل کتاب کے نزدیک تو آپ کا نبی آخر الزماں ہونا بالکل واضح تھا۔ نبوت کے متعلق آپ کا ایک لفظ بھی قبل بعثت زبان پر نہ لانا اسی وجہ سے تھا تا کہ ابتدائی حقہ بھی تصنع اور تکلف سے مانع رہے اور نبوت کے دعوے کو اختراع کی جانب منسوب نہ کیا جاسکے۔ اگر آپ تصنع سے کام لیتے یا اختراع کرتے تو اُس کے اسباب ضرور ظاہر ہوتے اور اُس کے بارے میں شہادتیں درجہ شہرت تک پہنچ جاتیں اور معاندین کے لیے اُنھیں مشہور کرنے میں جھجک کیا تھی؟ نیز آپ سے محبت رکھنے والے اس صورت میں تاویل کی راہیں مسدود پاتے۔ اہل علم و دانش کے لیے یہی وضاحت کافی ہے جو تہمت سے لعبید اور بدگمانی سے محفوظ رکھنے والی ہے۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برابر خلوت گزیر رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نبوت کی نشانیاں ظاہر فرمادیں اور غفلت و عدم التفات سے بیدار کر کے کچھ عرصے بعد اس امر کی بشارت دی، پھر بشارت کے بعد آپ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ اِس دور میں بتدریج آپ کے احوال کو اِس طرح ترقی دی گئی کہ بارِ نبوت کے متحمل ہو سکیں اور اِس کے حقوق و لوازم سے آشنائی ہو جائے۔ یہ احوال اچانک یا بغیر کسی ترتیب کے نہیں تھے، جس سے عدم توجہی اور حقوق کے مخفی رہنے کے باعث کمزوری آنے کا خدشہ رہتا ہے بلکہ خاص نظم و ضبط کے ماتحت تھے کیونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور یہ خاص الخاص النعم تھا اور وہی منعم حقیقی اُمتِ مرحومہ کو آپ کی اطاعت و

فرمانبرداری کی جانب بلانے والا ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک اور اپنی مخلوق سے خاص بندوں کو خصوصی انعامات سے نوازنے والا ہے۔

جس کی نبوت کے احوال اس ترتیب سے ہوں کہ ایک وقت آنے پر اُسے صاف طور پر مطلع کر دیا جاتے کہ وہ نبی مبعوث اور رسول مبعوث ہے، اُس کے یہ تدریجی احوال چھ مراتب پر منقسم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے ایک حال سے دوسرے کی طرف ترقی فرماتے ہوئے چلے گئے یہاں تک کہ جملہ مراتب کو طے کر کے انتہائے کمال کو پہنچ گئے۔ مذکورہ مراتب حسب ذیل ہیں:

پہلا مرتبہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا مرتبہ روایاتِ صالحہ تھے، تاکہ آپ اس جانب مائل ہو جائیں کیونکہ اُن کے ذریعے ایک ایسی بات کا ذکر کرنا تھا جس سے آپ خوش ہو جائیں اور اوسانِ علی وجہ الکمال مجتمع رہیں، تاکہ جب آپ کو مبعوث فرمایا جاتے تو پیشگی اطلاع کے سبب تقویت کا فائدہ حاصل ہو جائے۔

زہری نے حضرت عروہ سے اور انھوں نے اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سچے خوابوں سے شروع ہوئی، جن کی تعبیر صبحِ منور کی طرح سامنے آجاتی تھی، یہاں تک کہ آپ پر وحی لے کر فرشتہ نازل ہوا۔ مذکورہ خوابوں کے بارے میں علمائے کرام کا اختلاف ہے کہ آیا وہ غارِ حرا میں خلوت گزینی کے دوران دیکھے یا اس سے پہلے؟

حضرت عروہ نے اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بطور حکایت بیان کیا ہے کہ روایاتِ صادقہ کے بعد آپ کا رجحان خلوت کی جانب ہوا تھا۔ لیکن ایک جماعت کا خیال ہے کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلوت کے بعد ایسے خواب نظر آئے تھے کیونکہ آپ نبوت کی جانب سے عدم التفات کی حالت میں خلوت گاہ کی طرف گئے تھے۔

برہ ثبت ابی تجرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری رسول کو منصبِ نبوت مرحمت فرمانا چاہا تو آپ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ عرض کرتا: اَسَلَامٌ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اے اللہ کے رسول! آپ پر

سلام ہو، آپ دانتیں بائیں اور چپے مڑ کر دیکھتے تو کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ایسے واقعات خوابوں سے پہلے پیش آتے ہوں گے اور یہ غیبی آوازیں ہوں جو اعلام وحی کا حصہ اور اعجاز نبوت کی دلیل ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ایسے واقعات خوابوں کے بعد پیش آتے ہوں، جن کا مقصد نبوت کی تصدیق اور اُس کی صحت کی تحقیق ہو۔

دوسرا مرتبہ سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا مرتبہ جس کے باعث آپ ساری مخلوق سے ممتاز ہیں، وہ آپ کا جملہ عیوب سے برتر اور نجاستوں سے پاک صاف رہنا ہے، تاکہ اس کمال کے باعث آپ کو ساری مخلوق سے چُن لیا جائے اور کدورتوں سے پاک ہونے کی وجہ سے قُربِ خاص میں لیا جائے۔ یہ منصب نبوت کے سبب انذار اور اخروی معاملات سے باخبر کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے حالات دریافت کیے، تو آپ نے فرمایا: اے ابوذر! میرے پاس دو فرشتے آئے جبکہ میں مکہ معظمہ کی وادی بظاء میں تھا، اُن میں سے ایک زمین پر تھا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان۔ ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا: کیا یہ شخص وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: ہاں یہ وہی ہے۔ پہلا کہنے لگا: اچھا ان کا ایک اُمتی کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ میرے ایک اُمتی کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میں بھاری نکلا۔ وہ پھر کہنے لگا: اچھا دس مردوں ان کا وزن کرو۔ دس آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو بھاری نہیں رہا۔ اُس نے پھر کہا: ایک سو کے ساتھ وزن کرو۔ اسی طرح میرا وزن کیا گیا اور بھاری نہیں نکلا۔ پھر ایک ہزار کے ساتھ وزن کرنے کے لیے کہا اور تولنے پر جب میں وزنی نکلا تو انھیں ترازو کے پلڑے سے نکالتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے: اگر ان کا ساری اُمت کے ساتھ بھی وزن کیا جائے تو بھاری یہی نکلیں گے۔ اُن میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ان کا شکم مبارک چاک کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرا پیٹ چاک کیا گیا۔ پھر کہنے لگا: ان کا دل بھی چیرنا چاہیے۔ پس اُنھوں نے میرا دل بھی چیرا اور اُس میں سے گوشت کا جما ہوا حصہ نکال لیا اور شیطان کے وسوسہ کرنے کی جگہ بھی۔ پھر کہنے لگا: ان کے شکم مبارک کو برتن کی طرح اور قلبِ اطہر کو کپڑے کی طرح

خوب دھو دیا جائے۔ پھر سکینہ طلب کی اور اُسے میرے قلب میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد اُس نے میرے شکم کو سینے کا حکم دیا تو وہ سی دیا گیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ یہ واقعہ میں نے اس طرح دیکھا گویا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منصب نبوت کے تفویض فرمانے کا وقت قریب ہوا۔ آپ کعبہ کے نزدیک سوئے ہوئے تھے اور قریش مکہ بھی کعبہ کے ارد گرد سویا کرتے تھے۔ اُس وقت حضرت جبریل اور میکائیل علیہما السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے: ————— یہیں سرور کائنات کے متعلق حکم ملا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور دوسری رات بھی حاضر ہوئے لیکن اس دفعہ وہ تین تھے۔ اُنھوں نے اس دفعہ بھی فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے پایا۔ پس آپ کو چت لٹایا، شکم مبارک کو چیرا، اور آب زمزم لاکر اُس سے خوب دھویا اور جو بھی شک و شبہات اور جاہلیت وغیرہ کے مواضع بتقاضا تے بشریت ہوتے ہیں اُنھیں دھو کر دُور کر دیا۔ اس کے بعد سونے کا ایک طشت لائے جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اور سارا نور ایمان مع حکمت قلبِ مصطفیٰ میں رکھ دیا گیا۔ یہ حدیث بھی معنا حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہے اگرچہ بعض الفاظ مختلف ہیں۔ یہ دونوں روایتیں انذارِ نبوت کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔

فرشتے کا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دینا۔ اُس کا یہ تیسرا مرتبہ بشارت دینا تکلیف و انداز سے خالی اور صرف ایک خبر تک محدود تھا کیونکہ آپ پر اُس وقت نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کسی پیام رساں کو آپ نے چشم خود دیکھا، حالانکہ فرشتے کا یہ احساس بھی واضح دلالت کرنے والی نشانی سے طلق اور قریب تر ہے، جو مشاہدے کا قائم مقام اور بالمشافہ گفتگو سے بے نیاز کرنے والا ہے اور اس کے ذریعے یہی بتانا مقصود تھا کہ وہ زمرہ انبیائے کرام کے ایک فرد ہیں اور اس طرح وحی سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور مشقت و تکالیف کے صبر و سکون کے ساتھ متحمل ہو سکیں اور اُس کے انعامات پر شکر گزار رہیں۔

امام شعبی اور داؤد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے اسرافیل علیہ السلام کو تین سال تک قریب رکھا۔ آپ اُن کی معیت کو محسوس کرتے تھے لیکن نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ آپ کو یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی چیز کی خبر دیتے رہتے تھے لیکن وہ قرآن نازل نہیں کر سکتے تھے۔ اس تین سالہ مدت گزرنے کے بعد نبوت کی بشارت دی گئی لیکن اُمت کی طرف اُس وقت تک مبعوث نہیں فرماتے گئے تھے۔ احتمال یہی ہے کہ اس مہلت سے فرائض رسالت پر آپ کی امداد و اعانت مقصود ہو۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس مہلت سے اُمت مرحومہ پر شفقت فرمائی گئی ہو۔ تیسرا احتمال مصلحتِ وقت کا ہو سکتا ہے۔ مذکورہ سارے احتمالات کا پایا جانا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ظاہر اور پوشیدہ معانی کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔

اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب حضرت چوتھا مرتبہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ آپ نے اُنھیں دیکھا، اُن کی باتوں کو سنا اور اُنھوں نے بالمشافہ خبر دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ معاملہ اسی اطلاع تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو انداز کا حکم نہیں ملا تا کہ آپ کو بشارت کے بعد اس کا عین الیقین حاصل ہو جائے اور وثوق میں زیادتی ہوتی جائے اور اس کے بارے میں خود آپ کا علم ایسا راسخ و صادق ہو جائے کہ اس کی جانب وہم اور شکوک و شبہات کو کوئی راستہ نہ مل سکے۔

زہری نے اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبوت دیے گئے تو آپ کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے: اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، حالانکہ اُس وقت میں کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں (غارِ حرا سے) واپس لوٹ آیا اور میرے کندھے بھی مارے خوف کے کانپ رہے تھے۔ میں خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے پاس آیا اور اُن سے کہنے لگا کہ مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑوں میں لپیٹ دو۔ تھوڑی دیر بعد یہ خوف و ہراس دور ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے: یا محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں جبرائیل ہوں اور آپ

اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا: پڑھیے۔ میں نے پوچھا: کیا پڑھوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کپڑا اور سینے سے لگا کر تین مرتبہ زور سے دبایا اور دبانے میں خوب زور لگایا یا دبانے سے مجھے تنگی ہو رہی تھی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا۔

میں خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے پاس آیا اور اُن سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی ہلاکت کا پورا خطرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اُنھوں نے کہا: یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز سوا نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو حق کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ توریت و انجیل کا عالم تھا اور نصرانی مذہب قبول کر چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اپنے بھتیجے (بلجامِ عمر بھتیجا کہا ہوگا) کی بات سنئے۔ ورقہ بن نوفل نے مجھ سے پوچھا: کیا بات ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو سنئے ہی کہنے لگا: یہی تو وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اُس کا نام جبریل علیہ السلام ہے۔ کاش ایں اُس وقت تک زندہ رہوں جب قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ میں نے کہا: کیا لوگ مجھے میرے شہر سے بھی نکال دیں گے؟ جواب دیا: ہاں ایسا ہی ہوگا کیوں کہ جس پیغامِ حق کو لے کر آپ اُٹھنے والے ہیں، جو فرد بھی اس پیغام کو لے کر آیا اُس کے ساتھ معاندانہ برتاؤ ہی ہوتا رہا ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی پوری طرح مدد کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہی سب سے پہلی وحی ہے۔ اس کے بعد سورہ القلم کی یہ آیات نازل ہوئیں:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ تم اپنے رب
مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ مِّنَّا بِبِخُونٍ ۝ کے فضل سے محزون نہیں اور ضرور تمہارے
وَأَنَّ لَكَ لَا جَرَائِرَ مِّنُنَا ۝ لیے بے انتہا ثواب ہے اور بیشک تمہاری
وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ خوب بڑی شان کی ہے تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی
وَيُبَصِّرُونَ ۝ دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔

ان آیات کا اُس وقت نزول اس غرض سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ
ثابت قدم ہو جائیں، نور بصیرت میں اضافہ ہو اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ روایت
کی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئیں، کیا جب
آپ کے صاحب (جبریل علیہ السلام) حاضر بارگاہ ہوں تو اُن کی آمد سے مجھے مطلع فرمایا جاسکے؟
آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں۔ عرض کی: جب بھی وہ آئیں تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ جب
جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے خدیجہ!
یہ جبریل آگئے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حاضر ہو گئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ! آپ
یہاں سے اُٹھ جائیں اور میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بائیں
ران پر جا بیٹھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: کیا جبریل علیہ السلام اب بھی آپ کو
نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں: اب آپ
میری دائیں ران پر آجائیں۔ چنانچہ جب آپ اُن کی دائیں ران پر بیٹھ گئے تو اُنھوں نے پوچھا:
کیا اب بھی آپ اُس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا:
اب آپ میری گود میں تشریف فرما ہو جائیں۔ چنانچہ آپ اُن کی گود میں بیٹھ گئے تو خدیجہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا نے پوچھا: کیا اب بھی آپ اُنھیں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ حضرت خدیجہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمال حسرت کے ساتھ اپنا دوپٹہ مبارک سر سے اتار دیا حالانکہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُس وقت اُن کی گود میں جلوہ افروز تھے۔ اس کے بعد پوچھا: یا رسول اللہ!

کیا اب آپ اُس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرتبہ نفی میں جواب دیا۔

یہ جواب سُن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں: اے میرے چچا کے بیٹے! ثابت قدم رہیے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ خدا کی قسم، وہ آنے والا یقیناً فرشتہ ہے اور شیطان ہرگز نہیں چنانچہ اُسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور وہ سب لوگوں سے پہلے مسلمان ہونے والی ہیں۔ اس موقع پر جو کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا وہ صرف اُن کی ذات سے متعلق تھا کہ حق کو ظاہر دیکھنا چاہتی تھیں۔ اُن کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حق ظاہر ہو جائے اور اس کا غالب یقین ہو جائے چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اسی برحق معجزے کو دیکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صرف جبریل علیہ السلام کی تصدیق کرنے پر ہی اکتفا فرماتے رہے تھے۔

اس دوران میں جو کچھ بھی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے رہے وہ صرف نبوت کے بارے میں خبریں تھیں تاکہ آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چُن لیا ہے اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں اور جو احکام آپ پر نازل ہوں اُن کے لیے پورے طور پر خود کو وقف کر دیں۔ اس طرح قبل ازیں آپ احکام الہی کے پوری طرح متبع ہو جائیں اور جو کچھ اُنھیں مرحمت فرمانے کا ارادہ کیا گیا ہے اُس کے پوری طرح متوقع رہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کی اجازت تو مل گئی لیکن ابھی تبلیغ و انداز کی اجازت نہیں ملی تھی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَنْبَغِيكَ فَجَدِّثْ ۝ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

لے اسی لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے: ۛ

سیما، پہلی ماں، کفِ امن و امان	حق گزارِ رفاقت پہ لاکھوں سلام
عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی	اُس سر لے سلامت پہ لاکھوں سلام

لے پ ۳۰، سورہ الضحیٰ، آیت ۱۱

یعنی نبوت کے بارے میں جو خبریں آپ کو دی گئیں ان کے ذکر کی اجازت دی، چنانچہ آپ چھپ کر اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔

پانچواں مرتبہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو منصب نبوت کے بعد تبلیغ و انذار کا حکم ملا، منصب رسالت تفویض ہوا اور ادا مروا ہی کے ساتھ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا جس کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا لیکن اس وقت تک آپ کو دُنیکے کی چوٹ نبوت کا اعلان کرنے اور عام تبلیغ و انذار کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تاکہ جو آپ پر ایمان لے آئے اس کی تخصیص ہو اور جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے وہ اپنے عزم میں پختہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے مندرجہ ذیل آیات اس بارے میں نازل فرمائیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ
تَسْتَكْبِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝
اے بالاپوش اور ٹھننے والے! بکھڑے ہو جاؤ، پھر
ڈر سناؤ اور اپنے رب کی ہی بڑائی برو اور اپنے
کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو اور زیادہ
لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے
رب کے لیے صبر کیے رہو۔

وحی و انذار کے ساتھ آپ کی نبوت مکمل ہو گئی اگرچہ وہ ابھی پوشیدہ تھی۔ نزول وحی اور منصب نبوت کا حصول رمضان المبارک میں دوشنبہ مبارکہ (بروز پیر) کو ہوا۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ ہفتہ اور اتوار کی رات کو بھی جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کے لیے پیغام رسالت سنے کر پیر کے روز حاضر ہوئے۔

حضرت ابوقنادہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ میری پیدائش کا دن ہے اور اسی روز مجھے نبوت عطا فرمائی گئی۔

لے پ ۲۹، سورہ المدثر، آیت ۱ تا ۵

ہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اُس پیر کو رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی؟ ابو قتلابہ نے کہا کہ اٹھارہ تاریخ تھی اور ابو خالد نے چوبیس بتائی ہے۔ اکثر کا یہی قول ہے کہ اُس وقت آپ چالیس سالہ تھے اور عام الفیل کو چالیس سال گزر چکے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اُس وقت آپ کی عمر تینتالیس برس تھی۔

ہشام بن محمد نے کہا کہ کسریٰ پرویز کی حکومت سے بیس برس بعد اور بقول بعض سولہ برس بعد آپ پر وحی نازل ہوئی۔ روایت کی گئی ہے کہ اس کے بعد منگل کے روز دوبارہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے جبکہ آپ مکہ مکرمہ کے بالائی جانب تشریف فرما تھے وادی کے ایک جانب جبریل علیہ السلام نے اٹیچی ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہہ نکلا اور جبریل علیہ السلام نے وضو کی کیفیت بتانے کی خاطر خود وضو کیا اور فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انھیں دیکھ کر وضو کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کی طرح آپ نے نماز ادا کی۔ یہ پہلی نماز ہے جو آپ پر فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور اُن کی تعلیم کے لیے آپ نے وضو فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ وضو سے فارغ ہوئیں تو انھیں اُسی طرح نماز پڑھائی جس طرح جبریل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ اُمتِ مہجریہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس عرصے میں جس شخص کی جانب سے آپ کو انکار اور بھٹ تکرار کا خطرہ نہ ہوتا اُسے چھپ کر تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ اس سلسلے میں تین اقوال ہیں:

پہلا قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور اُس وقت وہ نو برس کے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ دس برس کے تھے، یہ جابر بن عبد اللہ اور زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ یحییٰ بن عقیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ آتے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ جب سورج نکلا اور وہ آسمان میں

بلند اور روشن ہوا، تو ایک نوجوان آیا اور اُس نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کعبے کی طرف مُنہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آگیا اور اُس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک عورت آئی اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اُس نوجوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ وہ نوجوان رکوع سے اٹھا تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ وہ نوجوان سجدے میں گیا تو اُس کے ساتھ وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔

عصیف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، وہ نوجوان میرا بھتیجا محمد بن عبد اللہ ہے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔ وہ لڑکا بھی میرا ہی بھتیجا علی بن ابوطالب ہے (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور وہ عورت میرے اُسی نوجوان بھتیجے کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آسمانوں کے رب نے انہیں ایسا ہی حکم دیا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، اس وقت رو زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اور میرے علم میں اس دین پر نہیں ہے۔

یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور نماز پڑھی۔

دوسرا قول

یہ ابن عباس اور ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ ابوامامہ باہلی نے عمر بن عباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ عکاز میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دین میں آپ کے پیروکار کون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: دو مرد میرا اتباع کر رہے ہیں، جن میں سے ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام۔ یعنی آزاد سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا سُنتے ہی میں نے اسلام قبول کر لیا اور اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو چوتھا مسلمان شمار کرتا تھا۔ (پہلے تین حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم ہیں)

امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا کون ہے؟

تو انھوں نے کہا: کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار نہیں سنے ہیں؟

اذ تذكرت شجوا من اخي ثمة فاذا كبر اخاك ابا بكر بما فعلا
خير البرية اتقاها واعد لها بعد النبي وادفاها بما حملا
الثاني التالي المحمود مشهده واوّل الناس منهم صدق الرسل

یہ ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ عروہ بن زبیر تیسرا قول اور سلیمان بن لیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص کے بارے میں وثوق ہوتا اُسے اسلام کی دعوت دیتے کیونکہ جس وقت آفتاب ہدایت جلوہ فگن ہوا اُس وقت وہ تاجر تھے وہ قریش میں ایک بااخلاق اور عالی نسب تھے اور اپنی قوم کی خوبیوں اور خامیوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ خوب محسن تالیف سے کام لیتے اور قریش کی مجالس میں اکثر شرکت فرمایا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم شرف اسلام اور دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے، جبکہ وہ انھیں بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تو انھوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھی اور سابقین کے ساتھ مل کر حلقہ بگوشان اسلام کی تعداد آٹھ ہو گئی، جنھوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور

۱۔ توجہ: (۱) جب کسی ثقہ بھائی کی توجہ یا ذکرے تو اپنے بھائی ابوبکر کو ان کے افعال و کردار کے سبب یاد کر لیا کر۔

(۲) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وہ ساری مخلوق سے بہتر، متقی اور عادل تھے اور جس ذمہ داری کا بار اٹھاتے اُسے نبھاتے تھے۔

(۳) وہ دوسرے اور بعد میں آنے والے ہیں، ان کا مشہد محمود ہے اور مخلوق میں وہ سب سے پہلے ہیں جنھوں نے رسول خدا کی تصدیق کی۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

نماز پڑھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ان حضرات کے ہمراہ حضرت سعید بن عاص اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دولتِ اسلام سے مشرف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پے در پے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر ہی تبلیغ کر رہے تھے لیکن قریش مکہ کے اندر آپ کی اسلامی دعوت کا چرچا ہونے لگا تھا۔

امام المسلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ مخصوص انذار کے بعد آپ کو چھٹا مرتبہ عموم انذار کا حکم مل گیا اور اسلام کی طرف پوشیدہ طور پر دعوت دینے کی جگہ آپ اعلانیہ لوگوں کو دعوتِ اسلام دینے لگے کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے آخری کلام میں یہ حکم نازل فرما دیا تھا:

فَاُصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ ۱۰
تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمھیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔

اس حکم خداوندی کے بعد آپ کھل کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم آپ کے مبعث سے تین سال بعد دیا گیا اور اس کام کی اپنے قریبی رشتہ داروں سے ابتدا کرنے کا حکم ہوا، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
اور اے محبوب! اپنے قریب تر رشتہ داروں کو
ڈراؤ اور اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا
بازو بچھاؤ۔
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۱

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور زور سے آواز دی یا صبا حاہ اے بنی عبدالمطلب! اے بنی عبدمناف! یہاں تک کہ قریش کے ہر قریبی قبیلے کو یکے بعد دیگرے آواز دی، تو تھوڑی سی دیر میں وہ سارے کے سارے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بات کیا ہے؟ فرمایا، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ایک لشکر جرار، گھوڑوں پر سوار اس پہاڑی کے دوسری جانب کھڑا ہے اور عنقریب

وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، تو میری اس خبر کی، کیا آپ تصدیق کریں گے؟ کہنے لگے: کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا:

فَإِنِّي نَذِيرٌ لِّلْكَافِرِينَ يَدِي سَامِعَةٌ سَخَتْ عَذَابُ هَٰؤُلَاءِ فِي أَسْفَلِ أَرْضِ عَمَّا
عذاب شدید۔ (ص ۱۹) ڈرانے کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔

ابولہب کہنے لگا، اس کی ہلاکت ہو، کیا ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا تَبَاهٍ هُوَ جَاهِلٌ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ بَا تَهْ ۚ
أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ تَبَاهٍ هُوَ هِيَ كَامٌ نَّزَّيَا أَسْ كَامَالُ ۚ
سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ ۚ وَ نَزَّ كَمَا يَابَ ۚ اب دَهْنًا هَٰؤُلَاءِ مَارَقِي أَكْ مِي ۚ وَ
أَمْرًا تَهْ حَمَالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي ۚ اور اُس کی جو روکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی۔
جِيدٌ هَٰ حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۚ اُس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا ہے۔

ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قریش کو آپ کی اس دعوت سے کوئی زیادہ اختلاف نہ ہوتا اور وہ آپ کی دعوت کے کچھ حصے ہی کو مسترد کرتے لیکن آپ نے جو اُن کے باطل معبودوں کا ذکر کیا، اُن کی عبادت کرنے کو بُرا بتایا اور اس طرح اُن کی عقلوں کو کمزور قرار دیا، تو اُنہوں نے آپ کی مخالفت پر پورا اتفاق کر لیا اور آپ سے آخری دم تک عداوت رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، ماسوائے اُن خوش نصیب حضرات کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کی مخالفت سے بچا لیا، حالانکہ ایسے حضرات بہت ہی کم ہیں اور اُس معاشرے میں اُنہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔

عموم انذار اور علانیہ دعوت کے باعث آپ کی نبوت عام ہو گئی۔ توحید اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی خاطر آپ کو ساری اُمت کی طرف مبعوث فرما دیا گیا اور اس طرح آپ کی نبوت کو مکمل اور منصب رسالت کو کامل کر دیا گیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

امر کو واضح فرمایا، حق کا بول بالا کرنے اُٹھے، علانیہ انذار فرمایا، دعوتِ اسلام کو عام کیا اور راہِ حق میں جہاد کا حق ادا کر دیا۔ قریش آپؐ سے بسبب مخالفت کے جھگڑتے رہے لیکن آپ صبر و سکون کے ساتھ اپنے فرض کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ اُنھوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ مخالفانہ سلوک کیا، حالانکہ اُن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود آپ کا بول بالا ہوا اور آپ کی دعوت کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس دوران میں آپ نے ایسی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کیں جن کے مقابلے میں معصوم کے سوا کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور نہ تائید الہی کے بغیر اُن کے اندر سے کوئی صحیح سالم نکل سکتا تھا۔ یہ تمام حقائق آپ کی حقانیت کے دلائل اور صداقت کے منہ بولے شواہد ہیں کیونکہ بددیانت لوگوں کی تدابیر کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی سے پہنچا نہیں ہونے دیتا اور نہ کبھی فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے عمل کو درست کرتا ہے۔ قدرت کا قانون یہی ہے۔

جن امور کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت کی حیثیت دی وہ توحید کے بعد دو قسم کے ہیں۔ ایک عبادات اور دوسرے احکام۔ مکہ مکرمہ میں عبادات سے صرف طہارت اور نماز کے سوا کچھ اور مشروع نہیں ہوا تھا جس کی جبرئیل علیہ السلام نے تعلیم دی تھی اور وہ آپ پر فرض اور اُمت کے لیے مسنون تھیں، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا
 قَلِيلًا ۖ نَصْنَعُ آوَانُفُصٍ مِنْهُ
 قَلِيلًا أَوْ نَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
 تَرْتِيلًا ۝ ١٦

اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما
 سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ
 کم کر دیا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر
 پڑھو۔

یہ حکم اگرچہ آپ کے لیے تھا لیکن اس میں اُمت بھی شامل ہے، یہاں تک کہ شبِ معراج میں جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر بھی ہے، پنجوقتہ نماز فرض ہوئی۔ یہ نبوت کا نزاں سال تھا کہ پانچ وقت کی نماز آپ پر اور آپ کی اُمت پر فرض ہوئی۔ اس کے علاوہ عبادات سے اور کوئی چیز

یُوُحٰی ۵۷

اُنہیں کی جاتی ہے۔

چنانچہ آپ کا اُنہیں بطریقِ احسن قائم کرنا اور بہتر حالات و مواقع کے لحاظ سے اُنہیں قائم کرنے میں آپ کے حزم و احتیاط، عزم کی صحت و صداقت سے حکمتِ بالغہ کے عجیب اثر سامنے آتے ہیں۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

سلطان العارفين، امام المکاشفين، شیخ اکبر،

محمی الدین ابن عربی

رحمۃ اللہ علیہ

کے

فرمودات گرامی

ایک مشاہدہ

شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۶۳۸ھ) نے اپنی تصنیف لطیف فتوحات مکیہ کے خطبے میں صفحہ ۲ پر اپنے مخصوص اندازِ تحریر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ہے کہ:

والصلاة على سِرِّ العالم ونكتته
ومطلب العالم وبغيته السيد
الصديق المدلج الى ربه الطارق
المخترق به السبع الطرائق ليديه
من سرى به اليه ما اودع من
الايات والحقائق فيما ابدع من
الخلايق الذي شاهدته عند
انشائي لهذه الخطبة في عالم
حقائق المثال في حضرة الجلال
مكاشفة قلبية في حضرة غيبية
ولما شاهدته صلى الله عليه وسلم
في ذلك العالم سيدا معصوما
المقاصد محفوظا المشاهد
منصورا مؤيدا وجميع الرسل بين
يديه مصطفون وامته التي هي
خيرامة اخرجت للناس عليه
ملتفون وملائكة التسخير من
حول عرش مقامه حافون و

درود اُس ذات پر جو سترِ عالم، خدائی بھید اور
تخلیقِ عالم کا مطلوب و مقصود ہے۔ وہی سچا ستر
جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ساتوں
آسمانوں کو پھاڑ کر گزر جانے والا ہے تاکہ جس
ذات نے آپ کو سیر کرائی وہ آپ کو دکھائے تاکہ
مخلوق کے اندر اُس نے کیا نشانیاں اور حقائق
ودیعت فرمائے ہیں، جن کا یہ خطبہ لکھتے وقت میں نے
عالمِ مثال میں خود بھی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ حقائق
کی مثال کا مشاہدہ ذاتِ ذوالجلال کے حضور
میں نصیب ہوا، جو ذاتِ غیبیہ کے حضور میں قلبی
مشاہدہ تھا۔ جب میں نے وہاں فخرِ دو عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو یہی دیکھا کہ ایسے
عظیم الشان سردار ہیں جو اپنے مقاصد میں معصوم،
مشاہد میں محفوظ اور منصور و مؤید ہیں۔ جملہ مرسلین عظام
آپ کے حضور صف بستہ حاضر ہیں اور آپ کی اُمت
جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمائی گئی، وہ آپ کی
جانب متوجہ ہے اور تسخیرِ عالم کے فرشتوں نے عرشِ عظیم
کے گرد اگر آپ کے مقام کو ڈھانپ رکھا ہے اور

الملائكة المولدة من الاعمال بين
يديه صافون والصدیق عن یكینه
الانفس والقاروق عن یساره
الاقدم والختم علیه السلام بین
یدیہ قد جثا یخبرہ بحدیث الاشی
وعلی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ
یترجم عن الختم بلسانہ وذوالنورین
مستمل بردا و حیائہ مقبل علی
شانہ الی اخر ما ذکرہ رضی اللہ
عنہ ما سارہ فی تلك الواقعة۔

اعمال سے پیدا ہونے والے فرشتے آپ کے سامنے
صفت بستہ کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر آپ کے
دائیں جانب اور قاروق اعظم بائیں جانب ہیں اور
حضرت ختم علیہ السلام (شاید حضرت جبریل مراد
ہیں) آپ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں اور حیدر اُنشی
کی خیر دے رکھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ
وجہہ اکرم حضرت ختم علیہ السلام کے بیانات کا اپنی
زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ عثمان ذوالنورین آپ کی
جیاد کی چادر اوڑھے آپ کی جانب متوجہ ہیں۔ شیخ اکبر
نے آخر تک اس واقعے کا ذکر کیا ہے، جو کچھ انھوں نے
وصف کیا۔ اُس وقت دیکھا تھا۔

علم اسماء و علم معانی

طالب تحقیق کو چاہیے کہ وہ فتوحات مکیہ کی طرف رجوع کرے (کیونکہ شیخ اکبر
نے اس واقعے کو مذکورہ خطبے میں تفصیلاً بیان کیا ہے) شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فتوحات مکیہ کے پانچویں باب، صفحہ ۱۴۰ پر لکھا ہے:

ان آدم علیہ السلام ہر حامل
الاسماء قال تعالیٰ وَعَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ومحمد صلی اللہ
علیہ وسلم حامل معانی تلك
الاسماء التي علمها اللہ آدم علیہ
السلام وهي الکلم قال علیہ
الصلوة والسلام او تیت جوامع

بے شک حضرت آدم علیہ السلام علم اسماء کے حامل
ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ہم نے
آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سارے اسماء کے معانی
کے حامل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے
گئے تھے اور معانی کے اس علم کو زبان رسالت
میں الکلم کہا گیا ہے جیسا کہ فخر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ

الکلم ومن انشئ على نفسه امکن
 واتم من انشئ عليه کيحيى
 وعيسى عليهما السلام ومن
 حصل له الذات ثا الاسماء
 تحت حكمه وليس من حصل
 الاسماء يكون المسمى محصلا
 عنده وبهذا افضلت الصحابة
 علينا فانهم حصلوا الذات
 وحصلنا الاسم ولما راعينا
 الاسم مراعاتهم الذات
 ضوعف لنا الاجر لحسرت الغيبة
 التي لم تكن لهم فكان تضعيفا
 على تضعيف فنحن الاخوان
 وهم الاصحاب وهو صلى
 الله عليه وسلم ابنا بالاشواق
 وما افرحه بلقاء واحد
 منا وكيف لا يفرح وقد
 ورد عليه من كان بالاشواق
 اليه فهل نقاس كرامته
 وبره وتحفته وللعامل
 منا اجر خمسين ممن
 يعمل بعمل اصحابه
 لا من اعيانهم لكن
 عليه وسلم نے فرمایا ہے : میں جو امع الکلم دیا گیا ہوں
 جو اپنی خبری خود بیان کرے وہ دوسرے کسی تعریف
 کرنے والے کی نسبت زیادہ قادر ہے اور بہتر
 بیان کر سکتا ہے جیسے یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام
 اور جسے ذات حاصل ہو جائے تو اسماء بھی اُسی
 کے زیر فرمان ہیں، لیکن جو اسماء کا علم حاصل کرے
 تو یہ ضروری نہیں کہ اُسے مستیات کا علم بھی حاصل
 ہو جائے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
 علیہم اجمعین کو ہم پر فضیلت ہے کیونکہ انھوں نے
 ذات کو حاصل کر لیا تھا اور ہمیں اسم حاصل
 ہوا ہے۔ لیکن جب ہم نے اسم کا وہی احترام کیا
 جو انھوں نے ذات کا کیا تھا تو ہمارے ثواب کو
 دگنا کر دیا گیا کیونکہ جدائی کا جو صدمہ ہمیں اٹھانا
 پڑ رہا ہے یہ انھیں نہیں پہنچا تھا، پس علی قدر
 مراتب یہ مضاعف در مضاعف ہو سکتا ہے۔ پس
 ہم اخوان اور وہ اصحاب ہیں نیز نبی کریم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بہت مشتاق ہیں اور جب
 ہم میں سے کوئی حافر بارگاہ ہوتا ہے تو آپ کو بڑی
 فرحت ہوتی ہے اور وہ خوش کیوں نہ ہوں جبکہ
 وہی اُن کے پاس پہنچ گیا جس کے مشتاق تھے۔
 کیا ہم ایسے شخص کی بزرگی، نیکوکاری اور
 مقبولیت کا اندازہ کر سکتے ہیں ؟ جو ہم میں سے
 نیک عمل کریں انھیں صحابہ کرام جیسے نیک

من امثالهم فذالك قوله
عليه الصلوة والسلام بل
منكم مجدوا واجتهدوا حتى
يعرفوا انهم خلفوا بعدهم
رجال لا لو ادركوه ما سبقوهم
اليه ومن هنا تقع المجاورة
والله المستعان - (ص ۱۱)

عمل کرنے والے پچاس اشخاص کے برابر اجر ملے گا۔
پچاس صحابہ جتنا نہیں بلکہ اُن جیسے عمل کرنے والے
پچاس کے برابر۔ اسی لیے سرورِ کون و مکان
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا، بلکہ تم میں
سے "اُنھیں ذات کا شرف حاصل ہوا اور کوشش
کی یہاں تک کہ جان گئے کہ اُن کے بعد ایسے افراد
بھی ہیں جو آقائے کائنات کو پاتے تو سہ کار کی
جانب وہ (صحابہ) سبقت نہ لے جاتے۔ اس لحاظ
سے موافقت پائی گئی اور اللہ ہی مددگار ہے۔

شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکہ کے دسویں باب میں صفحہ ۴۷، ۴۸ پر
سیادت لکھا ہے، طالبِ حقیقت کو جان لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں
فخر نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ پس نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیادت اور جملہ بنی نوع انسان سے اشرف ہونا ثابت ہوا۔ سرورِ
کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اُس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی
اور مٹی میں تھے۔ پس ثابت ہوا کہ:

یرید علی علم بذالك فاخبره
الله تعالى بمرتبة وهو
روح قبل ايجاد الاجسام
الانسانية كما اخذ الميثاق
على بني آدم قبل ايجاد
اجسامهم والحقنا الله
تعالى بانبياءه اذ جعلنا

یہ آپ کے علم پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانی اجسام کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کو
آپ کے عالی منصب سے آگاہ کر دیا تھا حالانکہ
اُس وقت آپ روح تھے، جیسے کہ بنی آدم سے
عہد لیا تھا حالانکہ اُن کے جسم ابھی ایجاد نہیں
ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں (امتِ مرحومہ کو)
انبیائے کرام سے اس معاملے میں ملایا ہے کیونکہ

شہداء علیٰ امہم معہم حیث ہمیں ان کے ساتھ ان کی امتوں پر گواہ بنایا ہے جبکہ
یبعث من کل امة شہیداً ہر امت سے اُس پر گواہ کھڑے کیے جائیں گے
علیہم من انفسہم وہم الرسل سارے مرسلین عظام اور انبیائے کرام علیہم السلام
فکانت الانبیاء فی العالم وہ اس دنیا میں آدم علیہم السلام سے عیسیٰ علیہ
نوابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تک فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
وسلم من آدم الیٰ اخر ناتب اور خلیفہ ہیں۔ اس سلسلے کے آخری عیسیٰ
الرسل علیہم السلام وہو علیہ السلام ہیں۔ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ
عیسیٰ علیہ السلام وقد ابان علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اس عالی منصب
صلی اللہ علیہ وسلم عن ہذا کی وضاحت فرمائی ہے۔

المقام بامود۔ (ص ۱۱)

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری
پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ نہ ہوتا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے
میں آپ کا ارشاد گرامی کہ جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے تو ہم میں سے ایک ہوں گے۔ یعنی
ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت (شریعتِ مطہرہ)
کے مطابق ہی حکم کریں گے نیز صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔

لوکان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
موجوداً بجسہ من لدن آدم اپنے جسمِ اطہر کے ساتھ زمانہ آدم علیہ السلام
الیٰ نرا من وجوہ الان لکان جمیع سے اپنے عہدِ کرامت تک یہاں موجود ہوتے تو
بنی آدم تحت حکم شریعتہ الیٰ حتیٰ طور پر تمام بنی آدم قیامت تک آپ کی
یوم القیامۃ حساً ویدل علی شریعتِ مطہرہ کے تحت ہوتے اور اس بات
ذلک قولہ صلی اللہ پر یہ فرمانِ رسالت دلالت کرتا ہے کہ آدم علیہ
علیہ وسلم آدم ومن السلام اور ان کے ماسوا سب میرے جعنت
دون تحت لوائی و لہذا کے نیچے ہوں گے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

لم یبعث عامة الالهو خاصة
فهو الملك والسيد وكل
رسول سواه بعث الى قوم
مخصوصين ولم تعم رسالة
احد من الرسل سوى رسالته
صلی اللہ علیہ وسلم فن زمان
ادم الى زمان بعث محمد
صلی اللہ علیہ وسلم الى
يوم القيامة ملكه وتقدمه على
جميع الرسل وسيادة في
الآخرة منصوص عليهما في
الصحيح عنه فروحانيتها
صلی اللہ علیہ وسلم وروحانية
كل نبی ورسول موجودة
فكان الامداديات اليهم
من تلك الروح الطاهرة
بما يظهرون به من الشرائع
والعلوم في زمان وجودهم رسلا
وتشريعهم الشرائع كعلي ومعاذ
وغيرهما في زمان وجودهم ووجوده
صلی اللہ علیہ وسلم وكالياس و
الخضر عليهما السلام وعيسى
عليه السلام حين ينزل في

اسی لیے کسی نبی کی بعثت عام نہیں مگر یہ خصوصیت
صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ پس بادشاہ اور
سروار آپ ہیں اور آپ کے ماسوا جملہ مرسلین
خاص خاص اقوام کی جانب بھیجے گئے اور نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ
کسی بھی رسول کی رسالت عام نہیں ہے۔ پس
آدم علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے زمانہ
بیارک تک، جو قیامت تک ہے، آپ ہی کا
ملک ہے اور اس معاملے میں جملہ مرسلین پر آپ کو
تقدیم حاصل ہے اور آخرت میں سیادت آپ کی
ہوگی۔ یہ دونوں امور صحیح احادیث سے منصوص
ہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت
اور دیگر ہر نبی اور رسول کی روحانیت موجود ہے۔
وہ حضرات اپنے زمانوں میں جو احکام اور علوم
ظاہر کرتے تھے اُن میں آپ کی روح پاک سے
اُن کو امداد پہنچتی تھی اور تشریح شراعی میں اعانت
فرمائی جاتی تھی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم اپنے زمانہ اقدس میں علی اور معاذ
وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امداد پہنچاتے رہتے تھے
اور جیسے ایاس اور خضر علیہما السلام کو آپ کی
مدد پہنچتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جبکہ آپ کے
آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو وہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق

اخرا الزمان حاکما بشرع
 آپ کی امت پر حکومت کریں گے اور علی الاعلان
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ کی شریعت پر عمل کریں گے اور کرائیں گے۔
 فی امتہ لیقر شرعہ فی
 لیکن اس عالم محسوسات میں چونکہ پہلے آپ کا
 انظار ہرکن لالہ تہ قدم فی
 عین وجود انور موجود نہیں تھا، اسی لیے ہر
 عالم الحسن وجود عینہ
 شریعت اُسی نبی کی جانب منسوب ہوئی جو اُسے
 صلی اللہ علیہ وسلم اولا
 دے کر بھیجا گیا تھا۔ حالانکہ حقیقت میں تمام
 نسب کل شرع الی من
 گزشتہ شراع بھی شریعت محمدیہ ہی
 بعث بہ و هو فی الحقیقۃ
 ہیں۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
 شرع محمد صلی اللہ علیہ

وسلم۔ (ص ۱۱۲-۱۱۱)

اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعتِ مطہرہ قبل ازیں مفقود تھی
 کیونکہ کسی اور کو اس کا علم نہیں تھا جیسے وہ اب بعینہ مفقود ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 نزول اور آپ کی شریعتِ مطہرہ کے مطابق حکم نافذ کرنے کے زمانے میں بعینہ مفقود ہوگی اور
 فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے سابقہ جملہ شرائع کو منسوخ کر دینا یہ نسخ انہیں
 آپ کی شریعت سے خارج نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن و سنت سے ظاہر ہونیوالی
 شریعت میں نسخ ظاہر کیا ہے حالانکہ ہمارا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ وہ منسوخ ہونے والی
 شریعت بھی شریعتِ محمدیہ ہے، جسے لے کر آپ مبعوث ہوئے۔ بات صرف اتنی ہوئی ہے کہ
 کہ تاخر سے مقدم کو منسوخ کیا گیا ہے اور اس نسخ پر ہمیں قرآن و سنت نے مطلع فرمایا ہے
 اور پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنا انہیں آپ کی شریعت ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ اسی طرح
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں اپنی شریعت کے بغیر نازل ہونا اور دوسری شریعت
 کے مطابق حکمرانی کرنا اور اپنی شریعت کے مطابق حکم نہ کرنا حالانکہ اپنے دور رسالت میں وہ
 اُسی کا حکم فرماتے تھے بلکہ اس کے باوجود وہ شریعتِ محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے یہ سچا اس
 بات پر دلالت ہے کہ آپ کی شریعتِ مطہرہ کی موجودگی میں کسی دوسری شریعت کے مطابق

حکم نہیں کیا جاسکتا اور اس میں وہ اہل کتاب بھی شامل ہیں جو ذمی ہیں جب تک وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کرتے رہیں کیونکہ شرع کا حکم ہر حالت کو مشتمل ہے۔ پس

فخرج من هذا المجموع مذکورہ مجموعے سے یہ معلوم ہوا کہ جملہ بنی آدم
كله انه ملك وسيد على کے بادشاہ اور سردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
جميع بنی آدم وان جميع من وسلم ہیں اور آپ سے پہلے جو بھی عالم وجود میں
تقدمه كان ملكاً له وتبعاً د آیا وہ آپ کی ملک اور تابع ہے اور آپ سے
الحاکمون فیہ نواب عنہ صلی پہلے صاحبان حکم (انبیاء) آپ ہی کے نائب تھے۔
اللہ علیہ وسلم۔ (ص ۱۱۲) (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو۔
اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فضیلت نہیں دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت
دی ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اگرچہ یہ وارد ہوا ہے:
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
فِيهِدَاهُمْ اقْتَدِهْ ط لے یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، تو تم انہیں کی
راہ چلو۔

چونکہ یہاں انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اُن کی
ہدایت کی — اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی شریعت مطہرہ ہے۔ یعنی اپنی اس شریعت کو بھی لازم پکڑو جو تمہارے نائبوں کے
ذریعے اقامت دین کے سلسلے میں ظاہر ہوئی اور اس میں تفریق نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ
نے یہ نہیں فرمایا کہ اُن (انبیائے کرام) کا اتباع کرو۔ علاوہ بریں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد
فرمانا کہ: تفریق نہ کرو — اس میں شریعت کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ نیز ارشاد
باری تعالیٰ ہے:

وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا لے اور ابراہیم کے دین پر چلا، جو ہر باطل سے جدا تھا۔

اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت دین ہے اور دین کے اتباع پر آپ مامور ہیں کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کسی اور کی جانب سے نہیں۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کی طرف توجہ فرمائیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوا انھیں کوئی چارہ نہ تھا۔ اتباع کی نسبت آپ کی طرف ہے اور آپ کو دین کے اتباع اور ہدایتِ انبیاء کے اقتداء کا حکم دیا گیا نہ کہ ان کی اقتداء کا کیونکہ:

فان الامام الاعظم اذ حضر جب شہنشاہِ اعظم موجود ہو تو اس کے حکم کے لایبقی لائب من نوابہ حکم الا سامنے اس کے نائبوں کا حکم کب چل سکتا ہے؟
 له فان غاب حکم النواب بمواسمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اگر نواب کا حکم رسمی طور
 فهو الحاکم غیبا وشہادة پر غائب ہو، تب بھی پوشیدہ اور ظاہر طور پر
 وما اردنا هذه الا خبار حاکم وہی شہنشاہ ہے۔ ہم نے یہاں جو احادیث
 والتنبیہات الا تانیسا لمن لا اور تنبیہات نقل کی ہیں، اس سے مقصود اس
 يعرف هذه المرتبة من کشف شخص کی تائیس و تالیف ہے جو اس عظیم الشان
 ولا اطلعہ اللہ علیہا من نفسه مرتبے سے نا آشنا ہے۔ وہ نہ کشف کے ذریعے
 وما اهل اللہ فہم فیہا علی اسے جانتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسکی
 مانحن علیہ قد قامت لہم اطلاع دی ہے لیکن اللہ والوں (اولیاء اللہ)
 شواہد التحقیق علی ذلک کا خیال یہی ہے جو ہمارا ہے۔ ایسے حضرات کے
 من عند ربہم فی نفوسہم۔ سامنے ان کے نفوس میں ان کے رب کی جانب
 (ص ۱۱۳) سے تحقیقی دلائل و شواہد موجود ہوتے ہیں۔

شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا مذکورہ بالا کلام اس تقدیر پر ہے کہ ملک سے انسان مراد لے لیے جائیں لیکن جب ہم فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیادت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ سب پر دکھائی دیتی ہے جیسے کہ بعض لوگ اس جانب گئے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اگر تم نہ ہوتے تو نہ زمین و آسمان کو پیدا کیا جاتا اور نہ جنت و دوزخ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ

نے اپنے سوا ساری مخلوق کا ذکر فرمایا ہے۔ پس اول موجود جو فصل اول ہے اُس سے پہلا منفصل ہونے والا نفس کلی ہے اور اس میں آخری منفصل حضرت حوا ہیں، جو آخری موجود سے منفصل ہوئیں اور آخری موجود حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پس اجناسِ عالم میں انسان سب سے آخری موجود ہے۔ یہاں صرف چھ اجناس ہیں اور ہر جنس کے تحت انواع ہیں، اس کے بعد انواع کے تحت اور انواع ہیں۔

چنانچہ سب سے پہلی جنس فرشتے ہیں، دوسری جن، تیسری معدن، چوتھی نباتات، پانچویں حیوانات، اور جب ملک کی انتہا ہوئی نیز اپنی شان کے لحاظ سے ذاتِ باری تعالیٰ مہند و مستوی ہوئی تو چھٹی جنس انسان کو بنایا جو اُس کی اس مملکت میں اُس کا خلیفہ ہے اور آخر میں اس لیے موجود ہوا تاکہ یہ ظاہر کر دیا جائے کہ وہ بالفعل امام، صلاحیت یا قوت کی بنا پر نہیں۔ نیز:

فَعِنْدَمَا أَوْجَدَ عَيْنَهُ لَمْ يَوْجِدْهُ
إِلَّا وَالِيًّا سُلْطَانًا مَلْحُوظًا
ثُمَّ جَعَلَ لَهُ نَوَايَا حِينَ تَاخَرَتْ
نَشَاةُ جَسَدِهِ فَأَوَّلَ نَائِبٍ
كَانَ لَهُ وَخَلِيفَةً أَدَمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ وَلَدَ وَاتَّصَلَ
النَّسْلُ وَعَيْنٌ فِي كُلِّ نَرْمَانٍ
خُلَفَاءُ إِلَى أَنْ وَصَلَ نَرْمَانُ
نَشَاةُ الْجِسْمِ الطَّاهِرِ لِلْحَمْدِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَهَرَ مِثْلُ
الشَّمْسِ الْبَاهِرَةِ فَانْدَرَجَ كُلُّ
نُورٍ فِي نُورِهِ السَّاطِعِ وَغَابَ كُلُّ
حُكْمٍ فِي حُكْمِهِ وَانْقَادَتْ

جب عین (مرکز دائرہ تخلیق) کو پیدا فرمایا تو
اُن کے منصب کے لحاظ سے سب کا والی اور
سلطان بنایا گیا اور اُنہیں جسمانی لحاظ سے
متاخر کرنے کی وجہ سے اُن کے نائب بنائے۔
پس جو اُن کا سب سے پہلا نائب ہوا وہ حضرت
آدم علیہ السلام ہیں، پھر اُن کی اولاد ہوئی اور
نسلی سلسلہ چلتا گیا، جن سے ہر زمانے میں
آپ کے خلفاء معین فرمائے گئے، یہاں تک
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسمِ ظہر
کے ظہور کا وقت قریب آگیا۔ پس آپ آفتاب
نصف النہار کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ پس
ہر نور آپ کے بلند نور میں داخل ہو گیا اور ہر حکم
آپ کے حکم میں غائب ہو گیا اور تمام شرعیتیں

جیم الشرائع الیہ وظہرت
سیادتہ التي کانت باطنہ
فہو الاول والاخر والظاهر
الباطن وهو بكل شیء علیم فانہ
قال اوتیت جوامع الکلم وقال
عن ربہ ضرب بیدہ سین
کتفی فوجدت بردا ناملہ بین
شدی فعلمت علم الاولین و
الآخرین فحصل لہ التخلق
والنسب الالہی من قولہ تعالیٰ
عن نفسہ ہوا الاول والاخر
والظاهر والباطن
وهو بكل شیء علیم
وجاءت ہذہ الایۃ
فی سورۃ الحديد الذی فیہ
باس شدید ومنافع للناس
فلذلک بعث صلی اللہ
علیہ وسلم بالسیف
وامرسل رحمة للعلمین۔
(ص ۱۱۳)

آپ کے تابع ہو کر رہ گئیں اور آپ کی سیادت
جو پوشیدہ تھی وہ ظاہر و باہر ہو گئی، پس آپ
اول، آخر، ظاہر اور باطن ہیں نیز نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اشیاء کا علم دے
گئے ہیں، جیسا کہ فرمان رسالت ہے کہ: مجھے
جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں اور اپنے رب کے
متعلق فرمایا کہ اپنے دست قدرت کو میرے
دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا تو میں نے
دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے
میں محسوس کی اور مجھے سب اگلے کچھلوں کا علم
حاصل ہو گیا، پس آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق
سے تخلیق اور نسبت الہی حاصل ہو گئی جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اول،
آخر، ظاہر اور باطن ہے نیز ہر چیز کا علم
رکھنے والا ہے۔ یہ آیت سورہ حدید کی ہے۔
لوہ میں شدید باس ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے
لوہا بڑی کارآمد چیز بھی ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو تلوار دے کر مبعوث فرمایا گیا
اور آپ کو ایسا عظیم الشان رسول بنا کر
بھیجا گیا جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے بارہویں
باب کے صفحہ ۱۸۵ پر فرمایا ہے:

الابابی من کان ملک وسیدا وادم بین الماء والطین واقف

فذاك الرسول الا بطحى محمد له فى العلام جديله وطارف
اتى بزمان السعد فى اخرى المدي وكانت له فى كل عصر مواقف
اتى لا تكسار الدهر يجبر صدعه فاشتت عليه اُلسن وعوارف
اذا سرام امرا لا يكون خلافه وليس لذاك الامر فى الكون صارف

طالب حقیقت کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے، جب ارواحِ محصورہ کو پیدا فرمایا گیا جو زمانے میں تمام اجسام کی تدبیر کرتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدتِ معلومہ کی تعیین کے لیے فلک کی حرکت کے وقت حاصل ہوتا ہے اور زمانے کی حرکت سے بھی پہلے اپنی حقیقت کو ظاہر فرمانے کی خاطر جس رُوحِ مدبرہ کو پیدا کیا وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رُوحِ مبارک ہے۔ اس کے بعد فلک کی حرکات کے وقت اور ارواح کا صدور ہوا۔ اُن کا وجود عالمِ غیب میں تھا اور عالمِ شہادت میں وہ موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے مطلع فرمایا اور خوشخبری دی اور آدم علیہ السلام کی اُس وقت وہی حالت تھی جیسا کہ فرمانِ رسالت ہے کہ وہ مٹی اور پانی میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسمِ باطن کا زمانہ ختم ہوا، جو آپ کے جسمِ اظہر کے وجود تک، یعنی رُوح اور جسم کے ارتباط تک تو زمانے کا حکم اسمِ باطن سے اسمِ ظاہر کی جانب منتقل ہو گیا اور فرخِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اور رُوح کے ساتھ بکلیتہً جلوہ افروز ہو گئے۔

لے ترجمہ، (۱) میرا باپ اُس پر قربان ہو، جو اُس وقت بھی بادشاہ اور سردار تھا، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ (۲) وہ وادیِ بطناء کے رہنے والے رسول ہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کی رفعتِ شان میں ہر قسم کی بزرگی موجود ہے۔ (۳) آپ اُس آخری دور میں جلوہ افروز ہوتے جو بڑا مبارک زمانہ ہے اور ہر زمانے میں آپ کے لیے موافقت ہیں۔ (۴) آپ زمانے کی شکستگی کے وقت تشریف لائے اور اس کے ٹکڑوں کو جمع کیا، جس کے باعث ہر زبان میں ہر ذی علم و دانشمند نے آپ کی تعریف کی۔ (۵) آپ نے جس امر کا قصد فرمایا اُس کا خلاف نہیں ہوا کیونکہ آپ کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔

پس تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے شرائع سے جو کچھ ظاہر ہوا پہلے اُس کی نسبت آپ کی جانب باطنی تھی لیکن آپ کے رونق آرائے گیتی ہو جانے پر اُن کا حکم ظاہر طور پر آپ کی طرف ہوا، اسی لیے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں تاکہ آپ کے اسم باطن اور اسم ظاہر کا فرق ظاہر ہو جائے حالانکہ مشروع واحد ہے اور آپ ہی صاحب شرع ہیں، جیسا کہ خود فرمایا ہے اُنْتُ نَبِیٌّ لِّعَنِیْ نَبِیِّیْنَ تھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسان تھا، نہ یہ فرمایا کہ میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شرع کے بغیر نبوت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے خبر دی ہے کہ میں انبیائے کرام کے موجود ہونے سے پہلے بھی نبی تھا، حالانکہ اس دنیا میں وہ آپ کے نائب اور صاحب شریعت تھے۔

شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ علم میں سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی سیادت ہے اور اسی طرح حکم میں آپ کو سیادت حاصل ہے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اب زندہ ہوتے تو انھیں میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا اسی طرح آپ کا یہ فرمانا کہ دوبارہ نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں قرآن کریم کا حکم جاری کریں گے۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کی سیادت ہر لحاظ سے مسلم اور واضح ہے۔ بعد ازیں قیامت میں شفاعت کا دروازہ کھولنے سے تمام انسانوں پر آپ کی سیادت ثابت کی ہے۔ یہ شرف قیامت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ہی فرمائیں گے کہ انبیاء و مرسلین کو شفاعت کی اجازت بخشی جائے اور ملائکہ کے لیے بھی یہ شفاعت کی جائے گی۔ پس آپ کی اس شفاعت کے باعث ہی ملائکہ و انبیاء و مرسلین و مؤمنین کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی۔ اس لحاظ سے حقیقی شفیع اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔

اس کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کا تذکرہ کیا ہے کہ خرد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعت مطہرہ سے دوسری شریعتوں کو اور اپنے دین سے دوسرے ادیان کو منسوخ کر دیا ہے، خود انھیں سابقہ مرسلین عظام لے کر آئے یا وہ پہلی آسمانی

کتابوں میں موجود تھا۔ پس کسی دین کا کوئی حکم باقی نہیں رہا سوائے اُسی دین کے جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنا مقرر فرمایا ہے اور وہ شریعتِ مصطفویٰ اور آپ کی عام رسالت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی حکم باقی رہ گیا ہو، پس وہ خدا کا حکم نہیں ہے سوائے خاص جزئیہ کے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب وہ خدا کا حکم نہیں ہے کیونکہ خود باری تعالیٰ نے انہیں باطل قرار دے دیا ہے اور وہ اتباع کرنے والے کے لیے محض ایک بوجھ ہے۔ پس یہ آپ کے دین کا تمام ادیان پر غلبہ ہے جیسا کہ نابغہ شاعر نے کہا ہے:

الم تر ان الله اعطاك صولة تری کل ملک دونها يتذبذب

فاتك شمس والملك كواكب اذا طلعت لم يبد منها كوكب

پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ دیگر انبیاء و مرسلین کے ساتھ اور آپ کی شریعت کا دیگر شرائع کے ساتھ اُسی طرح ہے جیسے سورج کے سامنے ستارے، جن کا نور سورج کے نور میں گم ہو جاتا ہے جبکہ سارے ہی برحق اور اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں جیسا کہ مذکور ہوا۔ حضرت شیخ موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور بھی بڑے اوصاف بیان کیے ہیں، جو تحقیق یا تفصیل کا شائق ہے وہ ان کی اصل کتاب کی جانب رجوع کرے۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکّیہ کے چودھویں باب، صفحہ ۱۹

دستگیر کائنات

پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئے، جو شریعت کو متضمن ہوتی ہے، جس کی روشنی میں وہ بنفسہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اُسے شریعت دے کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تو ایسی ہستی کو رسول کہتے ہیں۔ (علیہ وعلیہم السلام)

اے کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا غلبہ مرحمت فرمایا ہے کہ ہر بادشاہ آپ کے سامنے لرزہ بر اندام ہوتا ہے (۲) آپ کی مثال سورج کی ہے اور دوسرے بادشاہ ستارے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سورج جلوہ افروز ہو جائے تو کسی ستارے کا وجود نظر نہیں آتا۔

اُن کے پاس فرشتہ دو حالتوں میں آتا ہے: (۱) یا اُن کے قلب پر نزول کرتا ہے اور اُس نزول کے احوال مختلف ہوتے ہیں (۲) یا خارج میں محترم ہو کر آتا ہے اور نبی کے کان میں اُس کا ارتقاء کرتا ہے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہے اور نبی اُس کی آواز کو بخوبی سنتا ہے یا اُس کی بصارت پر الفا کرتا ہے اور وہ اُسے دیکھتا ہے نیز دیکھنے سے وہی فائدہ حاصل کرتا ہے جو سُننے سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اس کی باقی قوتوں کا حال ہے۔ یہ دروازہ (وحی کا) نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے اس کی جانب ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ایسی شریعت پر عمل کر سکے جو شریعتِ محمدیہ کی ناسخ ہو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا تو وہ بھی شریعتِ محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خاتم الاولیاء قرار پائیں گے کیونکہ یہ شرف بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت کی ولایت اور ولایتِ مختصہ کو ایک ایسے فرد پر ختم فرمائے گا جو نبی اور رسول بھی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روز شمار میں دو حشر ہوں گے۔ ایک انبیاء و مرسلین کے ساتھ بحیثیت ایک رسول کے اور دوسرا ولی کی حیثیت میں اُمتِ محمدیہ کے ساتھ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے اور اس فضیلت میں وہ دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام سے ممتاز ہیں۔

اسی کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیاء و اقطاب کی شان بیان کر کے فرمایا کہ قطب واحد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والاصفات کی روح مبارک ہے اور آپ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اقطاب کے تخلیقِ نوعِ انسان کے وقت سے ممد و معاون ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ جیسا کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کیا گیا کہ

لے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: ۷

سرور کھوں کہ مالک و مولیٰ کھوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کھوں تجھے
جرمان نصیب ہوں تجھے اُمید گہ کھوں جانِ مراد و کانِ تمنا کھوں تجھے

(باقی بر صفحہ آئندہ)

یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا: میں تو اُس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ اس کے بعد سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رُوح مبارک کے اس عالم آبِ گل میں مختلہ مظاہر ہیں اور اُن میں سے اکمل مظاہر کے نام قطبِ زمان، افرادِ اواخرِ مملکتِ ولایت محمدی ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختلہ ولایتِ عامہ ہیں۔

شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحاتِ مکیہ کے انقیسویں باب فضائلِ اہل بیت میں صفحہ ۲۵۵ پر اس امر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس شرف اور جن عنایات سے نوازا ہے اُن کی رعایت سے آپ کے اہل بیت اطہار کی فضیلت کیا ہے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالص عبد ہیں اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پاک صاف فرما دیا اور ان سے ہر قسم کی رِجس کو دُور کر دیا اور جس ہر معیوب چیز کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یوں فرمایا ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۝

اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو! کہ تم سے
ہر ناپاکی دُور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب
ستھرا کر دے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

گلزارِ قدس کا گلِ رنگیں ادا کون
اس مُردہ دل کو مُردہ حیاتِ ابد کا دُور
تیرے تو وصفِ عیبِ تنہا ہی سے ہیں بری
لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا
اے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: ۷

تیری نسلِ پاک میں بچہ بچہ نور کا
تو ہے عینِ نور، تیرا سب گھرا نا نور کا

پس اُن حضرات کی جانب نہیں نسبت کر سکتے مگر پاکیزگی کی اور جس چیز کی اُن کی طرف نسبت کی گئی ہے، وہ اُن کے حال کے عین مطابق ہے اور اُن کی طرف وہی منسوب ہو گا جسے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی نیز سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی طہارت، حفظِ الہی اور گناہوں سے بچنے کی شہادت دی گئی ہے۔ علاوہ بریں اُن کے متعلق فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ سلمان ہم سے اور ہمارے اہل بیت سے ہے، (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔

اہل بیت اطہار کے حق میں اللہ رب العزت نے طہارت اور ذہابِ رِجس کی گواہی دی ہے اور حیب اُن کی جانب مقدس و مطہر کے سوا کوئی دوسرا منسوب ہی نہیں ہو سکتا اور اس نسبت کے باعث آدمی عنایتِ الہی کا اس درجہ مستحق ہو جاتا ہے تو خود اہل بیت کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کیا گمان ہونا چاہیے؟ معلوم ہوا کہ وہ حضرات نہ صرف پاک صاف بلکہ عین طہارت ہیں۔ پس یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو اس اہمیت کریمہ میں بھی شامل فرمایا ہو گا، جو یوں ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ ۖ

ہاں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے
انگوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔

کیونکہ گناہوں سے بڑی اور کون سی گندگی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ نامدار، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مغفرت کے ساتھ اُس چیز سے پاک صاف رکھا جو ہمارے حق میں گناہ ہے اور ایسا کوئی فعل اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرزد ہو تو خواہ وہ دیکھنے والے کو صورتاً گناہ نظر آئے لیکن حقیقت میں گناہ ہرگز نہیں ہو گا کیونکہ اُس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شرعاً ہماری جانب سے کوئی مذمت لاحق نہیں ہو سکتی، بصورتِ دیگر اگر حقیقت میں وہ گناہ ہوتا تو وہی مذمت لاحق ہو سکتی جو گناہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اس صورت

میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ : اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا اور انہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے ، کیونکہ صادق آئے گا ؛

پس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولادِ امجاد اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ، جو قیامت تک زمرہ اہل بیت میں ہیں وہ مذکورہ آیت کریمہ کے حکم مغفرت میں بھی شامل ہیں ۔ ایسے جملہ حضرات فخر کون و مکاں ، افتخار زمین و زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرف اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کے ساتھ خاص طور پر پاک صاف ہیں اور اہل بیت کے اس خصوصی شرف کا مظاہرہ حقیقت میں بروز قیامت ہوگا کیونکہ یہ حضرات قدسی صفات قبروں سے مغفور و مرحوم ہی اٹھائے جائیں گے اور اس وارِ عمل و مکافات میں اگر ان میں سے کسی پر حد قائم کرنا لازم آئے تو تا تب کی طرح اُس پر حد قائم کی جائے گی جس نے زنا کیا یا چوری کی یا شراب پی اور اُس کی شکایت حاکم تک پہنچی اور حاکم اُس پر اس حالت میں حد قائم کر رہا ہو کہ اُس نے توبہ کر لی ہے ۔ ایسے کی مغفرت چونکہ ثابت ہے لہذا اُس کی مذمت جائز نہیں ۔ پس ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے کلام معجز نظام پر ایمان رکھتا ہے اُس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس ارشادِ عالی کی دل و جان سے تصدیق کرے جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا ۵ ۱

اور اہل بیت اطہار سے اگر کوئی ناشدنی فعل سرزد ہو جائے تو اُس کے متعلق یہی گمان کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ گناہ جائز نہیں ہے کہ ایسے کسی امر کے باعث اُن کی مذمت کرے اور نہ کسی ایسے فعل کے سبب جو کارِ خیر ہو لیکن وہ اُسے نہ کر سکے تو اُن کے تقویٰ و طہارت کی پاک صاف چادر کو داغدار کرنے کا وبال اپنے

سر نہ لے کیونکہ انھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک کیا ہے کہ ہر طرح کی گندگی اُن سے دُور فرادی ہے۔
یہ اُن کے حال پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا
فرمائے اور وہ بڑا فضل والا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خبر وارد ہوئی وہ
حق اور صحیح ہے، واقعی اُن کا وہی درجہ اور مرتبہ ہے۔ اگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی حالت ایسی ہوتی جو ظاہری شرع کے نزدیک پسندیدہ نہیں بلکہ قابلِ مذمت ہے۔ اس سے
یہ بات لازم آتی ہے کہ اہل بیت کی جانب ایسے حضرات بھی منسوب ہیں جن سے رجس دُور نہیں
ہوئی ہے اور اُس منسوب کے رجس کے مطابق حضرات اہل بیت کی شان پر حرف آئے گا
حالانکہ اُن مقدس ہستیوں کی طہارت نص قطعی سے ثابت ہے اور سلمان فارسی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بھی بالیقین اہل بیت سے ہیں۔ یس اُمید کرتا ہوں کہ عقیل و سلمان کے عقب کو بھی
یہ شرف حاصل ہوگا جیسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد و عقب اور اہل بیت
کے آزاد کردہ غلاموں کو یہ شرف حاصل ہے اور دوستو! اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق کا یہ مرتبہ ہے کہ اہل فضل و کمال کی جانب
منسوب ہونے والا بھی اُس کمال سے منسوب ہو جاتا ہے حالانکہ یہ شرف اُن کے نفوس کی
وجہ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی انھیں منتخب کر کے شرافت کی پوشاک پہناتا ہے۔
پس اے اللہ کے دوست! اُس شخص کا مقام کتنا بلند ہوگا جو اُس ذات کی طرف منسوب ہو
جس کے لیے عنایت، بزرگی اور شرف خود اپنی ذات سے ہے اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت
کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو صرف اُسی کی جانب منسوب ہیں، اُن کی یہی شان
کہ آخرت میں کسی مخلوق کو اُن پر غلبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو ابلیس
علیہ اللعنة سے فرما دیا تھا کہ:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانٌ - ۱
بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو
نہیں۔

اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں نیک لوگوں کے سوا اور کسی کی اللہ رب العزت کی طرف نسبت نہیں ملتی اور دوسری قسم کے لوگوں کے لیے صرف عباد کا لفظ آتا ہے۔ پس کیا خیال ہے تمہارا ان ہستیوں کے بارے میں جو گناہوں سے بچائے ہوئے ہیں اور اپنے آقا و مولیٰ کی قائم کردہ حدود اور نشانات پر قائم رہتے ہیں۔ وہ اعلیٰ مراتب پر فائز اور کامل انسان ہیں۔

اس کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تیرے نزدیک اہل بیت اطہار کا مرتبہ واضح ہو چکا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مرحمت فرمایا ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان سے واقع ہونے والے کسی فعل پر ان کی مذمت کرے کیونکہ رب کریم نے انہیں پاک صاف فرمایا ہے، ان حالات میں مذمت کرنے والے کو جان لینا چاہیے کہ یہ مذمت اُسی کی جانب لوٹے گی کیونکہ اُس کی نظر میں اگر ان حضرات قدسی صفات نے کوئی ظلم کیا ہے تو وہ فعل ان کے گمان میں ظلم ہو گا لیکن حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے ہرگز ظلم نہیں ہو گا، خواہ ظاہر شرع بھی اُس کی ادائیگی کا فیصلہ کرے، کیونکہ ان حضرات کا ہمارے اوپر ظلم کرنا حقیقت میں تقدیر الہی کے جاری ہونے کی طرح ہے، جیسے تقدیر الہی سے جان و مال کے غرق ہونے، جل جانے اور دوسرے طریقوں سے ہلاکت کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں یا جیسے کسی کا کوئی دوست یا عزیز جل کر مر جائے یا خود اُسے کوئی صدمہ پہنچے۔ چونکہ یہ اُس کی رضا و رغبت کے مطابق نہیں، اس کے باوجود اُسے یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ قضائے الہی کی مذمت کرنے بیٹھ جائے بلکہ اُس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مواقع پر تسلیم و رضا کا دامن مضبوطی سے تھامے، اگر اس سے بچلے درجے پر رہنا ہے تو صبر کرے اور بلند منصب حاصل ہے تو مصائب پر بھی شکر ادا کرے کیونکہ مصائب کی برداشت کے مطابق نعمتیں ہیں۔ مذکورہ راستوں کے علاوہ اور کوئی طرز عمل اختیار کرنا بہتر نہیں ہے۔ علاوہ بریں دیگر راستوں میں تنگی، سختی، رضا اُسی پر راضی نہ رہنا اور سوء ادب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

پس مسلمان کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی طرف سے جو ان کے جان

مال، اولاد کے ساتھ یا کسی معاملے میں ایسا سلوک ہو جائے جو اُس کی مرضی کے خلاف ہو، تو اُسے چاہیے کہ تسلیم و رضا اور صبر کے ساتھ اُسے برداشت کرے اور اُن کی ذرا سی بھی مذمت نہ کرے۔ اگرچہ اُس پر شرعی احکام جاری ہوں مگر یہ اُن کے شرف و مجد کو زائل نہیں کرتے بلکہ تقدیر کی طرح جاری ہوتے ہیں۔

ہم نے اہل بیت کی مذمت کرنے سے بایں وجہ منع کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اُن حضرات کو ہم سے ممتاز کیا ہے اور ہم اُن کے قطعاً ہم پتہ نہیں ہیں۔ رہا حقوق مشروعہ کے ادا کرنے کا معاملہ، تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہود سے قرض لیتے اور مطالبہ کرتے تو آپ بطریق احسن ادا فرما دیتے۔ اگر یہودی بدسلوکی بھی کرتے تب بھی آپ صحابہ کرام کو منع فرما دیتے کہ اس سے درگزر کرو اور کچھ نہ کہو، کیونکہ صاحب حق کو کلام کی گنجائش ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بھی چوری کرے تو میں اُس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھا تھا۔ پس احکام الہی کا وضع کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے چاہے اور جس حال میں چاہے وضع فرمائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، لیکن بایں ہمہ اللہ جل شانہ نے اُن کی مذمت نہیں فرمائی ہے۔

یہاں کلام ہمارے حقوق کے بارے میں ہے اور ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنے حقوق کا اُن حضرات سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اُن سے دستبردار ہو سکتے ہیں جبکہ عام لوگوں سے حقوق میں دست بردار ہو جانا ہی افضل ہے تو اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک کرنا تو اور بھی فضیلت رکھتا ہے۔ جب ہمیں کسی مسلمان کی بھی مذمت نہیں کرنی چاہیے تو اہل بیت کی مذمت کس منہ سے کریں؟ اگر ہم اہل بیت سے اپنے حقوق طلب کریں اور جو اُنھوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو اُس سے درگزر کریں تو اس حُسن سلوک کے عوض بارگاہ خداوندی سے بہت بڑا انعام اور قُرب الہی نصیب ہو گا کیونکہ سداور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ہم سے اور کوئی چیز طلب نہیں فرمائی

کہ آپ کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ صلہ رحمی ایک اہم چیز ہے، لیکن جو شخص اپنے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوال کو پورا نہ کرے جبکہ وہ اس پر قادر ہے تو کل بروز قیامت کس منہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گا یا کس طرح اُن سے شفاعت کی اُمید رکھے گا جبکہ اُس نے اپنے نبی کے ایک مطالبے کو پورا نہ کیا، جو آپ نے اپنے قرابت داروں سے محبت رکھنے کے بارے میں کیا ہے۔

جائے غور ہے کہ جب قرابت داروں کی بارگاہ رسالت میں اتنی اہمیت ہے تو اہل بیت اطہار کی اہمیت کتنی ہوگی جبکہ یہ مجملہ حضرات قرابت میں بھی خاص الخاص ہیں۔ علاوہ بریں قرآن کریم میں لفظ مَوَدَّتْ آیا ہے اور اس کا مطلب محبت پر قائم رہنا ہے، کیونکہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اُسے ہر حال میں حرزِ جاں بنائے رکھتا ہے اور جب اہل بیت کی محبت کو ساتھ بنا کر رکھا جائے گا، تو اُن سے جو حق تلفی بھی ہو جائے گی، تو بھلا وہ اُن سے کس طرح مطالبہ کرے گا؟ وہ مطالبے کو ترک کر دے گا اور مطالبے پر محبت کو ترجیح دے گا۔ کسی محبت صادق نے کیا خوب کہا ہے کہ محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے۔ یہ محبت کرنے کے بارے میں کہا ہے تو مَوَدَّتْ میں کیا حال ہونا چاہیے؟ اس میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام وَدُود بھی ہے اور آخرت میں اس کا بالفعل اثر حاصل ہونے کے سوا اس کے ثبوت کا کوئی اور معنی نہیں ہے اور لوگوں میں سے ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جو حکمت الہی کا مقتضی ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے اسی بات کو یوں ادا کیا ہے: ۵

أَحِبُّ لِحُبِّهَا السُّودَ اِنْ حَتَّى
أَحِبُّ لِحُبِّهَا سَوْدَ الْكِلَابِ

اور شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو یوں باندھا ہے: ۵

اے اپنے محبوب کی محبت میں کالے کھوٹے لوگوں سے بھی محبت کر، حتیٰ کہ کالے کتوں سے بھی محبت رکھ۔

احب لحبك الحيشان طرا

واعشق لاسبك البدر المنير

کہتے ہیں کہ کالے گتے مجنوں کو کاٹتے تھے لیکن وہ لیلیٰ سے رنگ کی مناسبت رکھنے کے باعث اُن سے بھی محبت کرتا تھا۔ اُس محب کا یہ حال ایسے شخص کی محبت میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور اُس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ اُس کے ذریعے قُرب الہی حاصل ہوتا ہے، پھر بھی یہ سلوک ہے جو مذکور ہوا اور یہ سچی محبت اور دلی مودت کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر تجھے اللہ جل شانہ اور اُس کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو یقیناً تو اہل بیت نبی سے محبت رکھے گا اور یہ تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اہل بیت سے تیری طبیعت اور مرضی کے خلاف اگر کوئی بات صادر ہو جائے تو تیرے لیے وہ بہتر ہے اور اُس کے وقوع سے تجھے خوش ہونا چاہیے تجھے اس کا علم اُس وقت ہوگا جب اُس کے رُوبرو جائے گا جس کے باعث ان حضرات سے محبت کی ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ تیرے دل میں اُن کی محبت اور قدر و منزلت رکھی جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تجھے چاہیے کہ اس نعمت پر شکر گزار رہے کیونکہ اُن پاک زبانوں پر تیرا ذکر آیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل طہارت سے نوازا ہے، جس کی حقیقت تک تیرے علم کی ہرگز رسائی نہیں ہے اور جب ہم تجھے اہل بیت کرام کے ساتھ، جن کا تو محتاج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کے صدقے تجھے ہدایت ملی ہے، اس حالت کے خلاف دیکھیں تو اُس وقت تیری محبت کا یقین کس طرح کیا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کہ تو مجھ سے محبت رکھنے اور میرے حقوق کی رعایت کرنے کا گمان رکھتا تھا مالاںکہ میرے اہل بیت کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے کہ اُن کے متعلق بدگمانی رکھتا تھا اور اُن کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا تھا۔

خدا کی قسم یہ ایمان کی خرابی، اللہ تعالیٰ کی خفی تدبیر اور اُس کی ڈھیل کے

لہ اپنی محبت کے باعث سارے حبشیوں سے محبت کر اور اپنے نام کے باعث بدر منیر کا عاشق ہو جا۔

سوا اور کچھ نہیں، حالانکہ تجھے اس کا علم تک نہیں۔ تو یہی خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین و شرع کی حفاظت کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے حق کی طلب میں کہہ رہا ہے اور تو اپنے خیال میں وہی طلب کر رہا ہے جس کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ نے مباح ٹھہرایا ہے۔ لیکن اس طلب میں ذمہ، بغض، حسد اور اہل بیت پر اپنی ذات کو ترجیح دینا بھی تو شامل ہے جس کا تجھے شعور نہیں۔ اس مہلک بیماری کا شافی علاج یہی ہے کہ اہل بیت اطہار پر تو اپنے کسی حق کا دل میں خیال تک نہ لا اور اپنے حق سے دست بردار ہو جا، تاکہ اُس کی طلب میں مذکورہ خرابیاں داخل نہ ہونے پائیں۔ آخر تو مسلمانوں کے حکام سے تو ہے نہیں کہ تجھ پر حدود کا قائم کرنا، مظلوم کا انصاف کرنا اور حقدار کو اُس کا حق دلوانا ضروری ٹھہرے۔ اگر تو حاکم ہے اور مذکورہ حقوق کا پورا کرنا تیرے ذمے لازمی ہے اور محکوم علیہ اہل بیت سے ہے، تو تجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صاحبِ حق سے کہے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اُس کے انکار کی صورت میں شرع کا حکم نافذ کرنا تجھ پر ضروری ہے۔ اُسے دوستِ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل بیت کے جو منازل و مراتب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے اُن کا کشف کر دے تو تو اُن کا غلام ہونا بھی دل و جان سے پسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو رشد و ہدایت سے معمور فرمائے (امین)۔ لہ

شریعتِ محمدیہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکبہ کے چھتیسویں باب، صفحہ ۲۹۰ پر تحریر فرمایا ہے۔ جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے کہ جب شرعِ محمدی تمام شرائع کو متضمن ہے اور اُن کا اس دنیا میں شریعتِ محمدیہ کے علاوہ کوئی حکم نافذ نہیں کیونکہ جس حکم کی شرعِ محمدی تقریر کرے وہی حکم ثابت ہوتا ہے۔ ہم ان احکام پر اس وجہ سے عمل کرتے ہیں کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر

لہ کس زباں سے ہو بیانِ عز و شانِ اہلبیت
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں
ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں
مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدحِ خوانِ اہلبیت
آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلبیت
قدروالے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلبیت
(حسن بریلوی)

فرمائی ہے اور شرائع سابقہ کے احکام پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ اُن ازمہ کے مخصوص انبیاء کرام نے اُن کی اپنے زمانوں میں تقریر فرمائی تھی۔ چونکہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جامع کلمات (جامع الکلم) دیے گئے ہیں لہذا اس وقت دنیا کے سارے مکلف، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، سب شرعِ محمدی پر عمل کریں گے کیونکہ اب شرعِ محمدی کے سوا دنیا میں کوئی اور شرع باقی نہیں ہے۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موضوع کے متعلق کتنے ہی فوائد اور بھی بیان فرماتے ہیں جو اُن پر مطلع ہونا چاہیے وہ اُن کی تصنیف لطیف فتوحاتِ مکیہ کی جانب رجوع کرے۔

شفاعتِ کبریٰ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحاتِ مکیہ کے باب ۶۴، صفحہ ۴۰۸ پر شفیح المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعتِ عظمیٰ کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگ کھڑے ہوں گے اور زمین وسیع کر دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، سورج گھٹا جائے گا، چاند کی روشنی زائل ہو جائے گی، چوپائے اکٹھے کیے جائیں گے، خندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، رُوہیں اجسام میں داخل ہو جائیں گی، فرشتے آسمان کے کناروں پر اتر پڑیں گے، پروردگارِ عالم کی خاص تجلیات بادلوں کے جھگڑوں سے ظاہر ہوں گی، ایک منادی پکارے گا کہ اے نیک بختو! اُس وقت اہلِ محشر کی تین جماعتیں ہو جائیں گی۔ لوگ ایک دوسرے سے اتنے مل جائیں گے کہ گرمی اور زیادہ محسوس ہونے لگے گی۔ بعض آدمی اپنے منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ یہ مصیبت سب سے سخت اور معاملہ انتہائی نازک ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے اور بعض دھیمی آوازوں کے سوا کسی کی آواز تک سنا ئی نہیں دے گی۔ اُس وقت جہنم کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں کو اس مصیبت میں پڑے ہوئے کافی عرصہ ہو جائیگا اور انھیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اُن کے ساتھ آج کیا ارادہ ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ! ہم سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہو کر اُن سے عرض کریں کہ جس سختی میں ہم مبتلا ہیں اُس سے نجات دلوانے

کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں اور ہمیں آرام وہ جگہ کی طرف لے جائیں
کیونکہ اس مصیبت کی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں بہت عرصہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام
کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا مدعا عرض کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ
آج کے روز میرا رب سخت غضب کے عالم میں ہے اور اس سے پہلے اتنے غضب کا
اُس نے کبھی اظہار نہیں فرمایا اور نہ ایسا غضب اس کے بعد ظاہر فرمائے گا۔ اس کے
بعد اپنی ظاہری لغزش بیان کر کے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سوال کرتے
ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔

ادھر سے مایوس ہونے پر سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ
میں حاضر ہو جائیں گے اور اُن سے بھی اپنا یہی مدعا عرض کریں گے لیکن وہ بھی حضرت
آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے اور اپنی اُس دُعا کو لغزش شمار کریں گے جو انھوں
نے اپنی قوم کے لیے کی تھی کہ یہ لوگ فجار و کفار ہی کو جنم دیں گے اور نوح علیہ السلام
جو مواخذہ ہوا، اُس کا سبب محض سخت دُعا کرنا ہی نہیں تھا بلکہ اُن کے بارے میں
یہ فرمان تھا کہ یہ لوگ فجار اور کفار کے سوا اور کسی کو جنم نہیں دیں گے۔

اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور
مثل سابق اُن کے سامنے اپنا مدعا عرض کریں گے۔ آپ بھی حضرت آدم اور حضرت نوح
علیہما السلام کی طرح جواب دیں گے اور تین ایسے واقعات کا ذکر فرمائیں گے جو حقیقت
میں مبنی بر صداقت تھے لیکن ظاہر میں سامع کی مراد کے مطابق نہیں تھے، چنانچہ اُن کے
پیش نظر انکار فرمائیں گے۔ ازاں بعد لوگ حضرت موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ علیہما السلام کی
خدمت میں پہنچیں گے اور اپنی عرض کا اُن سے اظہار کریں گے تو وہ بھی آدم علیہ السلام کی
طرح جواب دیں گے بالآخر وہ سارا مجمع سید الانبیاء، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
بارگاہ بکیں پناہ میں حاضر ہو جائے گا، جو قیامت کے روز جملہ بنی نوع انسان کے
سردار ہوں گے۔ جب آپ کی بارگاہ میں بھی وہی مدعا عرض کریں گے جو دیگر انبیائے کرام
کے حضور عرض کر چکے تھے تو سماعت فرمانے کے بعد فرزد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ارشاد فرمائیں گے، واقعی اس کام کے لیے میں ہوں۔

یہی تو مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے روز آپ کو رحمت فرمایا جائے گا۔ پس آپ وہاں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گے اور ایسے کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء بیان کریں گے جو صرف آپ کی طرف اُس وقت الہام فرمائے جائیں گے اور اس سے پہلے اُن سے کوئی آگاہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ بارگاہِ خداوندی میں یہ شفاعت کریں گے کہ مخلوق کے لیے بابِ شفاعت کھول دیا جائے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اے مجددِ مائتہ حاضرہ قدس سرہ نے اسی لیے فرمایا ہے: ہ

پھر کے گلی گلی تباہ، ٹوکرے سب کی کھائے کیوں

دل کو جو عقل دے خدا، اُن کی گلی سے جلتے کیوں

(حاشیہ صفحہ ۷۸) اے شفاعت کا تذکرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں ملاحظہ ہو:

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے

ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے

آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے

نعمتِ خدا اپنے سدرے میں ٹٹاتے جائیں گے

خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے

جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے

خرمنِ عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے

لوحِ دل سے نقشِ غم کو اب مٹاتے جائیں گے

آبِ کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے

مصرعِ جوشِ بلا سے جھملا تے جائیں گے

دبِ سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے

پیشِ حقِ مُشرودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے

دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ

گشتگانِ گرمیِ محشر کو وہ جانِ مسیح

کچھ خبر بھی ہے فقیرِ آج وہ دن ہے کہ وہ

خاک اُفتادو بس اُن کے آنے ہی کی دیر ہے

موسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو

لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف

ہم نکھ کھو لو غمزدو، دیکھو وہ گریباں آئے ہیں

سوختہ جانوں پہ وہ پرجوشِ رحمت آئے ہیں

آفتاب اُن کا ہی چمکے گا جب اُوروں کے چراغ

پاتے کو باں پل سے گزریں گے تری آواز پر

خاک ہو جائیں عدو جل کر گرہم تو رخصتا !

دم میں جب تک دم ہے ذکر اُن کا سناتے جائیں گے

اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو شرف قبولیت بخشے ہوتے شفاعت کا دروازہ کھول دے گا اور ملائکہ، انبیاء و مرسلین اور مومنین کو شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت ہو جائے گی۔ اُس وقت سب پر بخوبی واضح ہو جائے گا کہ سارے انسانوں کے سردار واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ و مرسلین کے لیے شفاعت کی اجازت طلب کریں گے لیکن اس کے باوجود آپ نے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے صرف یہی فرمایا ہے کہ میں سَيِّدُ النَّاسِ ہوں اور سَيِّدُ الْخَلْقِ نہیں فرمایا۔ لیکن حقیقت پر نظر کی جائے تو:

فتدخل الملائكة في ذلك مع
ظهور سلطانه في ذلك اليوم
على جميع من ملك وغيره و
ذلك انه صلى الله عليه
وسلم جمع له بين مقامات
الانبياء كلهم ولم يكن
ظهر له على الملائكة ما
ظهر لآدم عليه السلام عليهم
من اختصاصه بعلم الاسماء
كلها فاذا كان ذلك اليوم
افتقر اليه الجميع من
الملائكة والناس آدم فمن
دونه في فتح باب الشفاعة وظهر ما له
من الجاه عند الله تعالى اذ كان القهر
الالهى والجبروت الاعظم قد اخبر الجميع
فرشتے بھی اسی زمرے میں داخل ہیں کیونکہ اس روز
سب پر آپ کی بادشاہی ظاہر ہو جائے گی، جن میں
فرشتے وغیرہ بھی شامل ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیائے کرام کے مقامات کے
جامع ہیں۔ اگرچہ فرشتوں پر آپ کی برتری کا
اس طرح اظہار نہیں فرمایا گیا جس طرح آدم
علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا تھا، کیونکہ انھیں
تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے تھے۔
لیکن قیامت کے روز باب شفاعت کھلوانے
میں فرشتے اور انسان، آدم علیہ السلام
اور دیگر انبیائے کرام، سارے ہی آپ کے
محتاج ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا
جو منصب ہے وہ اُس روز ظاہر ہو گا
جبکہ قہر الہی اور جبروت اعظم کو دیکھ کر
سب گونگے اور مہربلب ہو جائیں گے۔

وكان هذا المقام مثل مقام آدم عليه السلام في يوم اشتدت الحاجة فيه مع ما ذكر من الغضب الالهي الذي تجلى فيه الحق في ذلك اليوم ولم يظهر مثل هذه الصفة فيما جرى من قضية آدم عليه السلام فدل بالجموع على عظم قدره صلى الله عليه وسلم حيث اقدم مع هذه الصفة الغضبية الالهية على مناجاة الحق في مسائل فيه فاجابه الحق سبحانه - (ص ۱۱۹) قبوليت بنشا۔

یہ مقام آدم علیہ السلام کے مقام کی طرح ہے بلکہ اس سے بدرجہا عظیم کیونکہ اس سخت روز ساری مخلوق کو آپ کی حاجت ہوگی، جس روز کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا۔ لیکن آدم علیہ السلام کے واقعے میں محبوبیت کی صفت کا ایسا اظہار نہیں پایا جاتا۔ پس مجموعی طور پر یہ آپ کے منصب کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کے اظہار کے موقع پر آگے بڑھ کر باری تعالیٰ سے مناجات کی، سوال کیا اور ربِّ ذوالجلال نے آپ کے سوال کو شرف

اس شفاعتِ کبریٰ کے بعد میزان قائم ہوگی، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط قائم کیا جائے گا اور عام شفاعت شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد شیخ علیہ الرحمہ نے شفاعت کرنے والوں اور احوالِ قیامت کا ذکر کیا ہے۔

درجاتِ جنت اور وسیلہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکیتہ کے باب ۶۵ صفحہ ۴۱۶ پر فرمایا ہے: یہ جان لینا چاہیے کہ بلحاظ اعمال جنت کے تنویر درجے ہیں جو کم و بیش نہیں جیسے دوزخ کے تنویر درجے ہیں اور ہر ایک درجہ مختلف منزلوں میں منقسم ہے۔ ہم یہاں ان منازل کا ذکر کرتے ہیں جو امتِ محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں اور جن کے باعث اس امتِ مرحومہ کو دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ اللہ جلّ شانہ نے خود اپنے کلام معجز نظام میں فرمایا ہے کہ یہ بہتر امت ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمائی گئی۔

مذکورہ تنویر درجے آٹھوں جنتوں میں سے ہر جنت میں ہیں اور جنت کا ہر درجہ آرام کی جگہ ہے، جن میں سب سے بلند جنتِ عدن ہے، جو سب جنتوں کی سردار ہے۔

اس میں ایک بلند ٹیلہ ہے، جس میں دیدارِ الہی کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوا کرے گا۔ یہ سب جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے جیسے بادشاہ کا مکان جس کے گرداگرد آٹھ دیواریں ہوں اور ہر دو دیواروں کے درمیان باغیچہ ہو۔ وہ جنت جو جنتِ عدن سے قریب تر ہے اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ یہ جنتِ عدن کے بعد باقی تمام جنتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تیسری جنت الخلد، چوتھی جنت النعیم، پانچویں جنت الماوی، چھٹی دارالسلام اور ساتویں کا نام دارالمقامہ ہے۔

جنتِ عدن میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے جس کی خاطر اُمّتِ محمدیہ بھی دُعائیں کرتی ہے کہ وہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں پوشیدہ حکمت ہے حالانکہ ہم سب نے ہر سعادت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے سبب پائی ہے اور آپ ہی کے باعث یہ اُمت باقی جملہ اُمتوں سے بہتر ہے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے اور آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری اُمت بنایا جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے۔ اور سلسلہ نبوت کو آپ پر ختم کر دیا ہے اور اس فضیلت کی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے، جس کے ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص راستہ ہو گا جس کے ذریعے ہم پروردگارِ عالم سے ہمکلامی کا شرف حاصل کریں گے اور اللہ جلّ شانہ ہم سے خاص گفتگو فرمائے گا۔ اسی طرح ہر مخلوق کے لیے اپنے رب کی طرف ایک خاص راستہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دُعائیا کریں، حتیٰ کہ آپ وہاں رونق افروز ہو جائیں جس کے بارے میں حکمتِ الہی اسی کی مقتضی ہوئی کہ وہ آپ کو اُمتِ مرحومہ کی دُعائوں کے باعث مرحمت فرمایا جائے گا۔ اُمتِ وسطیٰ کے اس شرف پر غور کرنا چاہیے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی اور اس اُمت کو کرامت بخشی ہے۔

جنت کے پانچ ہزار ایک سو پانچ درجے بنتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے زیادہ ہیں جبکہ اس تعداد پر اصل ہونے کے باعث تمام اہل کشف کا اتفاق ہے اور وہ زائد درجے انواع و اجناس کا مقام رکھتے ہیں۔ اُمتِ محمدیہ ان درجات میں بھی دیگر اُمت سے

متنازع ہے۔ چنانچہ بارہ درجے ایسے ہیں جو صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہیں، باقی امتیں اُن میں شریک نہیں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخرت میں وسیلہ اور شفاعت کے ذریعے باقی جملہ انبیائے کرام پر فضیلت دی گئی ہے اور دنیا میں چھ ایسی چیزوں کے باعث آپ فضیلت دیے گئے ہیں جو دیگر انبیاء و مرسلین کو مرحمت نہیں فرمائی گئیں، جیسا کہ امام محمد مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح میں صحیح حدیث ہے، جس میں یہ چھ امر بیان فرماتے گئے ہیں (۱) آپ کی رسالت کا عام ہونا یعنی ساری مخلوق کے لیے نبی بن کر آنا۔ (۲) آپ کے لیے غنائم کا حلال ہونا (۳) رعب کے ساتھ آپ کی مدد فرمانا (۴) ساری زمین کا آپ کے لیے مسجد بنا دینا (۵) مٹی کو آپ کے لیے پاک قرار دینا (۶) آپ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمانا۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب ۶۹، صفحہ ۶۸ پر درود پاک لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے برحق کلام میں فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

مسلمانوں نے اپنے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درود کی کیفیت دریا کی جس کا اُنھیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجا کرو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُنھیں درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی کہ مسلمان بایں الفاظ درود بھیجا کریں:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ أٰلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَسِيدٌ مَّحِيدٌ
اے اللہ! درود بھیج حضرت محمد پر اور آل محمد پر
جیسے تُو نے حضرت ابراہیم اور اُن کی
آل پر صلوة بھیجی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا
اور حقیقی بزرگی والا ہے۔

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جس طرح درود بھیجی گئی اُس کے مانند درود بھیجنے کی دعا کی گئی ہے۔ اگر تم کہنے لگو کہ اس حدیث سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہاں یہ طلب کی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلوٰۃ بھیج۔ تو یہیں ”نوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا قرآن کریم میں حکم نہیں دیا ہے لیکن سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو درود بغرض تعلیم بتایا اُس میں آل محمد پر درود بھیجنے کا اضافہ موجود ہے۔ علاوہ بریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہیں کیا کہ آپ پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلوٰۃ بھیجی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ عنایت ہے اور آپ کو ایسے امور سے مختص فرمایا گیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت نہیں ہوئے، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام۔ آپ کو اس منصب کا حاصل ہونا اسی اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ (خاص رحمت) کے باعث ہے۔ دریں حالات آقا کے کائنات کس طرح یہ چاہتے کہ آپ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلوٰۃ بھیجی جائے؟ بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو ہمیں بیان کرنے لگا ہوں (انشاء اللہ تعالیٰ) کہ کسی شخص پر صلوٰۃ کے لیے کبھی تو اُسے معین کیا جاتا ہے اور کبھی کسی دوسرے کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ پس جو صلوٰۃ دوسرے کی نسبت کے اعتبار سے ہے یہ مجموع کے لیے ہے، کیونکہ مجموع کا حکم واحد کے لیے نہیں ہوتا جبکہ وہ منفرد ہو۔

اس کے بعد شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل کی تفسیر و تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے، جس کے نقل کرنے کی یہاں چنداں ضرورت نہیں۔ چونکہ اُس میں بے شمار فوائد ہیں لہذا خواہشمند کو اصل کتاب کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ مذکورہ صلوٰۃ مجموع کے لحاظ سے ہے اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلحاظ زمانہ مقدم ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام انسانوں کے سردار ہوں گے، جس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے

نزدیک اتنا بلند ہو اُس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثل صلوٰۃ کس طرح ہو سکتی ہے ! لہذا اصل بات وہی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے اور یہ مسئلہ ہمارے وقائع سے واقعۃً الہیہ ہے۔ والحمد للہ علی ذالک۔

فضیلتِ جمعہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ کے باب ۱۷، صفحہ ۸۱۲ پر جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایسا دن ہے جس کی مثل کوئی اور دن نہیں کیونکہ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہو، یہ اُس سے بہتر ہے۔ اس روز کے بارے میں اُمم سابقہ میں اختلاف واقع ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی جانب ہدایت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی سے اس کا ذکر نہ فرمایا۔ ایسا کمال کی مناسبت سے کیا گیا کیونکہ آپ سارے انبیائے کرام سے اکمل اور آپ کی اُمت ساری اُمتوں سے اکمل ہے۔ دیگر اُمتوں کے لیے اُن کے انبیاء سے اس لیے روزِ جمعہ کی وضاحت نہیں فرمائی گئی تھی کہ وہ اُمتیں اُس کے لیے مستعد نہ تھیں اور کمال میں اُن کا یہ درجہ نہیں تھا کہ اُنہیں افضل دن مرحمت فرمایا جاتا۔ جمعۃ المبارک کی یہ اُمت اس لیے حقدار ہے کہ ان کا نبی دیگر انبیاء سے اور یہ اُمت دیگر اُمم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ والحمد للہ الذی اصطفانا۔

وصال شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ کی جلد دوم، باب ۳، صفحہ ۷ پر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس دین کی جو منسوخ نہ ہو سکے اور اُس شریعتِ مطہرہ کی جو تبدیل نہ ہو سکے، مکمل تبلیغ کرنے کے بعد وفات پائی اور سارے مرسلین بھی اسی شریعت میں داخل ہو کر اسے قائم کرتے رہے تھے اور آپ سے پہلے زمین کسی زندہ رسول سے خالی نہیں رہی، جو جسمانی طور پر موجود ہوتا تھا کیونکہ وہ اس جہان میں انسانی دنیا کا قطب ہوتا ہے۔ رسول خواہ ایک ہزار ہوں لیکن اُن میں سے ایک امام ضرور ہوتا ہے جو مقصودِ کائنات ہوتا ہے۔ اُن رسولوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد بھی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تین رسول ہیں۔ اُن میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جو اپنے جسم کے ساتھ

زندہ ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بلایا ہوا ہے اور ساتوں آسمان بھی اسی دنیا میں شمار ہوتے ہیں، جو دنیا کی بقائیک باقی رہیں گے اور اس کے فنا ہو جانے سے اُن کی صورت بھی فنا ہو جائے گی۔ وہ دنیا کا ایک جزو ہیں کیونکہ آخرت میں زمین کے ساتھ آسمانوں کی صورت بھی بدل جائے گی اور زمین میں حضرت ایسا اس اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو باقی رکھا ہوا ہے جو گروہِ مرسلین سے ہیں اور یہ تینوں حضرات اُسی دینِ حنیف پر قائم ہیں جسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور ان تینوں حضرات کی رسالت پر سب کا اتفاق ہے۔ چوتھے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ ہمارے سوا دوسروں کے نزدیک مختلف فیہ ہیں (یعنی بعض کے نزدیک نبی ہیں اور بعض کے نزدیک نبی نہیں ہیں)۔ یہ تمام حضرات اپنے جسموں سمیت دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ شیخ علیہ الرحمہ نے اس موضوع پر مزید گفتگو کی ہے، جو چاہے اصل کتاب کی طرف رجوع کرے۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکّیہ کے باب ۳، اخلاق اللہ سے مطابقت صفحہ ۹ پر حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال نمبر ۲۹ اور ۵۰ کا جواب دیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے سوال میں جو اللہ تعالیٰ کے ۱۱ خلق مذکور ہیں اُن میں سے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کتنے اخلاق پائے جاتے ہیں اور دیگر انبیاء و مرسلین میں کتنے؟

جواب اس کا یہ ہے کہ دو کے سوا سارے اخلاق سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھے اور دیگر مرسلین عظام ان میں اپنے اپنے مراتب پر ہیں جیسا کہ اُن کی کتابوں اور صحائف میں مذکور ہے، لیکن فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن سب کے جامع ہیں بلکہ آپ عنایتِ ازلیہ کے بھی جامع ہیں جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ لَّهٗ

افضل کیا۔

یہ فضیلت اُن اخلاق و صفات میں ہے جو اُن کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اُن کی کئی قسمیں بنائیں اور ہر قسم میں نیک لوگ رکھے پھر اُن نیک لوگوں سے خواص کو چنا، جو مومن ہیں۔ اہل ایمان سے خواص کو چنا، جو اولیاء ہیں۔ اُن سے خواص کو چنا، جو صاحب شریعت نبی ہیں۔ جن پر شریعت کا انحصار ہے۔ اس خلاصہ سے ایک چھوٹی سی جماعت چُنی، جو خلاصے کا خلاصہ (اولوالعزم پیغمبر) ہیں اور وہ تمام رسول ہیں اس کے بعد:

اصطفیٰ واحدا من خلقه هو
منہم ولیس منہم ہوا السہیمین
علیٰ جمیع الخلائق جعلہ اللہ
عمدا اقام علیہ قبة الوجود و
جعلہ اللہ اعلیٰ المظاہر و
اسناہ اصح لہ البقام تعینا
وتعریفا فعلیہ قبل وجود طینۃ
البشر و هو محمد صلی اللہ
علیہ وسلم لا یکاثر ولا یقادم
ہو سید من سواہ سوقة قال
عن نفسہ انا سید الناس
ولا فخرای اقولہا ولا اقصد
الافتخار علی من بقی من
العالم۔

اپنی ساری مخلوق سے صرف ایک کو چُن لیا، جو
بظاہر اُن میں سے ہے لیکن درحقیقت اُن میں
سے نہیں ہے۔ وہ ساری مخلوق کا نگہبان ہے
اُسے اللہ تعالیٰ نے ایسا ستون بنایا ہے جس
پر کائنات کے وجود کا قہ کھڑا ہے اور اُسے
نہایت اعلیٰ اور خوبصورت منظر بنایا ہے تعین
وتعریف کے لیے اُس کا منصب متعین فرمایا ہے
نوع بشر کے وجود سے پہلے اُسے علم کے ساتھ
بھرپور کر دیا گیا اور وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جن کی کوئی
مثال نہیں اور نہ کوئی اُن کا مد مقابل۔ وہ اپنے
ماسوا کے سردار ہیں۔ اُنھوں نے خود فرمایا ہے
کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں اور فخریہ
نہیں کتا یعنی منصب کا اظہار کرتا ہوں باقی

(ص ۱۲۲) لوگوں پر فخر کرنا مقصد نہیں ہے۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ جلد ثانی کے صفحہ ۱۰۵ پر
سوال ۵۸ کے جواب میں پہلے یہ فرمایا ہے کہ اولیائے محمدین یعنی ملہین

نبی کا قدم

کا مرتبہ انبیائے کرام کے سامنے اُسی طرح ہے جیسے تابع اور متبوع کے مراتب ہوتے ہیں،
انہیں حضرات انبیاء کی اقتداء میں چلنا ہوتا ہے۔

ہمارے شیخ محمد فائد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں آپ کے پاس
حاضر ہوا تو اپنے سامنے قدم کا نشان دیکھ کر میں نے غیرت محسوس کی۔ مجھے مطلع فرمایا گیا کہ یہ تو
تمہارے نبی کا قدم ہے۔ یہ معلوم کر کے میری وہ غیرت جاتی رہی۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے
کہ حقیقت محمدیہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے اقدام کی جامع ہے۔ اسی لیے ہر
ولی اپنے سامنے قدم دیکھتا ہے، جو اس نبی کا قدم ہوتا ہے جس کا وہ وارث ہے۔ سیدنا
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک کسی کی رسائی نہیں ہے جیسے آپ کے
قلب مبارک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لہذا جس قدم کو شیخ موصوف نے دیکھا تھا یا کوئی
دوسرا دیکھے، وہ اُسی نبی کا قدم ہو گا جس کا وہ وارث ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ قدم
محمدی سے الگ تو نہیں ہے، بایں وجہ ہمارے شیخ علیہ الرحمہ سے فرمایا گیا کہ یہ تیرے نبی کا
قدم ہے اور اُن سے یہ تو نہیں فرمایا گیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
قدم ہے۔

مقام محمود شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب ۳، صفحہ ۱۱۳ پر
سوال نمبر ۳ کے جواب میں فرمایا ہے:

سوال: مقام محمود کیا ہے؟

جواب: مقام محمود وہ ہے جو سارے مقامات کی انتہا ہے اور اُسی کی طرف تمام اسماء الہیہ
ناظر ہیں، جو مقامات کے ساتھ مختص ہیں۔ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

لے لیکن حضور سیدنا غوث اعظم، غیث اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں تک رسائی ہو گئی تھی جیسا کہ
انہوں نے خود اپنے مشہور قصیدہ خمریہ غوثیہ میں فرمایا ہے: ۵

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَّهِ قَدَمٌ وَرَاقِبٌ
أَنَا قَدَمُ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

کے لیے ہے اور قیامت کے روز وہ عام لوگوں پر بھی ظاہر ہو جائے گا اور اسی کے ذریعے آپ کی جمیع مخلوق پر سیادت ظاہر ہوگی۔ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (قیامت کے روز میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا) حضرت آدم علیہ السلام اسی مقام پر ٹھہراتے گئے تھے جبکہ فرشتوں نے اُن کے لیے تعظیمی سجدہ کیا تھا، کیونکہ اس مقام کا دنیا میں یہی مقتضی ہے۔ آخرت میں یہ مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وہ حضرت الہیہ کا کمال ہے۔ اسی لیے وہاں سب سے پہلے ابو البشر کا ظہور ہوا کیونکہ اُن کا جسم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کو متضمن ہے۔ جسمانی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور خاکی پتلے میں حیاتِ انسانی کے سب سے پہلے پیکر ہیں اور یہ سارے مقامات اُن کی بدولت ہی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔

عاقبت کی شہنشاہی کا سہرا روزِ قیامت سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرِ اقدس پر ہوگا۔ اُس روز آپ ہی مقامِ محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور آپ کی بدولت ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور آپ ہی اُن حضرات کے متعلق شفاعت کریں گے جو شفاعت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جن میں فرشتے، انبیاء، اولیاء، مومنین، حیوانات، نباتات اور جمادات شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان حضرات کو گنہگاروں کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ اُس وقت ہر ایک فرد آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوگا اور ہر جگہ آپ ہی کا چہرہ چاہوگا۔ پس شفاعت کا اول، آخر اور وسط صرف آپ کے لیے ہے۔ (دوسروں کی شفاعت آپ کی شفاعتِ کبریٰ کی مرہونِ منت ہے)، لہذا قیامت کے روز

لے مولانا حسن رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی لیے فرمایا ہے،

فقط اتنا سبب ہے العقدِ ہزیمِ محشر کا

کہ اُن کی شانِ مجدی دکھائی جانے والی ہے

تمام محامد و محاسن آپ کی ذات والاصفات سے وابستہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے اس جگہ کو مقام محمود کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ثنا مقام محمود پر ہیں ایسے محامد کے ساتھ کروں گا جو میرے دائرہ معلومات سے اس وقت باہر ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیائے کرام و اولیائے عظام کے علوم ووقفی ہیں فکری و نظری نہیں کیونکہ وہ جگہ اپنے آثار کے لحاظ سے مخصوص اسمائے الہیہ کا تقاضا کرتی ہے جن کے ساتھ اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء بیان کی جائے اور یہ کسی دنیاوی مقام کا ہرگز مقتضی نہیں ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج وہ کلمات میرے دائرہ معلومات سے باہر ہیں اور یہی مقام وسیلہ بھی ہے کیونکہ ہمیں سے باب شفاعت کے کھولنے کی خاطر توسل ہوگا، یعنی سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیلہ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں سب سے بلند درجہ ہے، سوائے ایک شخص کے کسی اور کو نہیں ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں۔ پس جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا، اُس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگئی اور شفاعت کو سوال کرنے والے کے لیے ثواب قرار دیا ہے مقام محمود کا نام وسیلہ بھی ہے کیونکہ اس کے سوال کرنے میں ثواب رکھا گیا ہے اور اس شخص کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے نیز سارے مقامات اور کلمات اس مقام محمود کی جانب رجوع کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو امع الکلم مرحمت فرمائے گئے ہیں۔

شیخ علیہ الرحمہ نے سوال نمبر ۴ کے جواب میں فرمایا ہے:

سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام محمود کس طرح حاصل کیا؟
جواب: سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کو ایک خصوصی دعا مرحمت فرمائی گئی جو ضرور قبول ہوئی۔ ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی اور اُن کی دعائیں دنیا میں پوری ہو چکیں۔ لیکن میں نے اپنی خصوصی دعا کو اپنے مرتکب کبار اُمّتیوں کے لیے چھپا کر

رکھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کے موطن و مقامات کو دیگر انبیاء کی نسبت زیادہ جانتے ہیں۔ جب سارے مقامات کا مرجع مقام محمود ہے، جو سارے مقامات کا جامع ہے تو اس کا اہل اور مالک وہی فرد ہو سکتا ہے جو جامع الکمل دیا گیا ہو کیونکہ محمد کلام کی صفت ہیں۔ جب آپ کی بعثت عام ہے تو آپ کی شریعت بھی عام ہوئی، جو تمام شرائع کی جامع ہے۔ پس آپ کی شریعت اُن مجملہ اعمال و افعال کو متضمن ہوئی جن کی مشروعیت صحیح ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اعمال کی جنسیں استیٰ اور ستر کے درمیان ہیں، جو اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوں گی اور ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سے ادنیٰ کام یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور سب سے اعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار ہے نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ هُمْ فِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُونَ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ ۚ هُمْ فِيهَا مُقَامُونَ ۚ

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ ۱۷ ۚ ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔

پس جنت میں اُن کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ یا ممانعت نہیں ہوگی اور یہ اُس شخص کے لیے ہے جس نے ہر حکم پر عمل کیا، کیونکہ اس دنیا میں ایک انسان جب بھی کوئی نیک کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اُس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، جو بھی ایمان کے مطابق اعمال ہوں جب چاہے اُنھیں کر سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کے سارے شعبے ظاہر فرما دیے جو جنت کے مذکورہ درجات اعمال کے مطابق ہیں، خواہ وہ بالفعل ہوں یا بالذات کیونکہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے راہِ ہدایت واضح فرمادی ہے، پس جتنے سعادت مند بھی آپ کی تعلیم کے مطابق نیک اعمال کریں گے اُن سب کے مجموعے کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کی امت میں سے کوئی شخص بھی نیک اعمال سے تہی دامن نہیں ہے، پس اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میزانِ عمل میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا کہ عمل کرنے والے نیک اعمال کرتے ہیں۔ پس آپ جنت میں جہاں چاہیں تشریف فرما

ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے سوا دوسروں کے لیے درست نہیں ہے کیونکہ قرب الہی حاصل کرنے کے راستے آپ نے ہی ظاہر فرمائے، جن سے دنیا کا گوشہ گوشہ روشناس ہو کر جگمگا رہا ہے۔ اسی عظیم النظر کارنامے کے باعث آپ نے مقام محمود پایا، جو امح الکلم سے نوازے گئے اور بعثتِ عامہ کے باعث آپ کو ان اخروی عنایات سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ چونکہ یہ مقامات آپ کو دنیا میں حاصل تھے اور دنیا میں مذکورہ احوال سے متصف ہونے کے باعث آپ ان اعلیٰ ترین اخروی مقامات کو حاصل کر لیا۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ مذکورہ وجہ کے علاوہ اس کے اور بھی مختلف وجوہ ہیں، جن سے آپ کی ذات مقدس کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔

مقام مصطفیٰ۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نمبر ۷ کے جواب میں فرمایا ہے: سوال: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور دیگر انبیائے کرام کے مقامات میں کیا فرق ہے؟

جواب: آپ کے اور دیگر انبیائے کرام کے درمیان صرف ایک مقام کا فرق ہے اور اُس مقام کا نام عینِ جمعیت ہے لیکن اُس مقام کی تفریق کریں تو آدم علیہ السلام کے سوا آپ کے اور باقی انبیائے کرام کے درمیان اٹھتر درجے اور مقام ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام اور آپ کے مابین وہی فرق ہے جو ظاہر و باطن میں ہوتا ہے۔ دنیا میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے باطن ہیں اور آدم علیہ السلام آپ کے ظاہر ہیں اور دونوں سے ظاہر و باطن کا وجود قائم ہے، لیکن آخرت میں حضرت آدم علیہ السلام آپ کے باطن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کا ظاہر ہوں گے اور دونوں سے آخرت میں بھی ظاہر و باطن کا وجود قائم رہے گا۔ یہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے مقامات میں فرق۔ اس فصل میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ اس تفصیل کے فصول انبیائے کرام کی تعداد کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہر نبی کے منصب کا تعین ضروری ہے، جو فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اُس نبی کے مقام کی معرفت کا محتاج ہے، جبکہ اعمال کے لحاظ سے سارے مقامات کی تعداد ستر سے کچھ زیادہ میں محصور ہے۔ کبھی تو کسی نبی کو ان میں سے ایک مقام حاصل ہوتا، کسی کو

دو، کسی کو دس، نو یا آٹھ۔ بعض کو ان سے زیادہ اور بعض کو کم بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ان سارے درجات کا مجموعہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو حاصل نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے سوا کسی بھی نبی کی بعثت عام نہیں ہے بلکہ آپ کے سوا جملہ انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت خاص ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۚ وَلَٰكِنْ

کر دیتا۔

لواء الحمد۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نمبر ۷۶ کے جواب میں فرمایا ہے :
سوال : لواء الحمد کیا ہے ؟

جواب : لواء الحمد تو حمد کی حمد ہے کیونکہ وہ محامد و محاسن کا کامل و مکمل اور اعلیٰ مرتبہ ہے، اسی لیے سارے انسان اس کے نیچے جمع ہوں گے کیونکہ یہ بادشاہ کے مرتبے اور وجود کی علامت ہے، اسی طرح حمد کی حمد کے پاس تمام محامد جمع ہوں گے کیونکہ صحیح حمد وہی ہے جس میں کسی احتمال اور شک و شبہ کا دخل نہ ہو اور یہ بلا ریب حمد ہے جو حمد پر بذاتہ دلالت کرتی ہے، پس فی نفسہ صفتِ شنایابی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کہو کہ وہ سخی ہے یا خود ہی وہ اپنے سخی ہونے کی خبر دیتے تو ممکن ہے کہ یہ خبر سچی ہو اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو لیکن اسی شخص سے اگر احسان و ائتمان کے طور پر عطیہ ملے تو وہ عطیہ بذاتہ خود اس عطا کنندہ کے جود و کرم کی شہادت ہے اور اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہو سکتا، پس حمد الحمد کا منہوم یہی ہے اور اسی کی تعبیر لواء الحمد سے کی گئی ہے۔

اس کا نام لواء بایں وجہ ہے کہ یہ تمام محامد پر مشتمل ہے اور کوئی حمد اس سے باہر نہیں کیونکہ اس کے باعث ہر حمد کرنے والے سے حمد واقع ہوگی اور یہی حقیقی عاقبت ہے۔ اسے خوب سمجھ لینا چاہیے اور جب یہ محامد کے جمیع اقسام کی جامع ہے تو اس کا سایہ سارے حمد کرنے والوں کو

نصیب ہوگا۔ اسی لیے سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اُن کے علاوہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہاں آپ نے فَمَنْ دُونِهِ فرمایا ہے کیونکہ حمد بغیر اسماء کے ممکن نہیں اور آدم علیہ السلام تمام اسماء کے جاننے والے ہیں پس اُن سے کم رتبے والا کوئی ایسا نہ رہا جو اُس جھنڈے کے نیچے نہ ہو، کیونکہ ضروری ہوا کہ وہ ان اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم کے ساتھ حمد بیان کرے گا اور کیوں نہ ہو جبکہ:

ولما كانت الدولة في الآخرة
لمحمد صلى الله عليه وسلم
الموتى جوامع الكلم وهو
الأصل فانه صلى الله عليه
وسلم اعلم بمقامه فعلمه و
ادم بين الماء والطين لم
يكن بعد وكان ادم لما علمه الله
الاسماء في المقام الثاني
من مقام محمد صلى الله
عليه وسلم فكان قد تقدم
لمحمد صلى الله عليه وسلم
عليه بجوامع الكلم والاسماء
كلها من الكلم ولم تكن في
الظاهر لمحمد صلى الله عليه
وسلم عيناً فتظهر بالاسماء
لانه صاحبها فظهر ذلك في
اول موجود من البشر وهو
ادم فكان هو صاحب الاسماء

جب آخرت کی بادشاہی محمد رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوئی جو
جوامع الکلم مرحمت فرماتے گئے ہیں، کیونکہ
آپ ہی پرشے کی اصل ہیں اور اس منصب کے
خبردار۔ آپ اس منصب رفیع کو اُس وقت سے
جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام پانی اور
مٹی میں تھے اور یہ انعام اس تخلیق کے بعد
نہیں ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کو دوسرے
مرحلے میں تمام اسماء کا علم عطا فرمایا گیا تو اولیت
بہر صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے لیے ہوئی جو اُن سے بھی پہلے جوامع الکلم
مرحمت فرمائے گئے اور تمام اسماء بھی جوامع الکلم
کا ایک حصہ ہیں۔ چونکہ وہ ظاہر میں رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عین نہ تھے اس لیے
وہ اسماء کے ساتھ ظاہر ہوئے کیونکہ وہ ان کے
لائق تھے، پس یہ نوع بشر میں سب سے پہلے
وجود کا لباس پہننے والے سے ظاہر ہوئے،
جو آدم علیہ السلام ہیں۔ پس وہ نبی کریم صلی اللہ

فی السلائکة بحکم النبیابة عن
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 لانه تقدم علیہ بوجوده الطینی
 فنتی ظہر محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کان احق بولایتہ ولوائہ
 فیاخذ اللوامن آدم یوم القیامة
 بحکم الاصالۃ فیکون آدم
 فمن دونہ تحت لوائہ صلی
 اللہ علیہ وسلم وقد کانت
 السلائکة تحت ذالک اللوامن
 فی زمان آدم فہم فی
 الاخرة تحتہ فتظہر
 فی ہذہ المرتبۃ
 خلافة رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم علی
 الجميع - (ص ۱۲۵)

تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت میں ملائکہ کے درمیان
 صاحبِ لوا قرار پاتے ، کیونکہ خاکی وجود کے
 لحاظ سے انہیں سارے انسانوں پر تقدیم
 حاصل ہے۔ لیکن جب سیدنا محمد رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق آرائے گیتی ہوئے
 تو چونکہ آپ اس شہنشاہی اور لوا کے سب سے
 زیادہ حقدار ہیں لہذا قیامت میں آپ اصل
 حقدار کے طور پر آدم علیہ السلام سے اس
 لوا کو حاصل کر لیں گے پس آدم علیہ السلام اور
 ان کے سوا سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے اس جھنڈے تلے ہوں گے اور فرشتے بھی
 آخرت میں اسی کے زیر سایہ ہوں گے جو آدم
 علیہ السلام کے زمانے سے اس جھنڈے کے
 نیچے چلے آ رہے ہیں۔ پس اس منصب رفیع سے
 سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت
 جمیع موجودات پر ظاہر و واضح ہو گئی۔ لہ

لے مجدد مآثر حاضر و قدس سرہ نے اسی لیے تو لکھا ہے : لہ

واہ کیا جو د و کرم ہے شرِ بظا تیرا
 دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطر تیرا
 فیض ہے یا شرِ تسنیم زالا تیرا
 فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں
 میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوا ملک کے حبیب
 ترے ٹکڑوں سے پلے ، بغیر کی ٹھوکر پر نہ ڈال
 تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع

نہیں سنا ہی نہیں مانگتے ، والا تیرا
 تارے بھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا
 آپ پیاسوں کے تجش میں ہے دریا تیرا
 خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا
 یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
 جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا
 جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

وسیلہ کے ساتھ خصوصیت

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ باب کے

صفحہ ۲۸ پر فرمایا ہے کہ ہمارے شیخ ابوالعباس

بن عریف صہبا جی رحمۃ اللہ علیہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ: اے اللہ! تُو نے ہمارے لیے نبوت

و رسالت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ اے اللہ! تیرے

تزدیک جو ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے جب بھی تو کسی فرد کو اس پر فائز کرنے کا ارادہ فرمائے تو وہ

منصب مجھے مرحمت فرما دینا، شیخ موصوف چونکہ زمرہ محققین سے تھے لہذا انھوں نے اُسی

چیز کا سوال کیا جس کا حصول ممکن ہے کیونکہ نبوت و رسالت ایسی چیز ہے جس کا اگرچہ آج بھی

انسان مستحق ہے کیونکہ اُس کی ذات میں اس کی اہلیت موجود ہے، لیکن انھوں نے یہ دیکھتے

ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعاً اس کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور شرائع کی نبوت دینے کا خاتمہ

ہو چکا ہے، تو اس چیز کا سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ چیز طلب کی، جس کے طلب کرنے کا انھیں

حق حاصل تھا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔

مذکورہ قبیل ہی سے وسیلہ کا سوال کرنا ہے۔ اگرچہ وہ اس کے مثل نہیں لیکن

اس کے قریب ضرور ہے اور ہم نے اس قرینے کی وجہ سے نبوت کے ساتھ وسیلہ کو تشبیہ دی ہے

کیونکہ یہ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے، جو ایک فرد ہی کو ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اُمید ہے وہ شخص میں ہوں۔ پس جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی

دعا کی اُس کی شفاعت ضرور کی جائے گی۔ اس کے باوجود اگر ہم میں سے کوئی شخص وسیلہ کا

اپنے لیے سوال کرے تو اُس نے ایسی چیز کا سوال کیا جس کے طلب کرنے کا اُسے حق حاصل

نہیں ہے۔ اس کی طلب وہی کر سکتا ہے جو اس کے مطابق خاص صفات کا مالک ہو اور

ہمارے بارے میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تُرَوِّدُوهُ۔

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے وسیلہ طلب کرو اور یہ عین ممکن ہے کہ مذکورہ حکم سے توسل

مراد ہو اور یہ صفت خواہ وہی ہو یا کسی لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا گیا اور نہ اس کے طلب کرنے سے کسی کو روکا گیا ہے (بلکہ اس وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے) اور نہ یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ وسیلہ تلاش کرنا صرف اُسی کا حق ہے جو نوع بشر میں سب سے افضل ہو۔ حالانکہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی افضل البشر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی افضلیت قطعی طور پر بیان فرمائی ہے لہذا اول الذکر سوال دوسروں کے لیے ممنوع ہوگا۔ رہا وسیلہ تلاش کرنا والا معاملہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی معین فرد کے لیے نہیں فرمایا اور نہ یہ کہا کہ یہ صفت صرف ایک فرد کو حاصل ہوگی بلکہ یہ صفت اگر ہزار افراد میں پائی جائے تو ہر ایک کے لیے وسیلہ ثابت ہوگا کیونکہ اس صفت کو تلاش کیا جاتا ہے۔ جب شارع سے اس کی ممانعت واقع نہیں ہوتی تو ہمارے لیے بھی اس کے تلاش کرنے کی گنجائش ہے۔

لیکن سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام ہمیں اس کا سوال کرنے سے باز رکھتا ہے کیونکہ آپ کے ذریعے ہی تو ہمیں راہِ ہدایت نصیب ہوئی ہے اور آپ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کیا کرو۔ پس آپ کے ادب و احترام، ایثار و مروت اور مکارمِ اخلاق کا یہی تقاضا ہے کہ اس کا اگر ہمیں حق بھی حاصل ہو، تب بھی اس ارشادِ گرامی کے پیشِ نظر ہم آپ کی خاطر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو آپ کا بلند ترین منصب ہے اُس کے پیشِ نظر مناسب یہی ہے کہ وہ آپ ہی کے نمایانِ شان ہے اور اس نظریہ کے باعث ہمیں اُسے دانتق ہے کہ جنت میں ہمارے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس درجے کے مماثل ہے، جیسے دنیا میں سی شرعی حکم کے تحت ہمارے نزدیک مثل کی قیمت ہوتی ہے۔

وسیلہ کی مثل ہمارے لیے اس طرح بھی ہے کہ لفظی طور پر ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ایمانی اخوت موجود ہے اگرچہ آپ ایسے سردار ہیں کہ آپ کا مد مقابل ہونا تو دُور کی بات ہے کوئی آپ کی گرو راہ کو بھی نہیں پاسکتا لیکن لفظی طور پر ایک ہی ایمان کے دھاگے میں تو موجود ہیں جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ لے مسلمان مسلمان بھائی ہیں

اور شریعتِ مطہرہ سے یہ ثابت ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے اُس کی عدم موجودگی میں دُعا کرتا ہے تو فرشتہ کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی مثل عطا فرمائے۔ جاتے غور ہے کہ اگر بھائی کے بجائے ہم اپنے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کریں گے جبکہ آپ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں تو یقیناً فرشتہ کہے گا کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مثل دے۔ پس وسیلہ آپ کے لیے اور اُس کی مثل دُعا کرنا آپ کے لیے۔ لہذا دُعا کرنے والا مجموعی درجات سے وہی پاتے گا جو صاحبِ وسیلہ کو وسیلہ سے حاصل ہوگا، جس طرح مثل کی قیمت ہوتی ہے لیکن وسیلہ کی حقیقی مثل وہاں قطعاً نہیں ہے یعنی وہاں ایسا کوئی درجہ نہیں ہے جو دیگر درجات کو وسیلہ کی طرح اپنے اندر جمع کرے۔ یہ صرف وسیلہ ہی میں خاصیت ہے کہ اُس نے مختلف بکھرے ہوئے درجات کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ باب کے صفحہ ۶۴ پر سوال نمبر ۴۵ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے:

سوال : موسیٰ علیہ السلام کی اس سے مراد کیا تھی کہ اے اللہ! مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت سے کر دے۔

جواب : جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ تمام انبیائے کرام کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو آپ کی اُمت کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے نسبت ہے اور انبیائے کرام کو آپ کے اسمِ باطن سے نسبت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اُن کے لیے شرع میں دونوں اسموں کو جمع فرمادے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ مطیع و تابع ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہا تو سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وسلم کی بارگاہ میں دوسرے رسولوں سے ممتاز ہونا چاہا کیونکہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اُمت کی کثرت کے باعث اور تابعین کی زیادتی کے سبب فخر محسوس کریں گے دیگر انبیاء کے کرام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی کے پیروکار نہیں ہیں جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی اُمت۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میں تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردار سے زیادہ کسی کے فرمانبردار ہوں لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی دُعا کے باعث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت میں شامل ہوئے تو ان کا ظاہر و باطن اُمتِ محمدیہ کی طرح ہوا، تو یقیناً وہ اور ان کی اُمت بھی مرحومہ میں شمار ہوتے اور اس اُمت کی تعداد اس طرح اور بڑھ جائے گی، اسی لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں تمہارے سبب فخر کروں گا بلکہ یوں فرمایا کہ اُمت اور تابعین کی کثرت کے باعث اُن اُمتوں پر فخر کروں گا جن کے انبیاء کو دونوں اسموں کا مجموعہ حاصل نہیں ہے، جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی تھی۔ پس جس نے ان دونوں اسموں کو جمع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت میں ہمارے ساتھ اُٹھے گا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی اُمت کی خوش بختی کے باعث باقی اُمم پر فخر کریں گے کیونکہ اُمتِ موسیٰ ہمارے ساتھ اُٹھے گی اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ امیر لشکر کی طرح ہوں گے۔ بڑا امیر وہی ہوتا ہے جس کا لشکر بڑا ہو اور اُمتوں میں بڑے حبش کی قدر و منزلت اور عظمت و حرمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں زیادہ ہوگی۔

اسی لیے سوال کرنے والے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: جو محدث

ترمذی (صاحب سنن) رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ہیں کہ اس اُمت میں ایسے افراد بھی ہیں جو حضرت

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ جو شخص انبیاء کرام کے بعد باقی انسانوں سے

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتا ہے اُسے بھی یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اور وہ بھی اُمتِ محمدیہ

میں شمار اور آپ کے قبیحین سے ہیں۔

اس کا ذکر ہم نے اس غرض سے کیا ہے کہ جھگڑنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یقیناً وہ آخری زمانے میں اس امت کے اندر نزول فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر حکم فرمائیں گے جیسے خلفائے راشدین جسے راہبروں نے کیا تھا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور انھیں اسلام میں دیکھ کر ان گنت اہل کتاب شرف اسلام سے مشرف ہو جائیں گے۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے لکھا ہے کہ بارہ انبیاء پر خواہش کرتے رہے کہ انھیں اُمتِ محمدیہ میں شامل فرمایا جاتے۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ باب میں صفحہ ۷۷ پر سوال نمبر ۱۵۴

اُمّ الکتاب کے تحت فرمایا ہے:

سوال ہے: جو تمام رسولوں سے روک کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کے لیے ذخیرہ کی گئی وہ اُمّ الکتاب کیا ہے؟

جواب: لفظ اُم سے مراد جمع کرنے والی ہے۔ اسی قبیل سے اُمّ القریٰ اور اُمّ الراس وغیرہ ہیں۔ چونکہ سراسرے بدن کا سردار ہے کہ حسی اور معنوی جملہ قوی کا مرکز یہی ہے، جو بھی انسان کو حاصل ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ تمام آسمانی کتابوں کی اصل ہے۔ یہی اَلْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ہے یعنی عظیم مجموعہ جو ہر چیز کے بیان پر مشتمل ہے اور فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امح الکلم مرحمت فرماتے گئے ہیں۔ پس آپ کی شریعت تمام شرائع کو اپنے اندر لیے ہوتے ہے۔ آپ اُس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں فرمائے گئے تھے۔ آپ کی شریعت سے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی شریعتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے جملہ انبیائے کرام آپ کے جسمانی طور پر غائب رہنے تک زمین میں آپ کے نائب رہے، اگر آپ جسمانی لحاظ سے دنیا میں جلوہ افروز ہوتے تو کسی نبی کے پاس شریعت نہ ہوتی۔ اسی لیے نورِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اب یہاں زندہ ہوتے تو میری تابعداری کے سوا اُن کے لیے چارہ نہ ہوتا اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا الشُّرُوءَ فِيهَا هُدًى بَلْ شَكَّ مِنْهُمْ نَسُوا نَارَ آتَارِ، اِسْ مِیْ ہَدِیْ

وَنُورٌ يَّحْكُمُ بَيْنَ النَّبِيِّينَ ۚ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلدِّينِ هَادُوا ۚ
اور نور ہے۔ اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے
ہمارے فرمانبردار نبی۔

ہم مسلمان ہیں اور ہمارے صاحبانِ علم انبیائے کرام ہیں اور ہم شریعت والے کا اُسی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہی نبی کی شریعت ہنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کی تقریر کرنے والے آپ ہیں کیونکہ آپ کی شریعت اُن سب کی اصل ہے اور آپ ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک جتنے آدمی ہوئے اُن میں شرائع مختلف ہیں لیکن وہ تمام شرائع سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبوں کی ہیں۔ اس لحاظ سے سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی شریعت ہیں کیوں کہ سب کے رسول آپ ہیں اور کسی شک و شبہ کے بغیر تمام رسول آپ کے نائب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی جلدہ گری ہوتی تو آپ کے سوا کسی کا حکم باقی نہ رہا اور ہر ایک حاکم کا آپ ہی مرجع قرار پاتے۔ لہذا یہ آپ کے منصب کا مقتضی ہے کہ ظہور کے وقت سے آپ کی ذاتِ بابرکات کو ایسے امور سے مختص کر دیا جائے جو آپ کے نائبوں کو مرحمت نہ فرماتے گئے ہوں اور یہ ضروری ہے کہ وہ امر جو متفرق طور پر آپ کے نائبوں کو ملا ہے، اُس پر اضافہ کر کے آپ کو مرحمت فرمایا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اُمّ الکتاب عطا فرمائی۔

یہ اُمّ الکتاب تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے علوم کی جامع ہے۔ چنانچہ آپ اسے لے کر ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اگر اس سورت کے اختصار کو دیکھا جائے تو صرف سات آیات ہیں لیکن معناتِ تمام آیات کو حاوی ہیں جیسے اللہ جلّ شانہ کی سات صفات باقی تمام صفات کی متضمن ہیں اور اُن میں سے ہر اسمِ الہی بلا شک و شبہ کسی ایک جانب رجوع کرتا ہے۔

استاد ابراہیم اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفی وجلی میں یہی لکھا ہے کہ تمام

اسمائے الہیہ کو ان سات صفات کی جانب راجع دکھایا ہے اور اسم شکور اور شاکر کے سوا کوئی بھی کلام کی صفت کے ساتھ نہیں پایا گیا، باقی اسماء کو صفات پر تقسیم کیا ہے اور وہ ان تمام کو متضمن ہیں۔ ان میں سے بعض کو علم کے ساتھ اور بعض کو قدرت کے ساتھ ملحق کیا ہے اور باقی کو دیگر صفات کے ساتھ۔ پس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اُم الکتاب کے ساتھ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو لاحق فرمایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبوں پر نازل ہوئے تھے اور انھیں آپ کے لیے اور آپ کی اُمت کے واسطے محفوظ رکھا ہے تاکہ اس لحاظ سے مقدم ہونے کے باعث آپ دیگر انبیائے کرام سے ممتاز رہیں، کیونکہ امام اکبر تو آپ ہیں اور آپ کی اُمت جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی ہے وہ بہترین اُمت ہے۔ چونکہ اس اُمت میں آپ کی صورت نے ظہور فرمایا لہذا وہ جملہ اُم سے ممتاز ہو گئی، اسی طرح وہ زمانہ جس میں آپ رونق فرمائے دہر رہے وہ سارے زمانوں سے ممتاز ہو گیا، کیونکہ اس میں آپ کا ظہور ہوا اور اگلے پچھلے زمانوں میں آپ کی شریعت کا سکھ رواں رہا ہے۔

مغفرتِ مصطفیٰ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مجیدہ کے مذکورہ باب، صفحہ ۱۸۲ پر سوال نمبر ۵ کا جواب مرحمت فرمایا ہے اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری سوال ہے۔

سوال: مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح دیگر انبیائے کرام کو بھی مغفرت کی بشارت سے نوازا گیا تھا۔

جواب: غفر کا مطلب چھپانا ہے۔ پس انبیائے کرام سے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہونا چھپا کر رکھا گیا ہے اور قیامت میں اس کا ظہور ہوگا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: میں قیامت کے روز انسانوں کا سردار ہوں گا۔ اسی لیے قیامت میں آپ اُن کے لیے یہ سفارش کریں گے کہ انھیں شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی جاتے، کیونکہ آپ کی شفاعت ہر مشفوع کے لیے اُس کے حسبِ حال ہوگی۔ دیگر انبیائے کرام کو اسی لیے خاص مغفرت کی بشارت دی گئی اور سردارِ کون و مہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام بشارت۔ حالانکہ:

وَقَدْ ثَبَتَ عَصْمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

چونکہ تحقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فلیس له ذنب یغفر فلم یبق کی عصمت ثابت ہے۔ لہذا آپ سے کوئی گناہ
 اضافۃ الذنب لا ان یكون هو سرزد وہی کب ہو سکا جسے معاف کیا جاتا ہے پس
 المخاطب والقصد امتہ یہ گناہ کی اضافت اس لحاظ سے ہے کہ مخاطب
 کما قیل "ایاک اعنی فاسمعی آپ ہیں اور مراد امت ہے، جیسے کہا جاتا ہے
 یا جارة" وکما قیل له فان بی ہسانی! میری بات سُنو۔ یا جیسے قرآن کریم
 کنت فی شکّ ممّا أنزلنا الیک میں فرمایا گیا ہے: فَإِنْ کُنْتَ فِی شکّ... (الایہ)
 فاسئل الذین یقرؤن الکتاب (اس میں خطاب آپ سے کیا گیا ہے لیکن مراد
 من قبلك۔ (ص ۱۲۸) وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم میں شک کرتے ہیں)۔

اور یہ یقیناً معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ہرگز ہرگز کسی قسم کا شک
 شبہ نہیں تھا۔ اس سے مراد آپ کے بعض اُمتی کہلانے والوں کے شکوک و شبہات ہیں۔ اسی
 طرح یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْطِطَنَّ عَمَلُکَ ۖ انے سُفنے والے! اگر تُو نے اللہ کا شریک کیا تو

ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔

حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا شرک سے دُور کا واسطہ بھی نہیں۔ لہذا اس سے وہی لوگ
 مراد ہیں جو آپ کے اُمتی کہلائیں گے اور شرک ساگر میں غوطے لگائیں گے۔ پس جاننا چاہیے کہ وہ
 وعدہ مغفرت تو آپ کی تعریف و توصیف میں وارد ہوا ہے، یعنی فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

لہ پ ۲۴، سورہ الزمر، آیت ۶۵

لے ایسے مشرکوں کی فی زمانہ بڑی چہل پہل ہے۔ یہ حضرات خارجیت کے مرض میں گرفتار اور توہمت
 کے جراثیم کا شکار ہو کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ سچے موحّد بس وہی ہیں۔ اسی لیے خالص اسلامی
 عقائد و اعمال کے باعث بھی مسلمانوں کو مشرک ٹھہرانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اگرچہ خود
 ظاہر مشرکوں، ٹھیٹھ بت پرستوں کے قدموں میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ شاید اُن کی توحید کے دورہ
 کی طائی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ (آمین)

سے فرمایا گیا ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَهُوَ
مَعصوم من الذنوب فهو
المخاطب بالمغفرة والمقصود
وما تقدم ممن تقدم من آدم
إلى زمانه وما تأخر ممن
تأخر من الامة من
زمانه إلى يوم القيامة
فإن الكل أمته صلى الله
عليه وسلم.

تاکہ اللہ تمہارے سبب معاف کرے گناہ تمہارے
انگوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ کیوں کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گناہوں سے
معصوم تھے۔ پس مغفرت کے ساتھ مخاطب
اگرچہ آپ ہیں لیکن مراد وہ پہلے ہیں جو حضرت
آدم علیہ السلام سے آپ کے زمانہ مبارک
تک ہوتے اور پچھلوں سے وہ مقصود ہیں جو
آپ کے زمانہ اقدس سے قیامت تک امتی
ہوں گے کیونکہ سارے انسان خواہ وہ انگو
ہوں یا پچھلے سب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ

(ص ۱۲۸) علیہ وسلم کے امتی ہیں۔

کیونکہ کوئی امت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی شریعت کے تحت نہ ہو اور یہ امر
ہم پہلے مبراہن کر چکے ہیں کہ ہر ایک شریعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے اسم باطن
سے ہے کیونکہ آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ آپ سارے
انبیائے کرام اور مرسلین عظام کے سردار ہیں کیونکہ آپ سَيِّدُ النَّاسِ ہیں اور انبیاء و مرسلین کا
شمار بھی بنی نوع انسان میں ہے۔ یہ بیان پیچھے مفصل گزر چکا ہے۔ لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ:

فبشر الله محمداً صلى الله
عليه وسلم ليغفر لك الله ما
تقدم من ذنوبك وما تأخر
بعموم رسالته إلى الناس

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت دی "تاکہ اللہ تمہارے
سبب معاف کرے گناہ تمہارے انگوں کے
اور تمہارے پچھلوں کے" کیونکہ آپ کی رسالت

کافۃ۔ (ص ۱۲۹) تمام انسانوں کی طرف عام ہے۔

اور یہ ارشاد باری تعالیٰ اس امر کی بخوبی نشان دہی کرتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ - ۱
اور اسے محبوبِ اہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی
رسالت سے جو تمام لوگوں کو گھیرنے والی ہے۔

اُمت ہونے کے لیے لوگوں کا آپ کی رویت حاصل کرنا شرط نہیں ہے۔ جس طرح اپنے جسمِ اطہر کے ساتھ موجود ہونے کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے گزشتہ انبیائے کرام کو اُن کی اُمتوں کی جانب بھیجا جاتا رہا، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پس؛

فَالنَّاسُ أُمَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَبَشَّرَهُ اللَّهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ النَّاسِ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهُمْ فَكَانَ هُوَ الْمُخَاطَبُ وَالْمَقْصُودُ وَالنَّاسُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِلْكَلِّ وَيُسَعِّدُهُمْ وَهُوَ اللَّائِقُ بِعَمُومِ رَحْمَتِهِ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِعَمُومِ مَرْتَبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ لَبِثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بِالنَّصِّ وَلَمْ يَقْلُ أَرْسَلْنَاكَ إِلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً وَلَا إِلَى أَهْلِ هَذَا الزَّمَنِ إِلَى

پس سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آپ کی اُمت ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اگلے لوگوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی آپ کو خوشخبری سنائی ہے اس میں مخاطب اگرچہ آپ ہیں لیکن مقصود دوسرے آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا اور سب کو سعادت مندی سے سرفراز کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کے آپ ہی لائق ہیں، جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور یہ آپ کے عام مرتبے کے باعث ہے کیونکہ آپ تمام انسانوں کی جانب مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا ہے کہ خاص اُمت کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور نہ یہ کہ صرف اپنے زمانے سے

یوم القيامة خاصة وانما اخبره
 انه مرسل الى الناس
 كافة والناس من آدم الى
 يوم القيامة فهم المقصودون
 بخطاب مغفرة الله لما تقدم
 من ذنبه وما تأخر والله
 ذو الفضل العظيم (ص ۱۲۹) بڑے فضل والا ہے۔

قیامت تک کے لیے ہیں بلکہ یہی خبر دی ہے کہ
 آپ کو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر
 بھیجا گیا ہے اور نوع انسانی کا سلسلہ آدم
 علیہ السلام سے تا قیامت ہے۔ پس اگلے
 پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے خطاب
 میں سارے انسان مقصود ہیں اور اللہ تعالیٰ

اس کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر قوم کی مغفرت اُس کے
 حال کی مناسبت سے ہوگی اور اس بارے میں اُن کا کلام ایسا عمیق ہے جس کے ظاہر پر
 اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اُن سے حضرت ابن عربی علیہ الرحمہ کی مراد
 کیا ہے؟

انتخاب شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب ۹۰، صفحہ ۲۲۳ پر
 فرمایا ہے کہ امور بذاتِ خود انتخاب کو چاہتے ہیں جیسا کہ تمام موجودات میں
 اللہ تعالیٰ کا قانون جاری ہے، جیسا کہ ہر جنس سے کسی نہ کسی امر کا چناؤ فرمایا ہوا ہے، مثلاً
 اسماء الحسنیٰ سے لفظ اللہ کو، تمام انسانوں سے مرسلین کو، اپنے بندوں سے فرشتوں کو،
 آسمانوں سے عرش کو، عناصر اربعہ (آگ، پانی، مٹی، ہوا) سے پانی کو، مہینوں سے
 رمضان المبارک کو، عبادات سے روزوں کو، زمانوں سے فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے مبارک زمانے کو، دنوں سے جمعہ المبارک کو، راتوں سے لیلة القدر کو، اعمال سے
 قرآن کو، اعداد سے تنانوے (۹۹) کو، رہائشی مکانات سے جنت کو، جنت میں سعادت مندی
 کے احوال سے رویتِ الہی کو، حالات سے رضا سے الہی کو، اذکار سے لا اِلهَ اِلَّا اللهُ
 کے ذکر کو، کلامِ الہی سے قرآن کریم کو، قرآن مجید کی سورتوں سے سورہ یس کو، آیاتِ قرآنیہ
 سے آیۃ الکرسی کو، چھوٹی سورتوں سے سورہ اخلاص کو، عام دُعاؤں سے روزِ عرفہ کی
 دُعا کو، سواریوں سے براق کو، فرشتوں سے رُوح الامین کو، رنگوں سے سفیدی کو،

واقع ہونے والے امور سے اجتماع کو، اعضائے انسانی سے دل کو، پتھروں سے حجرِ اسود کو، گھروں سے بیت المعمور کو، درختوں سے سدرۃ المنتہیٰ کو، عورتوں سے مریم اور آسیہ کو، اور مردوں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چُن لیا ہے۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور بھی انتخاب پیش کیے ہیں لیکن یہاں سب کے ذکر کی حاجت نہیں۔ اور اس بیان کو ہمیں پہلے نقل کر چکا ہوں کہ مردوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چُنا ہے اور یہ بات شیخ کے نفلوں میں اسی طرح ہے نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عباد سے فرشتوں کو منتخب کر لیا ہے لیکن وہ امر جسے جمہور صوفیائے کرام اور علمائے متکلمین وغیرہ نے راجح قرار دیا، یہ ہے کہ بشری رسول ہی ملکی رسولوں سے افضل ہیں۔ پس یہی حضرات ہونگے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چُن لیا ہے اور اُن سب کے سردار یعنی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے چُنا ہے، جیسا کہ اس بابت کی تائید تصدیق میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاداتِ عالیہ پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ بات صوفیہ کے نزدیک متفق علیہ ہے جس میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو اللہ کے دین میں وہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ:

انہ صلی اللہ علیہ وسلم	بیشک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری
سید الخلق و افضل العالمین	مخلوق کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ
علی الاطلاق لیس فوقہ	ہر ایک سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
الا للہ والحمد للہ الذی	آپ سے اونچا مرتبہ اور کسی کا نہیں ہے۔
ہدانا لهذا و ما کنا	سب تعریفیں اُسی خدا کے لیے ہیں جس نے
لنہتدی لولا ان ہدانا	ہمیں سچے دین کا راستہ دکھایا، اگر اللہ راستہ
اللہ۔ (ص ۱۳)	نہ دکھاتا تو ہم راہ نہ پاتے۔

شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ انتخابات سے بعض کی تشریح پیش کی ہے اور اُن کی تشریحات پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے بایں وجہ اختیار کیا گیا کہ آپ کے مزاج نے ایسے کمال

اور اعتدال کو چاہا جو دوسرے انسانی مزاجوں نے اُس طرح نہیں چاہا تھا اور اسی وجہ سے آپ نے اُس وقت نبوت کا مشاہدہ فرمایا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا ابھی جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا اور اُن کے جسمانی اجزاء ابھی عناصرِ اربعہ میں منتشر تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:

فكان له صلى الله عليه وسلم الله تعالى نے سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ

اعظم مجلی الہی علم بہ علیہ وسلم کو انتہائی کشفِ مرحمت فرمایا ہوا تھا

علم الاولین والآخرین و جس کے باعث آپ اولین و آخرین کے علم

من الاولین علم آدم الاسماء سے بہرہ ور ہو گئے تھے۔ اولین کے علم سے

واوئی محمد صلی اللہ علیہ آدم علیہ السلام کا علم الاسماء بھی ہے، حالانکہ

وسلم جو اسمع الکلم و محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اسمع الکلم

کلمات اللہ لا تنفذ وله عطا فرمائے گئے تھے جبکہ کلماتِ الہی ختم ہونے

السيادة على جمع الخلق والے نہیں۔ اور قیامت کے روز آپ پاری

يوم القيامة فيشفع في مخلوق کے سردار ہوں گے۔ اسی لیے فرشتوں

اشفاعين ان يشفعوا من ملك رسولوں، انبیاء، اولیاء اور مسلمانوں کو شفاعت

ورسول ونبی وولی و موہن کرنے کی اجازت لے کر دیں گے۔ پس اُس

فله المقام المحمود في اليوم حاضری کے دن (قیامت کے روز) مقامِ محمود

المشهود۔ صلی اللہ علیہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے

وسلم۔ (ص ۱۳) ہوگا۔

اس کے بعد شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرونِ ثلاثہ کو

۱۔ بزمِ آخر کا شمعِ فروزاں ہوا نورِ اول کا جلوہ ہمارا نبی (اعلیٰ حضرت)

۲۔ فاضلِ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہ

نرا مسندِ ناز ہے عرشِ بریں، نرا محرمِ راز ہے روحِ امیں

تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم

بالترتیب اختیار فرمانا اس لیے ہے کہ اُن میں سے پہلا زمانہ غائب اور موجود ہونے کے لحاظ سے آپ کے کمالات کے ظہور کا ہے۔ اس زمانے میں آپ نے بذاتِ خود شریعت کو قائم فرمایا اور آپ کی نیابت میں دیگر انبیائے کرام نے جو شریعتیں جاری کی تھیں انہیں منسوخ کر دیا اور جو ثابت رکھنا چاہا اُسے ثابت رکھا اور ایمان کے باب سے جو منسوخ یا غیر منسوخ تھا اُسے اُسی کے حال پر برقرار رکھا۔ یہ پہلا قرن ہے۔

اس کے بعد دو قرن ہیں اور دونوں ہی مسلمانوں کی فتوحات اور اسلام کے پھیلنے کے ہیں۔ ان تینوں زمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے برہمنے میں ایامِ بیس (تیرھویں) چودھویں پندرھویں راتیں) روشن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہاد کریں گے اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول خدا کو دیکھا ہو؟ جواب دیں گے، ہاں۔ پس اُنہیں فتح حاصل ہوگی اور یہ پہلا قرن ہے۔ اس کے بعد دوسری جماعتیں جہاد کریں گی اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول خدا کے دیکھنے والے شخص کو دیکھا ہو؟ جواب ملے گا، ہاں۔ اُنہیں بھی فتح حاصل ہوگی۔ یہ دوسرا قرن ہے۔ ان کے بعد اور جماعتیں جہاد کریں گی اور ان سے پوچھا جائیگا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اُس شخص کو دیکھا ہو جس نے رسول خدا کے دیکھنے والے شخص کو دیکھا ہے؟ جواب ملے گا، ہاں۔ پس اُنہیں بھی فتح حاصل ہوگی۔ یہ تیسرا قرن (زمانہ) ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے آگے تذکرہ نہیں فرمایا۔

شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحاتِ مکہ کا ایک سواڑ تالیسواں **شہکارِ دستِ قدرت** باب فراست کے اسرار کی معرفت کے لیے وضع فرمایا ہے چنانچہ صفحہ ۳۱ پر لکھتے ہیں کہ حکماء کے نزدیک فراست کے نام سے جو چیز مشہور ہے میں اُس کے اصل قاعدے اور تجربے کے بارے میں بعض باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایسی صفات کا اعتبار کرنا اُسی لحاظ سے ہوگا، جو اس کتاب میں ہمارے طریقے کا مقتضی ہے اور مختصر اور کافی ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے

جس کی پیدائش معتدل ہو یعنی اُس کی تمام حرکات اور تصرفات میں استقامت اور درستی ہو تو اُس کے باپ کو ایسی صفات مرحمت فرماتا ہے جن میں اُس آدمی کے مزاج کی صلاحیت ہو اور اسی طرح اُسی کی والدہ کے مزاج کو استوار فرماتا ہے پھر اُس کے لیے مرد اور عورت کی منی کو ایسی صلاحیت دیتا ہے پھر رحم مادر کو اُس کے مطابق صلاحیت دیتا ہے اور اُس میں اعتدال کی اخلاط کو درست کرتا ہے جو نطفے کو ٹھہرانے کی صلاحیت رکھے اور حرکاتِ فلکیہ کے ساتھ نجات کی باوری کے وقت میں اللہ تعالیٰ رحم میں پانی گرانے کا وقت مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اُس وقت اُس کی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔ پس ایسے طالع سعید میں مرد اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے اور دونوں کا مزاج بھی معتدل ہوتا ہے تو پانی معتدل رحم میں گرتا ہے اور رحم اسے قبول کرتا ہے اور اُس وقت اللہ تعالیٰ اُس شخص کی والدہ کو ہر اُس کھانے کی طرف راغب کر دیتا ہے جس میں اُس کے مزاج کو تقویت پہنچاتے اور جو رحم میں نطفے کی غذا فراہم کر سکے۔ پس اُس معتدل مقام میں نطفہ ایک صورت کو قبول کرتا ہے اور حرکاتِ فلکیہ کے سبب درست ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اُس کی پیدائش ہو جاتی ہے اور وہ نہایت معتدل صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ معتدل نومولود نہ زیادہ لمبا ہوتا ہے نہ لپست۔ نرم اور تروتازہ گوشت والا ہوتا ہے، نہ زیادہ سخت نہ بالکل نرم و نازک۔ ایسا سفید ہوتا ہے جس میں سُرخی اور زردی کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اُس کے بال درمیانے ہوتے ہیں، جو نہ بالکل سیدھے اور نہ ایک دوسرے اُلجھے ہوتے۔ اُن بالوں میں سیاہی کے ساتھ ہلکی سی سُرخی کی جھلک ہوتی ہے۔ چہرہ صاف، بڑی آنکھیں، جو گہرائی اور سیاہی کی طرف مائل ہوں، سرد میانہ، کندھے کھلے، گردن سیدھی، سینہ درمیانہ، سرین برابر، پشت پر بہت زیادہ گوشت نہ ہو۔ ہلکی اور صاف آواز، جو نہ کڑخت ہو نہ بالکل نرم، لمبی انگلیاں، ہلکی ہتھیلی، کم گو بکہ خاموش طبع جو صرف ضرورت کے وقت کلام کرے اُس کی طبیعت کا میلان صفر اور سودا کی طرف ہو۔ اُس کی نظر میں فرحت و سرور ہو۔ مال کی طمع بہت کم ہو۔ دوسروں پر دھونس جمانے کی عادت نہ ہو اور نہ حکمران بننا چاہے۔ جلد باز یا سست نہ ہو۔ پس ایسا شخص ہر دانشمند کے نزدیک نہایت مناسب پیدائش والا اور انتہائی خوب صورت ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا ہی پیدا فرمایا گیا تھا۔

تاکہ آپ خلقت میں بھی کامل ہوں جیسے کہ آپ مرتبے میں سب سے صاحبِ کمال ہیں۔ پس :
 فکان صلی اللہ علیہ وسلم اکمل پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری اور
 الناس من جمیع الوجوہ ظاہراً باطنی ہر لحاظ سے سارے انسانوں سے باکمال ہیں۔
 وباطناً۔ (ص ۱۳۱)

مرکزِ دائرہ تخلیق شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکیہ کی جلد سوم، باب ۳۱۳،
 صفحہ ۶۴ پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتے تمہیں اس بات سے
 باخبر ہونا چاہیے کہ :

ان اصل امر واحد روح محمد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم فہو ہماری روحوں کی اصل ہیں۔ پس آپ روحانی
 اول الالباء روحا وادم اول لحاظ سے اولین باپ ہیں جیسے کہ جسمانی لحاظ
 الالباء جسمًا و نوح اول الالباء سے آدم علیہ السلام اولین باپ ہیں اور رسالت
 رسولاً فانہ اول رسول کے لحاظ سے نوح علیہ السلام اولین باپ ہیں
 امرسل ومن کانوا قبلہ انما جنہیں سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا گیا، اُن
 کانوا انبیاء کل واحد علی شریعة سے پہلے نبی تھے، ہر ایک اپنے رب کی طرف
 من سربہ۔ (ص ۱۳۱) سے شریعت پر تھا۔

مقامِ مصطفیٰ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکیہ جلد سوم، باب ۳۳۷، صفحہ ۱۸۶
 پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : میں بروز قیامت
 سب انسانوں کا سردار ہوں گا۔ شیخ نے یہ پوری حدیث نقل فرمائی ہے۔ علاوہ بریں فخرِ دو عالم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہاں زندہ موجود ہوتے تو میرے

لے اسی لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے : اے

ہوتے کہاں خلیل و پنا، کعبہ و مینا

لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی رسالت عام اور شریعت سب کے لیے ہے اور آپ کو ایسے امور کے ساتھ خاص فرمایا گیا ہے جو دوسرے کسی نبی کو مرحمت نہیں ہوئے اور جس نبی کو کسی امر میں محبوبیت حاصل ہوئی، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہے لہذا وہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ کو اللہ جل شانہ نے جو امع الکلم مرحمت فرمائے ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ میں اُس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ باقی انبیائے کرام آپ کے زمانِ نبوت اور دور رسالت کے اندر ہی نبی رہے ہیں۔

ہمارا مقصد اس باب میں آپ کا منصب اور قدر و منزلت بیان کرنا ہے لہذا قیامت کے روز جب آپ کا دیدار عام ہوگا اور حق و صداقت کے اُس سب سے بڑے میدان میں حبیب پروردگار کے ابرگہر بار سے ہر خاص و عام فیضیاب ہو رہا ہوگا، اُس وقت نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب مہر نیمروز کی طرح سب پر ظاہر ہو جائے گا وہاں مشاہدے کی رو سے آپ کی سیادت کا سب کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ کی قدر و منزلت کا تعلق ہے تو حقیقت میں بجاظر مرتبے کے آپ کی حقیقی تعظیم و توقیر سے اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے مقامِ محمود ہے، جو فرشتوں اور دوسرے شفاعت کرنے والوں کے لیے بابِ شفاعت کو کھولنے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلے صرف آپ ہی شفاعت کر سکیں گے۔ وسیلہ صرف آپ کے لیے ہے، جس سے اعلیٰ جنت میں کوئی درجہ نہیں ہے جو اپنی امت کی دعاؤں سے آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ اُس نیک بختی کی جزا ہے جو امتِ محمدیہ نے حاصل کی، کیونکہ آپ نے امت کے لیے طریقہ واضح فرمایا اور اُس نے آپ کی تابعداری کرتے ہوئے شکر یہ کے طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کی۔ اس کے بعد شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی باب میں فرمایا ہے:

واعلم ان الله تعالى لما جعل
منزل محمد صلى الله عليه
جائنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیادت کے منصب

وسلم السيادة فكان سيداً ومن
سواه سوقة علمنا انه لا
يقاوم فان السوقة لا تقاوم
ملوكها فله منزل خاص و
للسوقة منزل ولها اعطى صلى
الله عليه وسلم هذه المنزلة
ادم بين الماء والطين
علمنا انه السمد لكل
انسان كامل مبعوث
بناموس الهى او حكى و
اول ما ظهر من ذالك
فى ادم حيث جعله الله
خليفة عن محمد صلى الله
عليه وسلم فامده
بالاسماء كلها من
مقام جوامع الكلم التى هى
لمحمد صلى الله عليه وسلم
فظهر بعلم الاسماء كلها على
من اعترض على الله تعالى فى
وجوده ورجع نفسه عليه ثم
توالى الخلائق فى الارض الى
ان وصل نرمان وجود صورة
جسمه لاطهار حكم منزلته باجتماع

پرفائز فرمایا، تو آپ کو نبی کے تاجدار ہوئے
اور باقی تمام مخلوق ماتحت ہوئی۔ اس سے
ہم نے جانا کہ آپ کا تدبیر مقابل کوئی نہیں
کیونکہ ماتحتوں کی اپنے بادشاہوں سے کوئی
برابری نہیں۔ آپ کے ماتحتوں کا بھی مقام ہے
لیکن آپ کا مقام سب سے نرالا ہے۔ جب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس منصب
نماص پرفائز فرمایا گیا اس وقت آدم علیہ السلام
پانی اور مٹی میں تھے۔ اس سے ہم نے جانا
کہ آپ کامل انسانوں کے بھی مددگار ہیں کیونکہ
آپ ناموس الہی اور اس کے حکم کے ساتھ
مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کی اس خصوصیت
کا اظہار سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے
متعلق ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا تھا تو آپ نے
مقام جوامع الکلم سے آدم علیہ السلام کی
تمام اسماء کے ساتھ مدد فرمائی اور یہ آپ ہی کا
منصب ہے جس سے تمام اشیا کا علم ہر
اُسی ہستی پر ظاہر ہوا جس کا وجود بارگاہ الہی میں
پیش ہوا اور جس کی روح اُس کی جانب کوئی۔
پھر یہ خلافت متواتر زمین میں چلتی رہی یہاں تک
کہ جہاں صورت کے ساتھ آپ کے جلوہ افروز
ہونے کا وقت آپہنچا، تاکہ دونوں سیادتوں کے

نشأتیہ فلما برز صلی اللہ
 علیہ وسلم کان کالشمس
 اندرج فی نورہ کل نور فافر
 من شرائعہ التی وجہ بہا
 نوابہ ما اقو لنسخت منها ما نسخت وظہرت
 عنایتہ بامتہ لخصورہ
 وظہورہ فیہا وان کان
 العالم الانسانی والناری
 کلہ امتہ ولکن ہو لاء
 خصوص وصف فجعلہا خیر
 امة اخرجت للناس ہذا
 الفصل اعطاء ظہورہ بنشأتیہ
 فکان من فضل ہذہ الامۃ
 علی الامم ان انزلہا منزلة
 خلقائہ فی العالم قبل ظہورہ
 اذ کان اعطاہم
 التشریع فاعطی ہذہ
 الامۃ الاجتہاد فی نصب
 الاحکام وامرہم ان
 یحکموا بہا اداہم الیہ
 اجتہادہم فاعطاہم التشریع
 فلحقوا بمقامات الانبیاء
 علیہم السلام فی

سامنے آنے سے آپ کی قدر و منزلت ظاہر ہو۔
 جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 رونق آرائے گیتی ہوتے تو سورج بن کر جس کی
 روشنی میں باقی اجرام فلکی کی روشنی کم ہو جاتی ہے
 پس وہ شرائع جن کو آپ کے نائب لے کر
 آئے تھے، ان میں سے کچھ برقرار رکھا اور باقی
 منسوخ فرما دیا۔ اس جلوہ گری سے امت پر
 آپ کی عنایت بھی ظاہر ہوئی، خواہ وہ انسان
 ہوں یا جن، سارے آپ کے امتی ہیں۔
 لیکن اپنی جلوہ گری کی خصوصیت سے مشرف
 فرماتے ہوئے اسے بہتر امت بنا دیا جو
 لوگوں کے لیے پیدا فرمائی گئی۔ یہ فضیلت آپ کی
 دونوں سیادتوں کے ظہور کا صدقہ ہے۔ پس
 امت محمدیہ کو ساری امتوں پر فضیلت ہوئی
 کہ اسے اس مقام پر رکھا گیا جس پر
 آپ کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے
 آپ کے خلفاء فائز تھے، کیونکہ انہیں تشریع
 کی اجازت تھی اور اس امت کو قیام احکام
 کے لیے اجتہاد کا مرتبہ عطا فرمایا گیا اور انہیں
 حکم دیا گیا کہ جہاں تک ان کا اجتہاد پہنچے اس کے
 مطابق حکم کریں۔ پس انہیں بھی تشریع کا منصب
 دیا گیا اور اس طرح ایک لحاظ سے انہیں
 مقامات انبیائے کرام علیہم السلام سے

فذلك وجعلهم ورثة لهم لتقدم
عليهم فان المتأخرين
المتقدم بالضرورة في دعوى
الى الله على بصيرة كما دعا
الرسول فاخبر بعصمتهم فيها
يدعون اليه منهم المخطئ
حكم غيره من المجتهدين
وما مخطئ عن الحق فان
الذى جاء به حق فان اخطأ
حكماً قد تقدم الحكم به
لمحمد صلى الله عليه
وسلم وما وصل اليه
فذلك الذى جعل له
اجراً واحداً وهو اجر الاجتهاد
وان اصاب الحكم المتقدم
باجتهاد فله اجران اجر الاجتهاد
واجرا لاصابة -
(ص ۱۳۲)

بلا دیا اور انھیں ان حضرات کا وارث بنا دیا
کیونکہ وہ بلحاظ زمانہ مقدم تھے اور پچھلے انگلوں
کے ضرور وارث ہوا کرتے ہیں۔ پس ائمہ مجتہدین
بھی علی وجہ البصیرت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف
بلا تے رہے جس طرح مرسلین عظام بلا تے
تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے خبر دی ہے کہ اس بلا نے میں وہ غلطی سے
پاک ہیں ایک مجتہد دوسرے کے حکم کی تغلیط
کرتا ہے لیکن دوسرا بھی عند اللہ مجتہد (خطاکار)
نہیں ہوتا، جو حکم اس نے پیش کیا ہے وہ
حقانیت پر مبنی ہے کیونکہ اگرچہ اس سے
حکم میں غلطی رہ گئی لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر فرمان اجتہاد کر رہا ہے۔
پس جہاں تک وہ پہنچا ہے، اُسے اجتہاد
کرنے کے باعث پورا اجر ملے گا۔ اگر صحیح
حکم تک پہنچ جائے تو گنا ثواب ہے۔ اُس
محکم کے برابر ثواب اجتہاد کرنے کا اور اتنا
ہی اجر و ثواب درجہ صحت تک پہنچنے کا ملے گا۔

اگرچہ مجتہدین میں سے صحیح حکم تک پہنچنے والا اپنے یا دوسروں کے نزدیک
غیر معروف ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ غیر معروف نہیں ہوتا اور سرور کون و مکان صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز ہونے کے بعد پہلے انبیائے کرام جو آپ کے
خلفاء ہیں، کوئی اس امت کے دور میں آئے تو اسی شریعت پر عمل کرے گا اور اسی کے مطابق حکم
کرے گا جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور وہ مجتہدین امت محمدیہ

اجتہاد کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اپنی پہلی خلافت (منصب نبوت) پر قائم رہتے ہوئے آپ کی امت کے زمرے میں بھی شمار ہوگا۔ قیامت میں بھی ایسے حضرات کے لیے دو حکم ہوں گے جن کے ساتھ وہ دنیا میں ظاہر ہوئے تھے۔

قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کا اللہ رب العزت کے دائیں جانب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ عرشِ معلیٰ پر جلوہ بار ہوگا تو آپ دائیں جانب کھڑے ہوں گے بلکہ اللہ جل شانہ سے بلحاظ منصب اتنے قریب تر ہوں گے کہ احکام و اوامر الہیہ جو اس عالم میں جاری ہوں گے اُن کے نافذ ہونے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مواضع و موارد کا فائدہ دیتے ہیں۔ پس ساری مخلوق آپ ہی کے ہاتھ فیضیاب ہوگی اور یہ حقیقت ہے کہ:

وہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا چہرہ ہیں
وجہ کلہ یروی من جمیع جہاتہ اور ہر سمت سے آپ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
ولہ من کل جانب اعلام عن ہر جانب سے آپ کو خبردار کرتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یفہم عنہ یرونہ قیامت میں لوگ آپ کے منصب کو سمجھیں گے،
لساناً و یسمعونہ صوتاً و آپ کے ارشاداتِ عالیہ کے منتظر رہیں گے
حرفاً۔ (ص ۱۳۲)

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہائش گاہ جنت کا وہ مقام ہوگا جسے وسیلہ کہتے ہیں اور تمام جنتیں گویا اُسی کا حصہ ہیں۔ وہ جنتِ عدن میں ہے۔ ہر جنت میں اس کا ایک شعبہ ہوگا جس سے اُس جنت والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہور فرمائیں گے اور وہ جنت میں انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ جنت کے باقی سارے منازل معنوی نہیں بلکہ حسی ہوں گے۔ اس کے بعد شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

واما منزلتہ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علوم میں یہ
علیہ وسلم فی العلوم فاحاطہ مقام ہے کہ آپ کے دائرہ معلومات نے
بعلم کل عالم باللہ من اللہ تعالیٰ کے ہر جاننے والے کی معلومات کا

العلماء به تعالیٰ متقدّمین
ومتأخّرین وکل منزل
له ولا تباعه مطیب بالطیب
الانہی الذی لم یدخل فیہ
ولا استعملت ایدی الاکوان
فیہ واعلم انہ من کمالہ
صلی اللہ علیہ وسلم خص
بست لم تکن لنبی قبلہ فاخیر
صلی اللہ علیہ وسلم انہ
اعطی مفاتیح الخزائن
الارض وہی خزائن اجناس
العالم لیخرج الیہم بقدر
ما یطلبونہ بذواتہم۔

احاطہ کیا ہوا ہے، خواہ وہ آپ سے پہلے ہوں
یا پچھلے۔ آپ کی اور آپ کے غلاموں کی ہر
منزل ایسی شاندار خوشبو سے عطر بیز ہے
جس میں نہ کسی کے تصرف کو دخل ہے اور
نہ کوئی عمل کرنے والا ان میں ہاتھ ڈال سکتا ہے
اور جانتا چاہیے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے کمالاتِ عالیہ چھ خصوصیات پر
مشتمل ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت
نہیں فرمائی گئیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ کو
زمین کے خزانوں کی گنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں
اس سے اجناسِ عالم مراد ہیں، تاکہ دنیا والوں
کی ذاتی طلب کے مطابق آپ نکال کر عطا

(ص ۱۳۳) فرماتے رہیں۔ لے

سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمال و صف کی بدولت
ان اجناس کے مستحق ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہِ مصر سے تمام خزانوں کی
حفاظت کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ وہ حفاظت کرنا جانتے تھے۔ تاکہ تمام لوگ آپ کے محتاج ہوں اور
اُن پر آپ کی سیادت ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے ایسی خوبی بیان کی جو اُن کے اندر موجود تھی
اور اُس کے مطابق مقام کے مستحق تھے، اسی لیے فرمایا تھا:

لہ اعلم حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: لے

آسمانِ خواں، زمیں خواں، زمانہ ہماں
صاحبِ خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا

اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْکُمْ ۝ ۱۷ بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔
یعنی حفاظت کرنے والا اس لحاظ سے ہوں کہ اس سے صرف ضرورت کے مطابق ہی نکلے گا۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلْهُ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوْمٍ ۝ ۱۸
اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے۔

جس فرد میں یہ صفت پائی جاتے وہی خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے مطالبے کے بعد یہ وضاحت فرمادی کہ وہ خزانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور محتاجوں کی حاجتوں سے بھی خبردار ہیں کیونکہ ان خزانوں سے لوگوں کی ضروریات وابستہ ہیں۔

فَلَمَّا اَعْطٰی صلی اللہ علیہ وسلم
مفاتیح خزائن الارض علمنا
انہ حفیظ علیم فکل ما ظہر
من سراق فی العالم فان الاسم
الالہی لا یعطیہ الا عن امر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم
الذی بیدہ المفاتیح کما
اختص الحق بمفاتیح
الغیب فلا یعلما
الا هو واعطی هذا السید
منزلۃ الاختصاص
باعطائه مفاتیح

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین
کے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمائی گئیں تو
ہم نے جان لیا کہ آپ اُن کی حفاظت کے
اہل اور حاجت مندوں کی ضروریات سے
خبردار ہیں۔ پس دُنیا میں جو بھی کسی کو رزق
ملتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کسی کو مرحمت
نہیں فرماتا، کیونکہ کنجیاں اُن کے ہاتھ میں
دی ہیں، جیسے غیب کی کنجیاں اللہ رب العزت
کے ہاتھ میں ہیں، اُنہیں سوائے اُس کے
کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سرور کون و مکان
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خاص الخاص

منصب رفیع عطا فرمایا کہ آپ کو (زمین کے)

خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمائی گئی ہیں۔

دوسری خصلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں۔ کلم جمع ہے کلمے کی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتنا علم عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ جنہوں نے وجود کا لباس پہنا ہے وہ آپ کے دائرہ علم میں ہیں اور بے شمار وہ چیزیں جو وجود میں بھی نہیں آئیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، حالاں کہ وہ حد و شمار سے باہر ہیں لیکن آپ کے دائرہ معلومات نے ان حقائق کا احاطہ کیا ہو اس لیے۔ یہ خدا کی صفات میں سے ہے اسی لیے کسی دوسرے میں بالذات نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہان کو شامل ہے، جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۰

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔

اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس میں کسی ایک جہان کی تخصیص نہیں ہے۔ پس جب آپ وہی کچھ رحمت فرمائے گئے ہیں جو ہر عالم چاہتا ہے، خواہ وہ چاہت کسی قسم کی ہو۔ ماسوائے اُن کے جو شرعی احکام کے مغایر ہیں، کیونکہ اُن پر تو آپ کی رحمت ظاہر ہے۔ آپ نے اُس رحمت کو خوب تقسیم فرمایا جسے دے کر آپ کو بھیجا گیا تھا۔

بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ حکم الہی کے تحت دُنیا میں رونق افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیشک کائنات کی ہر چیز راضی ہے کیونکہ ہر ایک جہان اُسی کے گُں گاتا اور پاکی بیان کرتا ہے، پس وہ اُس کے حکم سے راضی ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم جو اُس کی طرف سے عام دعوت لے کر آئے اس جہت سے بھی مخلوقِ خدا میں اُس کی رحمت دنیا میں بانٹی جا رہی ہے، سوائے اُن لوگوں کے، جو اُس سے خوش نہیں، جسے حکم دے کر بھیجا گیا ہے اور وہ اُس کے حکم سے راضی ہیں تو اُنھوں نے بھی اُس رحمت سے جس سے آپ کو مال مال کر کے بھیجا گیا تھا، اتنا حصہ تو پایا جتنا وہ خدا کے معین حکم سے راضی ہوا۔ یہاں تک کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت دے کر بھیجا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کسی کو آپ کی رحمت سے حصہ نہ ملے تو یہ کمی اُسی کی جانب سے ہے لہذا یہ اس کی قابلیت کا قصور ہے کیونکہ آپ تو مہرِ درخشاں کی طرح ہیں، جس کی شعاعیں تمام زمین پر پڑتی ہیں لیکن زمین کا وہ حصہ جو کسی دیوار وغیرہ کے ساتھ ہو اور وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور اُس کے دائیں بائیں کو منور کر رہی ہو تو اُسکی اس محرومی میں سورج کا کیا قصور؟ زمین کا وہ حصہ خود ہی سورج کا فیض حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔

یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر گورے **تیسری خصلت** اور ہر کالے کی جانب مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اجسام کے رنگوں کا تذکرہ فرمانے سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ابر رحمت ہیں جو سب پر برسے کیلئے مبعوث فرمائے گئے ہیں، جو اس عام شریعت کو ایمان لانے کے ساتھ قبول کرے، ایسے لوگوں کا شمار آپ کی تابعدار امت میں ہے جس کی جانب آپ کو شریعت قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، لیکن جنھوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا وہ آپ کی امت کے زمرے سے باہر نہیں ہیں۔

یہ ہے کہ ایک ماہ کی مسافت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم **چوتھی خصلت** رعب کے ساتھ مدد فرمائے گئے ہیں۔

یہ ہے کہ آپ کے لیے مالِ غنیمت حلال ٹھہرایا گیا ہے، حالانکہ آپ سے **پانچویں خصلت** پہلے وہ کسی نبی کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحابہ کرام میں مالِ غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائی ہے کہ یہ اعزاز دوسرے انبیاء کرام کو بھی مرحمت نہیں فرمایا گیا بلکہ اس میں فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی وہ کرامت بخشی گئی ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی پر ایمان لانے والوں کو ایسی عزت عطا نہیں فرمائی گئی۔

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام زمین کو پاک قرار دے دیا اور اُسے چھٹی خصلت آپ کی خاطر مسجد ٹھہرا دیا ہے۔ لہذا جہاں بھی آپ یا آپ کی امت نماز کا وقت پاتے، اُسی جگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح میں جو طویل بحث کی ہے اُس کے نقل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ خصلتیں ہیں جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت مرحمت فرمائی ہے اور آپ کو ایسا مقام حاصل ہو گیا ہے جو کسی بھی دوسری ہستی کو حاصل نہیں ہے۔ پس آپ کا حکم اس کائنات میں بھی اُسی طرح نافذ اور واجب العمل ہے جیسے برزخ، قیامت، مقام شفاعت اور جنت میں نافذ ہوگا، جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ان مقامات میں سے ہر مقام پر آپ کی خصوصیت نمایاں ہے، تاکہ اللہ جل شانہ نے جو آپ کو سب پر فضیلت دی ہے اور شرف بخشا ہے وہ سب پر واضح ہو جائے کیونکہ:

اعطی جمیع ما فضلت بہ آپ کو وہ تمام خوبیاں مرحمت فرمائی گئی ہیں

الرسول بعضها علی بعض۔ جن کے باعث ایک رسول کو دوسرے پر

(ص ۱۳۲) فضیلت دی گئی ہے۔

جان من! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُس رحمت سے جن کے ساتھ آپ مبعوث فرماتے گئے ہیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے ہمارے لیے شریعتِ مطہرہ کو ظاہر فرمایا اور حکمِ الہی کے تحت آپ نے اُس کی کماحقہ تبلیغ و اشاعت فرمائی۔ رسالت کی یہ شرط نہیں ہے کہ اُس کی صداقت کے نشانات ظاہر ہو جائیں تاکہ سب اُنہیں دیکھ لیں، بلکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے، اور مخلوقِ خدا تک اُس کے احکام پہنچانے پر مامور ہوتا ہے۔ اُس کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے سوا کچھ

اور اُس پر واجب نہیں۔ اگر اُس کی صداقت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ بات نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کی اس بات سے معذوری خود بیان فرمائی ہے۔ پس یہاں انبیائے کرام کے لیے بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ۚ

مِّنْ رَبِّهِ ۖ لَہ

رب کی طرف سے۔

یہ کسی عربی کا نہیں بلکہ غیر عرب کا اعتراض نقل فرمایا گیا ہے کیونکہ اہل عرب کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صداقت واضح کر چکے تھے، جبکہ قرآن کریم کے اعجاز کا عربوں کے سوا دوسرے کا حقہ اندازہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کہیں وارد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر غیر عرب مثل یہود، نصاریٰ اور مجوس وغیرہ کے مطالبے پر کوئی معجزہ اپنی صداقت ظاہر کرنے کی خاطر دکھایا ہو۔ آپ جو نشانیاں اور معجزات لے کر مبعوث ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، معجزے دکھانا آپ پر واجب نہیں تھا، نہ دوسرے رسولوں پر واجب تھا، اسی لیے فرمایا گیا ہے:

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ

وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ

پھر سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا،

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً ۚ

کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پس اُمم سابقہ کی

تمام معلومات قرآن کریم میں موجود ہیں اور یہ اپنے لانے والے کی صداقت پر خود گواہ ہے اور آپ کی اُمت قرآن احوال سے یہ جانتی ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کسی سے کچھ پڑھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ کسی کتاب کا کبھی مطالعہ کیا، نہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور نہ اپنے شہر سے کبھی دُور رہے بلکہ آپ دُوسرے اُن پڑھوں کی طرح اُن پڑھ ہی رہے۔

اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اُمور کی خبریں دیں جن کے بارے میں ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے بھلا ایک عام آدمی اُن کی خبریں کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا قرآن کریم کے ذریعے جو کچھ بھی آپ لے کر آتے، وہ آپ کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے لیے مخالفین کتے اور ثبوت طلب کیا کرتے تھے اور اہل عرب پر قرآن کریم کا اعجاز ظاہر تھا کیونکہ یہ اُن کی مادری زبان میں نازل ہوا تھا اور وہ بھی اس سے معارضہ نہ کر سکے یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جانتے ہوئے معارضہ نہ کیا کہ منہ کی کھانے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو گا۔ نیز قرآن کریم کے ذریعے آپ کو دیگر سماوی کتب کا علم بھی حاصل ہو گیا، جنہیں یہود و نصاریٰ اور دیگر اہل کتاب جانتے تھے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی صداقت کا روشن نشان ہوا کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مذکورہ بالا تقریر سے:

فقد تبين لك منزل محمد	تیرے لیے دُوسرے انبیاء و مرسلین علیہم السلام
صلى الله عليه وسلم من غيره	کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
من الرسل وخصه الله	علیہ وسلم کا مقام رفیع بخوبی ظاہر ہو گیا اور
بعلوم لم تجتمع في غيره	اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم سے خاص
منها انه اعطاء انواع ضروب	فرمایا ہے جو آپ کے سوا کسی دُوسرے کو
الوحى كلها فادحی	حاصل نہیں ہیں۔ اُن علوم سے ایک یہ شعبہ ہے

لے مجددِ مائتہ حاضرہ نے یہ مضمون یوں باندھا ہے:

تیرے سامنے یوں ہیں دے لے فصحاء عرب کے بڑے بڑے

کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں

اللہ الیہ جمیع مایستی و حیا
 کالمبشرات والانزال علی
 القلوب والاذان بحالۃ
 العروج وعدم العروج وغیر
 ذالک وخصتہ بعلمہ
 علم الاحوال کلہا فاعطاه
 العلم بکل حال و فی کل
 حال ذوقاً لاندہ اس سئلہ
 الی الناس کافۃً واحوالہم
 مختلفۃ فلا بد ان تکون
 رسالتہ تعین العلم
 بجمیع الاحوال وخصتہ
 اللہ بعلم احوال الاموات
 معنی و حساً فحصل العلم
 بالحیۃ المعنویۃ
 وہی حیۃ العلوم والحیۃ
 الحسیۃ وہی مافی
 فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام
 تعلیمہا و اعلاماً الرسول للہ صلی
 اللہ علیہ وسلم وهو قولہ
 تعالیٰ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ
اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا تَنْبِئُ
بِاَفْئِدَتِ لَوْ

کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی وحی سے مشرف
 فرمایا، جسے بھی وحی کہا جاتا ہے، جیسے سچے
 خواب، دلوں اور کانوں پر وحی کا بحالتِ
 عروج و عدم عروج نازل ہونا وغیرہ اور نبی کریم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام احوال کا علم
 عطا کر کے خاص فرمایا، یعنی آپ کو ہر حال کا
 علم عطا فرمایا اور ہر حالت کی ذوقی معلومات سے
 مطلع فرمایا کیونکہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی جانب
 رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چونکہ لوگوں کے
 حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ضروری
 ہوا کہ آپ کی معلومات کا دائرہ اتنا وسیع ہو
 جو تمام احوال کا احاطہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کے معنوی اور
 حسی علم کے ساتھ بھی خصوصیت بخشی ہے۔
 پس آپ کو جو معنوی حیات کا علم حاصل ہے
 اس سے مراد علوم کا زندہ کرنا ہے اور حسی
 حیات وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے ایک واقعے میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتانے اور مطلع فرمانے
 کے لیے ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے
 کہ ہم تمہارے لیے رسولوں کی خبریں بیان
 کرتے ہیں، کہ تمہارے دل کو ثابت رکھیں

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
 وَخَصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِعِلْمِ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا فَاَبَانَ
 لَهُ عَنْ شَرَائِعِ الْمُتَقَدِّمِينَ
 وَآمَرَهُ أَنْ يَهْتَدِيَ بِهَدَاهِمُ
 وَخَصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِشَرِّعٍ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ مِنْهُ
 مَا ذَكَرْنَا فِي السُّنَنِ الَّتِي خَصَّ
 بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص ۱۳۵)
 اور اس بارے میں تمہارے پاس حق آگیا ہے
 اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جملہ
 شرائع کے علم کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔
 پہلوں کی شریعتیں آپ پر ظاہر فرمائیں اور
 اُن کی طرح راہ ہدایت اختیار کرنے کا آپ کو
 حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کو ایسی شریعت کے ساتھ خاص فرمایا جو
 کسی اور کو نہیں دی تھی، جیسا کہ ہم نے
 آپ کی چھ خصوصیات کے تحت لکھا ہے۔

مقام محمود شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ، جلد سوم، باب ۳۳۸، صفحہ ۱۹۴ پر فرمایا ہے: یہ جان لینا ضروری ہے کہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اسم گرامی حمید کے ساتھ رونق افروز ہوں گے۔ اُس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھنڈے ہیں جنہیں حمد کا نام دیا گیا ہے۔ وہ جھنڈے فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے وارثوں کو مرحمت فرمائے جائیں گے۔ اُن جھنڈوں میں اللہ جلّ شانہ کے ایسے اسمائے گرامی ہوں گے، جن کے ساتھ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت مقام محمود میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں شفاعت کا سوال کروں گا تو اُس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے محامد کے ساتھ بیان کروں گا جنہیں اُس وقت میں نہیں جانتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اسمائے طیبہ ہیں، جو اُس مقام سے خاص مناسبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صرف اسماء الحسنیٰ ہی سے کی جاسکتی ہے اور ہماری معلومات اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کا احاطہ کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے اور نہ کسی

کان نے اُن کی آواز سُنی ہے اور نہ کسی دل میں اُن کی صورت کا صحیح تصور آیا ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اُن کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک شے کسی نہ کسی اسم الہی کے ساتھ منسوب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اُس نام کے ساتھ ظاہر کرے گا اور اسم الہی وہ ہے جس کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے باخبر ہو کر انعامات الہیہ کے ساتھ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، خواہ یہ ثنا تسبیح کے ساتھ ہو یا اثباتِ علم کے ساتھ۔

جب تمہیں اُن کی معرفت حاصل ہو گئی تو تعداد کے بارے میں سوال کرو گے جن کے ساتھ بروز قیامت مقامِ محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے گی۔ پس ہم نے جان لیا کہ ہمیں دنیا میں اُن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو بتائے گا کیونکہ وہ ایسے محامد سے متعلق ہیں جن کے عرفان کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ جب قیامت میں ہم آپ کو اُن اسماء کے ساتھ حمد و ثنا کرتے ہوئے سنیں گے اور قیامت میں مقامِ محمود پر ہر جھنڈے کے ساتھ وہ اسمائے الہیہ ظاہر ہوں گے، تو اُس مقام پر اُن اسمائے الہیہ کا علم ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا اور اُن اسماء الحسنیٰ کی تعداد کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ اُن کی تعداد ایک ہزار چھ سو چونسٹھ ہے۔ ان میں سے ہر ایک جھنڈے میں ننانویں اسمائے الہیہ ہیں۔ جو انہیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان جھنڈوں میں سے حمد کے جھنڈے میں مذکورہ اسمائے الہیہ سے سات سو ستتر اسماء درج ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام محامد کے ساتھ حمد الہی بیان کریں گے اور ہر اسم میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا مطالبہ ہے۔

فتح مبین ۲۰۲ پر یہ آیات درج کر کے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ

بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح

فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ

مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ
اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝ ۱۰
بچتے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچلوں
کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور
تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اور اللہ تمہاری
زبردست مدد فرماتے۔

ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حقیقی مکاشفے کی کامیابی، باطنی حلاوت میں سرفرازی
اور رفعتِ کلام ہے اور مذکورہ فتوحات کے باعث قرآنِ کریم معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسا کلام رفیع عطا فرمایا گیا ہے ایسا کسی دوسرے کو مرحمت نہیں فرمایا گیا۔
اسی لیے اللہ جلّ شانہ نے اعلان فرمایا ہے :

قُلْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ
الْجِنِّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ ۱۱
تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر
متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں
تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے، اگرچہ ان
میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔

ظہیر اسے یہاں مراد معیناً یعنی مددگار ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم سے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مذکورہ تینوں قسم کی فتوحات کے دروازے کھول
دیئے ہیں۔ ساتھ ہی فتحاً مصدر سے اس کلام کو مؤکد کر دیا ہے۔ مبیناً سے مراد ظاہر ہے
جسے ہر دیکھنے والا واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ فتوحِ حلاوت یعنی باطنی حلاوت کی سرفرازی
یہ آپ کو ذوقی طور پر حاصل ہے۔ فتوحِ عبارت یعنی رفعتِ کلام، یہ اہل عرب کا طرہ امتیاز
جس میں دوسروں کو عاجز کر دیا کرتے تھے۔ فتوحِ مکاشفہ یعنی حقیقتِ واقعہ کے انکشاف
میں کامیابی، اس کاشبِ معراج میں آپ کو خصوصی حصول ہوا، جب بڑی سے بڑی نشانیوں
کا مشاہدہ بھی کروایا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے گناہ معاف فرمادے
اور یہ بات آپ سے پوشیدہ رکھے جس سے گنہگار عتاب کا مستحق ہوتا ہے اور پچلوں کے

گناہ بھی معاف فرما دے اور آپ کو گناہوں سے بالکل بچا کر رکھے کہ وہ آپ تک پہنچ ہی نہ سکیں اور اس طرح آپ گناہوں سے برآ ہیں۔

پچھلوں کے گناہ بخش دینے کی بشارت سے ہیں یہ معلوم ہو گیا کہ بیشک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں اور عصمت کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی گئی ہے اور آپ کی معصومیت پر یہ بات سب سے زیادہ مؤید ہے کہ آپ کو لوگوں کیلئے اُسوۂ حسنہ بنایا گیا ہے تاکہ لوگ آپ کی اقتدا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام معصومیت سے سرفراز فرماتا تو ایسے امور میں بھی آپ کی اقتدا ہمارے لیے ضروری ہو جاتی، جو آپ سے گناہ کے بطور واقع ہوتے اور آپ سے گناہ سرزد ہونے کے بارے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہوئی ہے، جیسے یہ کہ ساتھ نکاح میں آپ کی خصوصیت پر نص قطعی وارد ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص اور آپ کے لیے مشروع ہے جبکہ ہم پر حرام ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری نعمتیں عطا فرمائی گئیں۔ ہم نے جب مخلقہ اور غیر مخلقہ یعنی مکمل اور نامکمل نعمتوں کو پہچان لیا ہے اور اس آیت نے خبر دی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل نعمتیں مرحمت فرمائی گئی ہیں۔ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سے مراد یہ ہے کہ جس راستے پر سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گامزن ہیں وہی صراطِ مستقیم ہے۔ جیسے ہود علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر رہتا ہے۔

تمام شریعتیں نور ہیں اور ان میں شریعتِ محمدیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ستاروں میں سورج، جب سورج ظاہر ہو تو ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی میں داخل ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی روشنی کا چھپنا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے دوسری شریعتوں کے منسوخ ہونے کی طرح ہے، حالانکہ اُن کا وجود اُسی طرح باقی ہے، جیسے ستاروں کا نور باقی رہتا ہے۔ اسی لیے شریعتِ محمدیہ نے تمام رسولوں اور اُن کی

شریعتوں پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ٹھہرایا ہے، کیونکہ وہ حق ہیں اور فسوخ ہو جانے کے باعث وہ باطل نہیں ہوئیں۔ شراٹع سابقہ کو باطل کہنا جہلاء کا فاسد گمان ہے۔ پہلے تمام تر راستے سید الانبیاء والبرسلیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کی جانب ہی رجوع کرتے ہیں۔ اگر گزشتہ رسولوں سے کوئی رسول آپ کے زمانہ اقدس میں موجود ہوتا تو اُسی طرح آپ کا اتباع کرتا جس طرح تمام شریعتیں شریعت محمدیہ کے تابع ہیں، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوامع الکلم مرحمت فرمائے گئے ہیں۔

وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا جو فرمایا ہے تو عزیز و ہوتا ہے جس کا قصد کیا جائے لیکن اُس تک رسائی کی طاقت نہ ہو۔ چونکہ سارے انبیائے کرام آپ کی طرف وصول کے طالب تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عام بعثت کے سبب اُن کے پالینے سے دور رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو جوامع الکلم اور آخرت میں مقام محمود عطا کر کے سیادت مرحمت فرمائی ہے اور آپ کی امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہر امت کا مرتبہ اُس کے نبی کی عظمت کے مطابق ہوتا ہے۔

تبلیغ کا معاوضہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ، جلد سوم، باب ۳۲۲،
صفحہ ۲۲۳ پر فرمایا ہے کہ عمل بذاتہ ثواب اور اجر چاہتا ہے اور عمل کرنے والے کو ثواب ملنے کا حق پہنچتا ہے۔ احکام رسالت کو ادا کرنا رسول کا عمل ہے اور بھیجنے والے نے اُس سے فریضہ رسالت کا کام لیا ہے کیونکہ اُسے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، اس لیے بھیجنے والے پر اس کا اجر دینا ضروری ہے، مرسِل الیہ جس کی طرف بھیجا گیا، نے اُسے اس کام پر مامور ہی نہیں کیا، لہذا اجر دینا اُس پر ضروری نہیں۔ اسی لیے مرسلین عظام نے اس امر الہی کا اپنی امتوں سے بر ملا تذکرہ کر دیا تھا، تاکہ اُنھیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس بارے میں امر الہی کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں
مانگتا، میرا اجر تو اُسی پر ہے جو سارے

الْعَالَمِينَ۔ لہ

جہان کا رب ہے۔

پس رسولوں نے اپنی اجرت کا حق اُسی پر ڈالا جس نے اُن سے یہ کام لیا اور اس جواب سے اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کے امر ہی کا اظہار فرمایا ہے، کیونکہ اُس نے ہر ایک رسول کو یہی حکم دیا: تم فرما دو، میں تبلیغِ دین کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ لیکن فضائل کے باب میں سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو دوسروں کو میسر نہیں اور اس فضیلت سے آپ کی اُمت کو بھی حصہ ملا ہے۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجر بھی دوسرے رسولوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس اجر کا کچھ حصہ اپنی اُمت سے بھی وصول فرمائیں اور اُس کی صورت یہ ہے کہ وہ حبیبِ پروردگار کے قرابت داروں سے محبت کریں، چنانچہ فرمایا:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ لہ

مگر قرابت داروں کی محبت۔

یعنی دین کی تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں ماسوائے اُس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اُمتِ محمدیہ پر تبلیغ کا معاوضہ آپ کے قرابت داروں سے محبت رکھنے کی صورت میں ادا کرنا واجب ہے۔ نیز آپ کے اہل بیت سے بھی اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مَوَدَّتْ کہا ہے وہ محبت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرما دیا تو یہ نہیں کہا کہ اب اللہ کے ذمے تمہارا کوئی اجر نہیں رہ گیا اور نہ یہ فرمایا کہ تمہارا اجر باقی رہ گیا ہے۔ تاکہ ذاتِ باری ایسی چیز بیان کر کے اپنی نعمتوں کی تجدید فرماتے جس سے محبوب کو سرور حاصل ہو۔ اسی لیے دوسرے رسولوں کی طرح آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اپنی اُمت کو یہ اعلان سنا دیا جائے کہ میں تم سے اگر کوئی اجر چاہتا ہوں تو صرف تمہارے لیے ورنہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس میں آپ نے اُمت کے سر سے نبی کے قرابت داروں سے محبت کرنے کا اجر ساقط

نہیں کیا بلکہ اُس کے تعین کے بعد اُسے اُن کی جانب ہی لوٹا دیا ہے، حالانکہ اس اجر کے مستحق صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پس محبت کی فضیلت کو اُس کے حقداروں کی طرف لوٹا دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکیہ، جلد سوم، باب
الإنسان الكامل ۳۴۶، صفحہ ۲۴۷ پر فرمایا ہے کہ اس دنیا میں کامل انسان کا
 مرتبہ نفسِ ناطقہ کی طرح ہے۔ انسانوں میں سب سے کامل وہ ہے جس سے اکمل دوسرا کوئی
 نہیں اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ کمال جو اس
 عالم کی غایت ہے اُس کے باعث وہ کامل انسان جن کا درجہ آپ کے بعد ہے اُن کا مرتبہ
 انسانی قوتوں کی طرح ہے اور ان درجات پر دیگر انبیائے کرام علیہم السلام فائز ہیں اور جن
 حضرات کا مرتبہ ان حضرات کے بعد ہے وہ انسان کی حسی قوتوں کی طرح ہیں اور ایسے حضرات
 علمائے کرام و ادویائے عظام ہیں (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) جو انبیائے کرام کے وارث ہیں۔
 ان کے علاوہ باقی انسان شکل و صورت کے لحاظ سے انسان ہیں لیکن اُن کا شمار حیوانات
 میں ہوتا ہے کیونکہ وہ انسانوں میں رُوحِ حیوانی کی طرح ہیں، جس سے انسانوں کی افزائش کا
 سلسلہ قائم ہے اور احساساتِ اسی قوت کے مرہونِ منت ہیں۔ پس:

واعلم ان العالم اليوم بفقد جمعیۃ	جاننا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ظہورۃ	وسلم کے پردہ پوش ہو جانے کے باعث
روحاً وجسماً وصورۃً ومعنائاً قائم ولا	اب یہ دنیا سو رہی ہے۔ آپ اس دنیا میں
میت وان روح الذی ہو محمد صلی	قُبۃ رُوحِ انسانی کی طرح ہیں جیسا کہ نیند کے
اللہ علیہ وسلم ہر من العالم فی صورۃ	وقت ہوتا ہے۔ خواب سے اس دنیا کے
المحل الذی ہو قبۃ روح الانسان	بیدار ہونے کی حالت قیامت تک رہے گی
عند النوم الی یوم البعث الذی ہو مثل	اور بیشک ہم نے تخصیص کرتے ہوئے
یقظۃ النائم ہمننا واثمنا	

قلنا محمد صلى الله عليه
وسلم على التعيين انه
هو الروح الذي هو النفس
الناطقه في العالم لها
اعطاه الكشف وقوله
صلى الله عليه وسلم
هو انه سيد الناس في
العالم من الناس فانه
الانسان الكبير في الحبرم
والمقدم في التسوية و
التعديل ليظهر عنه صورة
نشأة محمد صلى الله
عليه وسلم كما سوى الله
جسم الانسان وعدله قبل
وجود روحه ثم نفخ فيه من
روحه روحاً كان به
انساناً تاماً اعطاه بذلك
خلقه وهو نفسه الناطقة
فقبل ظهور نشأته صلى
الله عليه وسلم كان العالم
في حال التسوية والتعديل
كالجنين في بطن امه وحركته
كالروح الحيوانية منه

کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ہی اس دنیا کی وہ روح ہیں جسے نفسِ
ناطقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو (ساری دنیا کا) کشف عطا فرمایا
ہے اور جیسا کہ سرورِ کون و مکان صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
آپ ہی سارے انسانوں کے سردار ہیں
اور دنیا لوگوں سے ہے کیونکہ نوعِ انسانی کو
برابری اور اعتدال میں نیز جسمانی حالت اور
تقدیم کے لحاظ سے بڑائی حاصل ہے تاکہ اس
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے جمالِ جہاں آرا کی صورت ظاہر ہو جس
طرح اللہ تعالیٰ نے روح کے جسم میں داخل
ہونے سے پہلے جسمِ انسانی کو برابر اور اعتدال
پر کیا پھر اُس میں اپنی طرف کی روح پھونکی
وہ روح جس کے ساتھ وہ مکمل انسان بنا۔
اسی طرح اُسے تخلیق کا لباس پہنایا اور یہی
روح (جس کے ساتھ وہ مکمل انسان بنا)
نفسِ ناطقہ ہے۔ پس نبی آخرِ الزمان صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے
یہ جہاں تسوید اور تعدیل کے مراحل سے گزر
رہا تھا، جیسے بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوتا
اور اُس کی حرکت روحِ حیوانی کی طرح ہوتی ہے

الذی صحت له به الحیاة
فاجل فکوک فیما ذکرته
لک فاذا کان فی القیامة
حی العالم کله بظهور نشأته
صلی اللہ علیہ وسلم۔

جس کے ساتھ وہ زندگی سے ہمکنار رہتا ہے۔
جو کچھ یہاں تمہارے لیے مذکور ہوا ہے اُس
میں تمہیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ قیامت کے
روز آپ کے وجود کی جلوہ آرائی کے باعث
سارا جہان زندہ ہو جائے گا۔ (صلی اللہ

(د ۱۳۴) (تعالیٰ علیہ وسلم)

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکیہ، جلد سوم، باب ۳۵۵، صفحہ
۳۳۱ پر فرمایا ہے کہ:

فکل من فی الوجود من المخلوقات
یعبد اللہ علی الغیب الا
الانسان الکامل المؤمن
فانه یعبده علی المشاهدة
ولا یكمل العبد الا بالایمان
فانه النور الساطع الذی یریل
کل مظلمة فاذا عبده الشہادة
مرأ جمیع قواه فمات
بعبادته غیر ولا ینبغی
ان یقوم بہا سواہ فمات
من حصل له هذا التمام
الا المؤمن الانسانی فانه
ماکان مؤمناً لا بربہ فانه
سبحانہ المؤمن واعلم
انک اذا لم تکن بہذہ المنزلة
ومالك قدم فی ہذہ الدرة

مخلوقات سے جتنے بھی عالم وجود میں ہیں وہ
انسانِ کامل کے علاوہ باقی سارے ہی
اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر دیکھے کرتے ہیں،
لیکن انسانِ کامل ایسا مومن ہے جو مشاہدے
کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور ایمان کے بغیر بندہ مکمل نہیں
ہوتا کیونکہ یہی تو وہ بلند نور ہے جو ہر تاریکی کو زائل کر کے
رکھ دیتا ہے پس جب اس کا بندہ اسے دیکھ کر عبادت
کرتا ہے تو اس کے سارے قویٰ کو رویت حاصل ہوتی ہے
دوسرا اس جیسی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ
دوسرے کے یہ بس کی بات ہے، سوائے
اُس انسانی مومن کے جسے یہ مقام حاصل ہو
کیونکہ وہ صرف اپنے رب تعالیٰ پر ایمان
رکھتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ
بھی مومن ہے اور تمہیں جاننا چاہیے کہ اگر
تم اس مقام تک نہ پہنچے ہو اور اس درجے
کی معرفت تک تمہاری رسائی نہ ہو تو میں

فانا ادلك على ما يحصل لك به تمہاری اتنی رہنمائی کرتا ہوں جس سے تمہیں
الدرجة العليا۔ (ص ۱۳۸) اس منصب رفیع کی معرفت حاصل ہو جائے۔

اور تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایک مزاج پر پیدا نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کے
مختلف مزاج بنائے ہیں۔ یہ بات عام مشاہدے کی، بدیہی اور ضروری ہے کہ عقلی اور ایمانی
نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو لوگوں کے درمیان بڑا فرق ہے اور یہ بات تو صحیح طریقے سے تمہیں
یقیناً معلوم ہوگی کہ انسان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے اور اس آئینے کے ذریعے اُس چیز کو
دیکھتا ہے جسے کوئی آدمی اپنی مثل کے آئینہ کے بغیر خود نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان اپنی نفسانی خواہش
کے باعث مجرب اور اسی پر عاشق ہے۔ جب وہ کسی خوبی کو دوسرے میں دیکھتا ہے جبکہ اُسے
خود بھی وہ حاصل ہو، تو اپنا عیب دوسرے میں دیکھنے لگتا ہے۔ پس اگر وہ بُری ہے تو اُس کی
بُرائی کو اور بھلی ہے تو اُس کی بھلائی کو دیکھ لے گا۔

تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نظر آنے والی چیزوں کی اشکال
مختلف ہیں اور وہ دیکھنے والے کے نزدیک اُس کی شکل کے اعتبار سے لمبی، چوڑی، سیدھی،
ٹیڑھی، کم، زیادہ، متعدد اور کل کی صورت میں نظر آتی ہے، جیسا کہ آئینے میں نظر آنے والی
شکل اُس پر ظاہر کرتی ہے۔ جب تم نے اس بات کو سمجھ لیا تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مرسلیں عظام
اپنے رب کریم کی عطا فرمودہ رسالت کو قبول کرنے کے باعث باقی انسانوں سے اعلیٰ مزاج
والے ہوتے ہیں۔ اُن میں سے ہر فرد نے منصب رسالت سے اتنی ہی قدر کو قبول کیا ہوتا ہے
جتنی اللہ تعالیٰ نے ترکیب کے اعتبار سے اُس کے مزاج میں ودیعت فرمائی ہوتی ہے۔ چونکہ
ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، لہذا اُس کا مزاج بھی قوم کے مطابق خاص ہوتا ہے
لیکن سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی جانب رسالت عامہ کے ساتھ
بھیجا گیا اور آپ نے اس رسالت کو اسی لیے تسلیم کیا کہ یہ رسالت عامہ ہے، جو عام مزاج پر
مشتمل ہونے کے باعث مجملہ انبیاء و مرسلیں علیہم السلام کے مزاجوں کی حامل ہے۔ اس لیے
آپ اعلیٰ اور اکمل مزاج والے ہوتے اور آپ کی تخلیق سب سے اقویٰ ہے۔

جب تم نے اس بات کو جان لیا اور تمہارا ارادہ ہوا کہ حق کو انسانی شکل
میں اُس کی کامل صورت کے ساتھ دیکھو تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ تمہارا یہ منصب برگز نہیں ہے

جو فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور نہ تم اُسے جاننے کے قابل ہو کیونکہ تمہارے دل کے آئینے میں جب بھی تم پر حق ظاہر ہوگا، تو اس حالت میں تمہارا آئینہ تمہارے ہی مزاج کی شکل و صورت ظاہر کر رہا ہوگا۔

تمہیں جب یہ بخوبی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے رب کی معرفت کا پیدائشی طور پر جو درجہ حاصل ہے تم اُس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے اوپر یہی لازم ہے کہ اُن پر ایمان لاؤ، اُن کے اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لو اور آقائے نامدار، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشوا بنائے رکھو۔ پس جیسے تم آئینے میں اپنی او دوسروں کی صورت دیکھتے ہو، اس طرح اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں تجلی فرماتا ہے اور یہ واضح ہے کہ آئینہ دیکھنے والے کی نظر میں آئینے کا اثر ہوتا ہے، لہذا فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں حق کا ظہور انتہائی کامل، واضح اور احسن ہے اور جب تم سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کا ادراک کرو گے تو تمہیں ایسا ادراک ہوگا جیسا اپنے آئینے میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے بابِ ایمان اور عقیدہ رسالت کے اُن امور پر غور نہیں فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب فرمایا ہے حالانکہ عقلِ انسانی انہیں محال شمار کرتی ہے۔ اگر اُن باتوں پر شریعتِ مطہرہ کی مُہرِ مثبت نہ ہوتی اور اُن پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا تو عقلی لحاظ سے ہم انہیں تسلیم کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتے بلکہ ابتداء ہی میں انکار کر دیتے اور ایسی باتوں کے قائل کو جہلاب میں شمار کرنے لگتے۔ پس جیسے رسالت اور ایمان کے بارے میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جن کے ادراک سے عقلیں قاصر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی طرح ہمارے مزاج اور ہمارے دلوں کے آئینے اُن چیزوں کے مشاہدے اور ادراک سے قاصر ہیں جو فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینے میں ظاہر ہوتی ہیں۔

شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکہ، جلد سوم، باب ۳۶، معراج و اسراء صفحہ ۴۴ پر سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی سیر یعنی معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - اُس جیسا کوئی نہیں۔

یعنی اپنی ذات قدسی صفات کا ایسا وصف بیان فرمایا جو اُس کے سوا کسی کے لائق نہیں۔
دوسری جگہ فرمایا:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ - اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو۔

علاوہ بریں رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانے، عرشِ معلیٰ پر غلبہ کرنے اور عماء میں ہونے (عماء وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کیفیت اور تشبیہ کے بغیر تمام مخلوق سے پہلے موجود تھا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور لغوی لحاظ سے عماء کا مطلب ہلکا بادل ہے)، زمین و آسمان میں ہونے، انسان کی شہ رگ سے قریب ہونے وغیرہ تمام حالات میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اوصاف سے اُسی کی ذات متصف ہے وہ اپنے کسی بندے کو دیکھنے کے لیے ایک مکان سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بلکہ اُسے اپنی قدرت کے ایسے کوشے دکھانے کے لیے منتقل کرتا ہے، جو اُس بندے سے پوشیدہ ہوں۔ اسی طرح:

اذا نقل الله العبد في احواله	جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ایک
ليريه ايضا من اياته فنقله	حال سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے تاکہ
في احواله مثل قوله صلى الله	اُسے اپنی نشانیاں دکھائے تو اِس طرح اُس
عليه وسلم زويت لي	کے احوال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے جیسے رسول اللہ
الا رضى فرأيت مشارقها	صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے
ومغاربها وسيبلغ	زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے اُس کے
ملك امتي ما زوى	مشارق و مغارب دیکھ لیے اور عنقریب میری
لي منها۔	امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک
(ص ۱۳۹)	میرے لیے زمین سمیٹی گئی ہے۔

ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے :

وَكَذَٰلِكَ يُرِيّٰ اِبْرٰهٖمَ ۝

مَلٰٓئِكَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ ۝ ۱۷

یعین الیقین ہے کیونکہ یہ اُن کا آنکھوں سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا ہے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص الخاص بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ، تاکہ اُسے ایسی نشانیاں دکھاتے جن کے ساتھ وہ جگہ مخصوص ہے اور وہ ایسی آیات ہیں جو اپنے خاص اوصاف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں ۔ اُن نشانیوں کا مشاہدہ کیے بغیر ذات الہی کی پوری معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ، اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے :

سُبْحَانَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ ۝

لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی

الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَارَكْنَا

حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ ہُوَ

السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝ ۱۸

واقعہ معراج حدیث اسری میں مذکور ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو

اپنی خاص نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کرائی تھی ، اپنی طرف نہیں بلایا تھا کیونکہ مجھے کوئی

جگہ نہیں گھیر سکتی ، اگرچہ تمام مکانوں کی نسبت میری ہی طرف ہے ، ماں میں اپنے مومن

بندے کے دل میں سما جاتا ہوں ۔ پس اُس کی میری طرف سیر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں

اُس سے ہر وقت نزدیک ہوں اور ہمہ وقت اُس کے ساتھ ہوں خواہ وہ کہیں ہو ۔

جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ،

جو اُس کے سب سے خاص بندے ہیں ، وہ اُس کی نشانیوں سے جس کا چاہیں مشاہدہ

۱۷ پ ۱ ، سورہ الانعام ، آیت ۷۵ ۱۸ پ ۱۵ ، سورہ بنی اسرائیل ، آیت پہلی

کریں تو اپنے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام کو جو روح الامین ہیں، براق نامی ایک چوپایہ محبوب کی سواری کے لیے دے کر بھیجا۔ براق کا بھیجنا تو محض اسباب کی اہمیت دکھانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے تھا تاکہ ایسے اسباب کے متعلق بھی مشاہدے کے ساتھ علم ذوقی حاصل ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پر بنائے ہیں، یوں ہمیں اسباب کے ثبوت اور اہمیت سے خبردار کرے جو اس عالم اسباب کے لیے وضع فرمائے ہیں۔ براق درمیانے قد کا چوپایہ ہے، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے۔ تاجدارِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی۔ براق کا رسولوں کے لیے بھیجا جانا اُس شاہی سواری کے مانند ہے جو بلکانے والا اُس کے لیے بھیج دیتا ہے جسے مدعو کیا جائے، تاکہ وہ اُس پر سوار ہو کر آئے۔ یہ عزت افزائی کا ظاہری اہتمام ہے حالانکہ باطن میں وہ اپنے مقدور کے ساتھ منزلِ مقصود تک پہنچتا ہے، کسی دوسری چیز کی طاقت سے نہیں پہنچتا۔ براق بھیجنے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قدر و منزلت کا اُس شخص کے لیے اظہارِ مقصود ہے جو حفظِ مراتب سے آگاہ ہے۔

جب آفاتِ دو جہاں، شفیعِ عاصیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کے نزدیک جلوہ آرا ہوئے تو براق سے اترے اور اُسے اُس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آپ کا براق پر سوار ہونا اور اُسے حلقے کے ساتھ باندھنا صرف اسباب کو ثابت کرنے کی غرض سے ہے کیونکہ کوئی رسول ایسا نہیں جس نے براق پر سوار ہو کر سیر نہ کی ہو۔ آپ بخوبی جانتے تھے کہ براق حکم کا پابند ہے، اگر اسے نہ باندھا جائے تب بھی یہ اُسی جگہ کھڑا رہے گا۔ اس کے باوجود اُسے حلقے کے ساتھ باندھنا اُس عادت کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ڈالی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براق کے بارے میں بتایا ہے کہ اُس کا نام شمس ہے اور سواری کے جانوروں کی عادت میں یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی اُن پر سوار ہونا چاہے تو اُچھلنے کودنے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق نے اُس پیالے کو اپنی ٹھوک سے اُلٹا دیا تھا، جس سے

مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے قافلے کا ایک آدمی وضو کر رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے اُس براق کے بارے میں فرمایا کہ وہ عثور تھا اور عثور اُسے کہتے ہیں جو پیالے کو اُلٹا دے۔

جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے سواری کے لیے براق حاضر کر دیا۔ آپ براق پر سوار ہو کر ہوا کے مانند اوپر کو اُڑے اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ پیاس محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے دو برتن پیش کیے۔ ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے پیش آیا تھا کیونکہ واقعہ معراج مکہ معظمہ میں پیش آیا اور شراب مدینہ منورہ میں حرام ہوئی تھی۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے: حضور! آپ نے بجا طور پر فطرت کو پسند فرمایا ہے لہذا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فطرت پر قائم رکھے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں دودھ پینے کی تعبیر علم سے فرمایا کرتے تھے۔

جب پہلے آسمان تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دربان نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ جواب دیا: میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا: میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سوال کیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا: ہاں بلایا گیا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جبرائیل علیہ السلام دروازے میں داخل ہو گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا جن کے دائیں جانب اُن کے سعادت مند بیٹوں کی جنتی رُوہیں اور بائیں طرف بد بخت اولاد کی جہنمی رُوہیں تھیں۔ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کے دائیں جانب نیک بختوں میں اپنی صورت بھی ملاحظہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایک وقت میں دو جگہ (یا زیادہ جگہوں پر) کس طرح جلوہ گر ہو سکتا ہے؟ وہ صورت بعینہ آپ کی تھی کسی دوسرے کی نہیں۔ جیسے آئینے میں یا متعدد آئینوں میں کوئی شکل دیکھی جاتے تو وہ بعینہ اُسی انسان کی شکلیں ہوتی ہیں جو اُن کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نیک بیٹے اور نیک نبی کہتے ہوئے مرجبا کہا۔

اس کے بعد سرورِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر براق پہلے آسمان

فضا میں اُپر کی جانب اُڑنے لگا اور دوسرے آسمان تک جا پہنچا۔ جبریل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ یہاں بھی اُسی طرح سوال جواب ہوئے جو پہلے آسمان میں ہو چکے تھے۔ بالآخر جب آپ دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصلی جسم مبارک کے ساتھ جلوہ افروز ہیں کیونکہ اُنھوں نے اِس وقت تک وفات نہیں پائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنھیں آسمان پر اٹھایا تھا، جہاں اُنھیں سکونت بخشی اور اُس میں حاکم بنا دیا تھا۔

علامہ نہما فی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پہلے شیخ ہیں اور جن کے ہاتھ پر ہم نے رجوع کیا ہے اور جن کی ہم پر یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتے۔ اُنھوں نے فرمایا ہے: میں اُمید کرتا ہوں کہ بوقت نزول انشاء اللہ تعالیٰ اُنھیں پاؤں گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور دعائیں دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس پوری سیر میں ملنے والے تمام انبیاء کرام سے متعارف کراتے رہے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان تک پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو یہاں بھی پہلے آسمانوں کی طرح سوال جواب ہوئے۔ دروازہ کھلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور اُنھوں نے آپ کو مرحبا کہتے ہوئے دعائیں دیں۔

اِس کے بعد چوتھے آسمان کی جانب عروج فرمایا۔ وہاں بھی جبریل علیہ السلام نے جب دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو حسب سابق گفتگو ہوئی۔ آخر کار دروازہ کھولا گیا تو وہاں ادریس علیہ السلام کو اُن کے اصلی جسم کے ساتھ تشریف فرما دیکھا، کیونکہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنھیں بلند مقام کی طرف اٹھالیا۔ اور وہ بلند جگہ ہی آسمان ہے جو سارے آسمانوں کا دل اور مرکز ہے۔ آپ نے سلام کیا۔ اُنھوں نے مرحبا کہا، اور دعائیں دیں۔ اِس کے بعد براق آپ کو پانچویں آسمان تک لے گیا۔ وہاں بھی پہلے کی طرح گفتگو ہوئی اور جب دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں حضرت ہارون اور حضرت یحییٰ علیہما السلام

جلوہ فگن پایا۔ آپ نے سلام کیا اور انھوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے دعائیں دیں۔

یہاں سے فارغ ہو کر چھٹے آسمان تک پہنچے۔ جب اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو حسب سابق سوال جواب ہوئے۔ دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور انھوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے دعائیں دیں۔ پھر ساتویں آسمان کی طرف عروج کیا۔ اُس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو یہاں بھی وہی قیل و قال کا مرحلہ درپیش آیا۔ آخر کار دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سلام کیا۔ انھوں نے مرجا کہا اور ضراح کی وجہ تسمیہ بتائی جو بیت المعمور ہی کا نام ہے (ابن اثیر نے نہایہ میں لکھا ہے کہ ضراح ساتویں آسمان پر کعبے کے عین اوپر ایک متبرک عمارت ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے)

آپ نے بیت المعمور کو اندر سے بھی دیکھا اور اُس میں دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ کو بتایا گیا کہ بیت المعمور کے ایک دروازے سے ہر روز ستر ہزار فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ داخل ہونے والے دروازے کا نام باب مطالع الکواکب ہے اور جس دروازے سے باہر نکلتے ہیں اسے باب منار الکواکب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ آب حیات کے قطروں سے پیدا فرماتا ہے، جو جبریل علیہ السلام کے پوچھاڑنے سے پیدا ہوتے ہیں جبکہ وہ نہر حیات میں غوطہ لگا کر نکلتے ہیں اور اپنے پروں کو اس طرح جھاڑتے ہیں جیسے پرندے کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ہر روز اس نہر میں ایک دفعہ غوطہ لگاتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سدرۃ المنتہی کی طرف لے گئے اُس کے پھل مشکوں کی طرح تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اُسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ کوئی شخص سدرۃ المنتہی کے پورے اوصاف بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ جب چشم انسانی

اُسے دیکھنے ہی سے قاصر ہے تو اُن تجلیات کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ لیکن اُس خلاصہ کائنات کی بات ہی اور ہے جو شربت دیدارِ الہی سے مازِ اغ البصر و ما طغی کی حالت میں لطف اندوز ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہی کی جڑ سے چار نہریں نکلتی ہیں۔ دو ظاہری ہیں اور دو باطنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ظاہری نہروں کے نام نیل اور فرات ہیں۔ دونوں باطنی نہریں جنت کی طرف بہتی ہیں۔ قیامت کے روز نیل اور فرات بھی جنت کی جانب بہنے لگیں گی جو شہد اور دودھ کی نہریں ہیں۔ جنت میں چار نہریں (ان سمیت) ہوں گی۔ ایک پانی کی جو کبھی بد بودار نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی نہر، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تیسری شراب کی نہر، جو لطف اندوز کرتی ہے۔ چوتھی خالص شہد کی نہر ہے۔ یہ نہریں اُن لوگوں کے علوم میں برابر اضافہ کرتی رہیں گی، جو اُن سے پئیں گے۔ دُنیا میں اصحابِ ذوق ہی اُن کی لذتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے ایک مختصر کتاب لکھی ہے۔ خواہشمند حضرات کو اُس کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔

جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ بنی نوع انسان کے اعمال نامے سدرۃ المنتہی ہی پہنچاتے جاتے ہیں جہاں اُن کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور رُوحوں کا مستقر بھی یہی ہے۔ اوپر سے نازل ہونے کا پہلا مقام اور نیچے سے اوپر آنے والوں کی یہ آخری حد ہے۔ جبریل علیہ السلام کا مقام اور جاتے ظہور یہی ہے۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر براق سے اتر گئے اور آپ کی سواری کے لیے رُفّ پش کیا گیا، جو دنیاوی مثال کے لحاظ سے پاکی کی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آپ اُس پر سوار ہو گئے اور جبریل امین نے آپ کو اُس فرشتے کے سپرد کر دیا جو رُفّ لایا تھا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے ساتھ چلنے کے لیے فرمایا، کیونکہ اُن سے بچد انس تھا۔ وہ عرض گزار ہوئے: حضور! سرتابی کی مجال نہیں، لیکن میرے اندر آگے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو جل کر خاک سیاہ ہو جاؤں گا،

اگر ایک سرِ مومن برتر پر
فردِ تجلی بسوزد پر

لے اسی لیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ۱۰

کیونکہ ہر فرشتے کا ایک انتہائی مقام مقرر ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سیر اسی لیے کرائی ہے کہ حضور ہی اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں، لہذا جدائی کی پروا نہ کیجیے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں الوداع کہہ کر رُفرف لانے والے فرشتے کے ہمراہ عرشِ معلیٰ کی جانب پرواز کرنے لگے۔ وہاں آپ نے قلموں کے تختیوں پر چلنے کی آوازیں سُنیں، جن سے اللہ تعالیٰ مخلوق میں جاری ہونے والے احکام رقم فرماتا ہے اور جو فرشتے بندگانِ حق تعالیٰ کے اعمالِ قلب بند کرتے ہیں۔ ہر قلم ایک فرشتہ ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۷

اس کے بعد آپ تجلیات میں گم ہو گئے اور جو فرشتہ آپ کے ہمراہ آیا تھا (رُفرف لے کر) وہ پیچھے ہی آپ سے جدا ہو گیا تھا۔ آپ تنہائی کے عالم میں وحشت زدہ ہو کر وائیں بائیں دیکھتے اور سوچتے تھے کہ اب کیا کروں؟ اُن تجلیات کے باعث آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور تختیوں پر قلموں کے چلنے کی دل نواز اور رُوح پرور آوازوں سے حال کا غلبہ ہو کر یہ کیفیت طاری ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو ان سے تقویت پہنچ رہی تھی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم مرحمت فرما دیا، جسے آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور نہ بذریعہ وحی اُن کا علم دیا گیا تھا۔ اُس وقت آپ نے حق البیقین حاصل کرنے کی خاطر دیدارِ الہی کی درخواست پیش کی۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی آوازیں یہ الفاظ سُنے،

یا محمد قف ان ربک یصتی۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ٹھہرو کہ تمہارا

(ص ۱۴۲) رب صلوة میں مصروف ہے۔

اس خطاب سے آپ گھبراتے۔ رب تعالیٰ کا صلوٰۃ میں مصروف ہونا ادھر متعجب کر رہا تھا تو ادھر ابوبکر صدیق جیسے یارِ غار کی آواز مانوس بھی کر گئی تھی۔ ساتھ ہی رُوح پر در آواز میں سنا:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ وَهِيَ هِيَ كَمَا دُرُودٌ يُجْتَابُ تَمَّ بِرُوحٍ اَوْ رَسْمٍ
مَلِكُ كُنْهٖ - لے کے فرشتے۔

جب اللہ تعالیٰ اُس صلوٰۃ سے فارغ ہوا اور یہ فارغ ہونا اُسی قسم کا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ۖ جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ!

حالانکہ کوئی حال اُسے مشغول رکھے یہ اُس کی شان سے بعید ہے۔ لیکن دنیا میں مخلوقات کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر کسی کا زمان و مکان مخصوص و متعین ہے، جس سے نہ اُس کا زمانہ تجاوز کر سکتا ہے نہ مکان، بلکہ وہی ہوتا ہے جو اُس کے علم میں ہے اور جو اُس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس وقفے کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جانب خاص وحی فرمائی پھر آگے بڑھنے اور خاص مقامِ قرب میں داخل ہونے کی اجازت بخشی، اُس وقت:

فَرَأَى عَيْنٌ مَا عَمِلَ لَا غَيْرُ وَمَا پس آپ نے عین ذاتِ باری کو دیکھا نہ کہ غیر کو،
تَغْيِيرٌ عَلَيْهِ صُورَةُ اعْتِقَادِهِ۔ جسے جانتے تھے۔ اس سے آپ کے اعتقاد کی

(ص ۱۲۱) صورت نہیں کوئی فرق نہ آیا۔

اللہ تعالیٰ نے وحی کے دوران روزانہ دن رات میں پچاس نمازیں پڑھنا فرض کیا۔ جب شبِ اسری کا دُولھا واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آنکھوں نے سوال کیا کہ آپ سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا فرض کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے میری اُمت پر روزانہ رات دن میں پچاس وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ میں اپنی اُمت کے ذریعے اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ میں نے اسے اچھا ذوق

شمار کیا تھا لیکن میری اُمت نے سخت پریشان کیا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کی اُمت اتنا بوجھ نہیں اٹھاسکے گی۔ آپ واپس لوٹ جائیں اور ان میں تخفیف کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے اور تخفیف کی گزارش کی تو دس نمازیں کم کر دی گئیں۔ آپ نے اس واقعے کی موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔ اُنھوں نے پھر مشورہ دیا کہ اپنے رب سے مزید تخفیف کرائیے۔ آپ واپس لوٹے اور دس نمازوں کی اور کمی ہو گئی۔ آپ نے اس دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو اُنھوں نے اور کمی کروانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے کمی کی درخواست پیش کی تو مزید دس نمازیں چھوڑ دی گئیں۔ آپ نے واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو اُنھوں نے کہا اور کمی کروائیے۔ چنانچہ واپس لوٹے اور آپ کی درخواست پر صرف دس وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو اُنھوں نے مزید تخفیف کے لیے کہا۔ آپ نے تخفیف کی درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے پانچ وقت کی نماز فرض کرتے ہوئے فرمایا کہ حبیب! تمہاری اُمت پانچ وقت کی نماز پڑھے گی اور میں اُسے پچاس نمازوں کا ثواب عطا کروں گا کیونکہ میرے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے واپس لوٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو اُنھوں نے اس دفعہ بھی تخفیف کروانے کے لیے کہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کیونکہ اُس نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ اُنھیں الوداع کہتے ہوئے واپس لوٹے اور طلوع فجر سے پہلے زمین پر تشریف لے آئے اور حجرِ اسود کے پاس اترے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دولت کدے پر رونق افروز ہو گئے (حالانکہ بستر اُسی طرح گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور دروازے کی گنڈی ہل رہی تھی) صبح کے وقت آپ نے لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو ایمان والوں نے بے چوَن و چرا اسے تسلیم کر لیا، منکروں نے جھوٹ قرار دیا اور شک کرنے والے شکوک و شبہات کی گھاٹیوں میں بھٹکنے لگے۔

سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو قافلے کی خبر دی اور اُس شخص کا واقعہ سنایا جو وضو کر رہا تھا اور اُس کے پیالے کو بُراق نے اُلٹا دیا تھا۔ چنانچہ آپ کے بتانے ہی کے مطابق قافلہ پہنچا اور جب اُس شخص سے پوچھا گیا جس کے پیالے کو

براق نے بوقت وضو اُلٹ دیا تھا تو اُس نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی۔ آپ کو جھٹلانے والوں میں سے ایک ایسے شخص نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات کیے، جس نے بیت المقدس دیکھا تھا۔ حالانکہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس کے صرف اُسی حصے کو دیکھا تھا، جس میں ٹھہرے اور نماز ادا کی تھی۔ پس:

فرفعہ اللہ تعالیٰ لہ حتیٰ نظر الیہ فاخذینعتہ
للحاضرین فما انکرو من نعتہ شیئا و لو کان الاسراء
بروحہ و تکون مرؤیا راہا کہا یری الناصر فی نومہ ما
انکرہ احد ولا ناعیہ احد وانما انکروا علیہ کونہ
اعلمہم ان الاسراء کان بجسدہ فی ہذہ المواطن کلہا۔ (ص ۳۳)

اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ نے اُسے دیکھ کر حاضرین کے سامنے اُس کے حالات بیان کر دیے۔ آپ کے بیانات کو جھٹلانے کی کسی کوجرات نہ ہوئی۔ اگر معراج و اسراء کا واقعہ روحانی ہوتا اور صرف خواب ہوتا، جیسے سونے والا حالت خواب میں دیکھتا ہے تو کوئی انکار کرتا نہ جھگڑتا۔ اس کا انکار اسی بنا پر کیا گیا، جبکہ آپ نے اُنھیں بتایا کہ ان جگہ مقامات کی سیر جسمانی حالت میں کی ہے۔

فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونتیس^۳ مرتبہ معراج کی۔ اُن میں سے ایک جسمانی اور باقی سب روحانی ہیں، جو خواب کی شکل میں ہوئیں۔ اولیائے کرام کو بھی روحانی برزخی سیر کرائی جاتی ہے۔ جن کے ذریعے وہ معانی و رموز کا ایسی شکل و صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ پردہ خیال پر اُن کا اظہار محسوس صورتوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ پس ایسے اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کو:

یعطون العلم بما تتضمنہ تلك الصور من المعانی و لہم الاسراء فی الارض و فی السہوا
غیر انہم لیس لہم قدم ان صورتوں کے ذریعے اُنھیں معانی کا علم عطا فرمایا جاتا ہے۔ ان کی سیر زمین اور ہوا میں ہوتی ہے، لیکن اُن کے قدم آسمان پر محسوس نہیں ہوتے۔ اسی لیے تمام سیر

محسوسۃ فی السہار و بہارِ اٰ
نہاد علی الجہاتۃ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم باسراۃ الجہم
واختراق السموات والافلاک
حساب و قطع مسافات حقیقۃ
محسوسۃ و ذالک کلہ
لورثتہ معنی لاحقاً من
السموات فما فوقہا۔ (ص ۱۲۳)

کرنے والوں کی جماعت پر رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو فوقیت ہے کہ آپ کی سیر
جسمانی ہے، جس میں جسمانی طور پر آسمانوں
سے گزرے اور محسوس حقیقت کے ساتھ
فاصلے طے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے وارثوں کو حسی نہیں بلکہ معنوی سیر
کروائی جاتی ہے جو آسمانوں تک ہو سکتی ہے
بلکہ ان سے بھی اُوپر تک۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں منظوم نغمہ تہنیت ملا چٹھہ ہو :

المرتبان اللہ اسری بعبدہ
الی ان علا السبع السموات قاصداً
الی السدرۃ العلیاء و کرسیہ الاحمى
الی سبحات الوجہ حتی تقشعت
فکان تدلیہ علی الامر اذ دنا
وکان عیون الیون عنہ بمعزل
فخاطبہ بالانس صوت عتیقہ
فازعجہ ذالک الخطاب وقال اهل
فشال حجاب العلم عن عین قلبہ
فعاین ما لا یقدر الخلق قدرہ
وانقاہ مشتاقاً الی وجہ ربہ

من الحرم الاول الی المسجد الاقصی
الی بیتہ البعور بالہلاء الاعلی
الی عرشہ الاسنی الی المستوی الازہی
سحاب العمی عن عین مقلتہ النجلا
من اللہ قریباً قاب قوسین او ادنی
تلاحظ ما یسقیہ بالورد الاحلی
توقف فرب العرش سبحانہ صلی
یصلی الہی ما سمعت بہ یتلی
واوحی الیہ فی الغیوب الذی اوحی
وایدہ الرحمن بالعروۃ الوثقی
فاکرمہ الرحمن بالہنظر الاجلی

ومن قبل قد کان اُشہد قلبہ

بغار حرا قبل ذالک فی النجوى

۱۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو حرمِ اول سے مسجدِ اقصیٰ

تک سیر کرائی۔

- ۲۔ حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے بیت المعمور اور ملائعہ اعلیٰ تک جا پہنچے۔
 ۳۔ بلند سدرۃ المنتہی، محفوظ کرسی، باعظمت عرش اور روشن مستوی تک پہنچے۔
 ۴۔ ذات الہیہ کے پردوں کی جانب قصد فرمایا تو روشن آنکھوں کے سامنے سے بھارت کی کوتاہی کے سیاہ بادل چھٹ گئے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ سے آتنا قریب ہونا کہ دُوبا تھکا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ جانا۔ یہ باغِ دنیٰ تک پہنچنا امرِ الہی سے حاصل ہوا تھا۔

۶۔ دنیا کی آنکھیں اُن انعامات و عطیات کا مشاہدہ کر رہی تھیں جو آپ کو بلند مقام پر بلا کر شیریں گھاٹ سے سیراب کیا جا رہا تھا۔

۷۔ وہاں مانوس کرنے کے لیے آپ کے یارِ عتیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں مخاطب کیا آپ ٹھہر گئے کہ رب العرش صلوٰۃ میں مشغول ہے۔

۸۔ اس خطاب سے آپ متعجب ہوئے اور فرمایا: کیا میرا رب صلوٰۃ میں مشغول ہوتا ہے؟ یہ جو کچھ میں نے سنا ہے، زبانِ زد خاص و عام ہو جائے گا۔

۹۔ آپ کے قلب مبارک کی آنکھ سے علم کا حجاب اُٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایسے خاص غیوب کی وحی فرمائی جو اُس نے وحی فرمانا چاہا۔

۱۰۔ آپ نے اُس ذات کا مشاہدہ کیا جس کے دیکھنے کی مخلوق میں طاقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مضبوط رستی (اسلام) کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔

۱۱۔ جب آپ کو دیدارِ الہی کا انتہائی مشتاق دیکھا گیا تو اللہ رب العزت نے روشن منظر کے ساتھ آپ کو یہ کرامت بخشی۔

۱۲۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ کے قلب مبارک کو غارِ حرا میں خاص سرگوشی پر گواہ بنایا گیا تھا۔

اس کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سے فوائد لکھے ہیں، اُن میں روحانی معراج کے متعلق بڑے اہم فوائد ہیں اور طویل بحث کی ہے۔ خواہش رکھنے والے حضرات

فتوحاتِ مکیہ کی طرف رجوع کریں۔

اول الخلق شیخ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحاتِ مکیہ، جلد سوم، باب ۳۸۲، صفحہ ۶۷۱ پر فرمایا ہے کہ فخرِ موجودات، آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشری نبوت سے پہلے بھی موجود تھے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں اُس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا جا رہا تھا اور آپ ہی سب میں آخری نبی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ۱
ہاں وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔

جب یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رفعِ مناسبت اور تمیزِ مرتبہ کی خاطر وضاحت فرمادی کہ میرا حبیب تمہارے کسی بھی مرد کا نسلی باپ نہیں ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی صاحبِ جزاءہ زیادہ عرصہ دنیا میں زندہ نہیں رہا۔ اس سے ایک جانب آپ کی بزرگی و عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ خاتم النبیین یعنی بلحاظ زمانہ آخری نبی ہیں۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ان الراسالة یعنی البعثة
الی الناس بالتشریع لہم
والنبوة قد انقطعت ای ما
بقی من لشرع لہ من
عند اللہ حکم کیون علیہ
لیس ہو شرعنا الذی جئنا
بہ فلا رسول بعدی یا آتی بشرع
بیشک رسالت یعنی شریعت لے کر لوگوں کی
طرف مبعوث ہونا اور نبوت کا سلسلہ ختم
ہو گیا ہے یعنی اب یہ گنجائش نہیں رہی کہ کسی
حکم کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہے اور وہ ہماری شریعتِ مطہرہ
میں نہ ہو، جسے ہم لے کر آئے ہیں۔
پس ہمارے بعد کوئی رسول نہیں جو ہماری

یخالف شرعی الی الناس ولا
 نبی یكون علی شرع ینفرد به
 من عند ربہ یكون علیہ
 فصرح انہ خاتم نبوة
 التشريع ولو اراد غیر ما
 ذکرناہ لکان معارضاً
 لقوله ان عیسیٰ علیہ السلام
 ینزل فینا حکماً
 مقسطاً یؤمننا ای
 بالشرع الذی نحن علیہ
 ولا شک فیہ انہ رسول و
 نبی فعلما انہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اراد انہ
 لا شرع بعدہ ینسخ شرعہ
 ودخل بهذا القول کل
 انسان فی العالم من زمان
 بعثہ الی یوم القیامہ فی
 امتہ فالخصر و
 الیاس و عیسیٰ من
 امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 الظاہر ومن ادم الی من
 بعثہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم من امتہ الباطنة

شرع کے خلاف شریعت لے کر آئے اور نہ
 لوگوں کی طرف کوئی نبی آئے گا جو ایسی شریعت
 پر عامل رہے جس میں متفرد ہو اور وہ اُس
 پر عامل ہونے کا اپنے رب کی طرف سے دعویٰ
 کرے۔ پس آپ نے تصریح فرمادی کہ تشریحی
 نبوت آپ کے ذریعے ختم ہو گئی۔ اگر مذکورہ معانی
 کے علاوہ مفہوم لیا جائے تو اس فرمان رسالت
 کے معارض ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم میں
 عادل حاکم کے بطور نازل ہوں گے۔ وہ
 ہماری شریعت کے ساتھ اُمتِ محمدیہ کی
 امامت کا فریضہ ادا کریں گے، حالانکہ بیشک
 وہ نبی اور رسول ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ
 فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے
 کہ آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں جو شریعت
 محمدیہ کو منسوخ کرے۔ اس ارشادِ گرامی کے
 مطابق آپ کے مبعوث ہونے کے وقت سے
 قیامت تک دنیا کے سارے انسان آپ
 کی اُمت میں شامل ہیں۔ پس حضرت خضرؑ
 حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام
 بھی ظاہری اُمتِ محمدیہ میں شامل ہیں اور
 آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے انسان
 ہوئے وہ آپ کی باطنی اُمت ہے۔ پس

فہو النبی بال سابقہ وھو
النبی بالخاتمۃ فظہر من
کلام رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان السابقۃ
عین الخاتمۃ فی النبوتہ (ص ۱۳۳)
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلوں کے بھی
نبی ہیں اور کچھلوں کے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ظاہر
ہو گیا کہ آپ کی پہلی نبوت (قبل از بعثت)
بھی بالکل پچھلی نبوت کی طرح ہے۔

مقام مصطفیٰ کا نرا الاحترام
شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ، باب ۵۴۰،
صفحہ ۲۳۴ پر لکھا ہے کہ پاکیزہ ناموں والے اللہ جل شانہ
نے فرمایا ہے :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ لَہ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝
بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔
اور خوشخبری سننا ان صبر والوں کو، کہ جب
اُن پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے
مال ہیں اور ہم کو اُسی کی طرف پھرنا ہے۔
اس معیت کا سارا دار و مدار شہود پر ہے کیونکہ وہ اُن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی اور
محسن ہوں۔ پس وہ صبر کرنے والوں، پرہیزگاروں اور احسان کرنے والوں کو اپنی معیت
یعنی تائید و نصرت سے نوازتا ہے۔ یہاں جس معیت کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ صرف صبر کرنے والوں
سے متعلق ہے اور اس صبر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر صبر کرنا مراد ہے،
یہاں تک کہ آپ اُن کے پاس تشریف لے آتے۔ پس جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے اُس کا
حال کیا ہوگا؟

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے
اور اللہ تعالیٰ اُس کے پاس ہوتا ہے جو اُس کا ذکر کرے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حق سبحانہ کے جلیس رہے۔ پس جس کے پاس سرورِ کون و مکان

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اپنے رب کے پاس ہی سے تشریف لاتے ہیں اور اُسے بشارت دیتے یا نصیحت فرماتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے باعثِ خیر و برکت ہیں۔ اس کے برعکس آپ کی تشریف آوری اُنھیں آخرت میں مایوس کرنے والی ہوتی تو کب آپ کو باعثِ خیر و برکت شمار کیا جاتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیر ہونے کی گواہی دی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آپ یقیناً خیر ہیں اور جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ خیر ہونا نیک بختی کے قریب کر نیوالی اچھی بشارت، وصیت اور نصیحت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جتنے احکام شروع کروائے، جو اُن پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف ضرور اپنے حبیب کو بھیجے گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت دوسرا کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ پس جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی بے شک اُس نے حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو دیکھا لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہر چیز پر پڑتی ہیں اور ہر ایک چیز اُسی کے سلب ظاہر ہوئی ہے۔ عارف باللہ جانتا ہے کہ ہر وہ شے جسے دیکھا جاتے وہ وہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نیک بختی اور بد بختی دینے والا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں، اسی لیے آپ کی رویت پر اعتماد کیا جائیگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ واقعی اللہ جل شانہ ہی کو دیکھا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس انسان یا جن نے اُوہیت کا دعویٰ کیا وہ اسی سبب سے ہے جس کی جانب ہم اشارہ کر چکے ہیں اور لوگوں نے اُس کے دعوے کو قبول کر کے خدا کے سوا اُس کی عبادت کی لیکن آج تک کوئی اس بات پر قادر نہیں ہو سکا کہ وہ محمد بن عبد اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کر سکے، خواہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا پھرے لیکن محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکا اور نہ ایسے کسی دجال کو محمد کہا جائیگا۔ (صلی اللہ علیک یا رسول اللہ) بلکہ اُس سے اس تلبیس کی وجہ دریافت کی جائے گی۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی واسم گرامی کی

عصمت سے خبردار رہنا چاہیے کہ کائنات ارضی و سماوی میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کشف، نیند یا بیداری کی حالت میں آپ کی جگہ متصور یا متشکل ہو سکے۔ پس جس شخص نے اُس راحتِ جان و قرارِ زمین و آسمان کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی یقیناً اُس نے آپ ہی کو دیکھا ہے اور آپ کا حُسن و جمال اگر متغیر نظر آئے تو یہ دیکھنے والے کی اپنی حالتِ ایمانی کا قصور ہے اور یہ تغیر اُس مکان کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی آپ کو دیکھے یا دوسروں کے اختلاطِ امور کے باعث۔ یہ سب کچھ اُس کی شرعی صورت کی طرف لوٹتا ہے اور یہی حال قبح کا ہے جس میں تغیر واقع ہو پس حُسن و قبح میں آپ کی صورت کا متغیر ہونا دیکھنے والے کی حالت یا زمانے والوں کے حالات سے خبردار کرنا ہے یا اُس مکان کے لحاظ سے ہے جس میں کوئی آپ کو دیکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس میں حُسن یا قبح ہے وہ اُس سے خارج نہیں ہے۔ اور ہر شے حُسن ہے اُس میں کوئی قباحیت نہیں ہے قباحیت تو شریعت کے لحاظ سے ہے۔ غرض مندوں کی نظر میں غرض کے لحاظ سے، اصحابِ مزاج کی نظر میں مزاج کی ناموافقت کے باعث اور اہل فکر و نظر کی بارگاہ میں حکمت کے لحاظ سے اشیاء میں خوبی یا نقصان شمار کیا جاتا ہے۔ جس شخص میں یہ تغیر اور ہجران پایا جاتے اُسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔

لے اسی لیے مولانا کفایت علی کافی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:۔

ہر مرض کی دوا درود شریف	دافعِ ہر بلا درود شریف
ورد جس نے کیا درود شریف	اور دل سے پڑھا درود شریف
حاجتیں سب روا ہوئیں اُس کی	ہے عجب کیمیا درود شریف
جو محبتِ جنابِ احمد ہے	اُس کا مونس ہوا درود شریف
اے صبا! تو ہی جا کے پہنچا دے	بر درِ مصطفیٰ درود شریف
آفتابِ سپہرِ ایمان ہے	گوہرِ پُر ضیا درود شریف
تو شہِ راہِ آخرت کیجیے	
کافی بے نوا درود شریف	

اہل محبت کو چاہیے کہ درود پاک کے ذکر پر صبر و استقلال کے ساتھ ہمیشگی کریں یہاں تک کہ نجات جاگیں اور وہ جانِ جہاں خود قدم رنجہ فرمائیں اور شرفِ زیارت سے نوازیں۔ میں نے اس ذکر پر کما حقہ ہمیشگی کرنے والا کوئی نہیں دیکھا سوائے ایک عظیم فرد کے۔ وہ اشجیلیہ کا ایک لوہار تھا اور اللہم صلی علی محمد کے نام ہی سے مشہور ہو گیا تھا۔ اُسے ہر ایک اسی نام سے جانتا تھا۔ جب میں اُس سے بلا اور دعا کی درخواست کی تو اُس نے میرے لیے دعا مانگی، جس سے مجھے بہت فائدہ پہنچا۔ وہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک ہمیشہ پڑھتے ہی رہنے کے باعث مشہور تھا اور بغیر کسی خاص ضرورت کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ جب اُس کے پاس کوئی شخص آتا کہ اُسے لوہے کی کوئی چیز بنا کر دے تو وہ کام کو مشروط کر لیتا تھا کہ ویسی ہی چیز بنائے گا اور اُس پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کرے گا۔ اُس کے پاس جو بھی مرد، عورت یا بچہ آکر کھڑا ہوتا تو واپس لوٹنے تک اُس کی زبان پر بھی درود پاک ہی جاری رہتا۔ پس وہ اپنے شہر میں اسی مقدس مشغلے کی وجہ سے ہر خاص و عام کے دلوں اور دماغوں میں سمایا ہوا تھا اور حقیقت میں اُس کا شمار اللہ والوں (اولیاء اللہ) میں تھا۔ اس ذکر کرنے والے کے سامنے جو توازشات کے طور پر نتیجہ سامنے آتا ہے وہ برحق علم ہے اور باطل کی آمیزش سے پاک صاف ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کے پاس وہی چیز پہنچتی ہے جو سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے آتے۔ ایسے شخص پر آقائے کائنات خود تجلّی بار ہوتے اور خود اُسے خبر دیتے ہیں۔

خواجہ ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کسی سے ملا اور اُس سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ نے ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ اُس نے جواب دیا: میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے تو مجھے ابویزید کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے شخص نے کہا کہ اگر تو ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار بھی دیکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کو ہزار دفعہ دیکھنے سے بہتر ہوتا۔ دوسرے نے جب یہ سنا تو حضرت ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب چل پڑا اور نزدیک پہنچنے پر اسی شخص کے ہمراہ حضرت ابویزید کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت ابویزید رحمۃ اللہ علیہ کا اُس راستے سے گزر ہوا اور آپ کے بال کانوں کی نو سے

نیچے لٹک رہے تھے۔ پہلے شخص نے بتایا کہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ یہی ہیں۔ دوسرے نے جب مردِ کامل کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی اُس کا طاثر روح قفسِ عنبری سے پرواز کر گیا۔

جب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طاقت کے اعتبار سے دیکھتا تھا لیکن جب اُس نے ہمیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت کے اعتبار سے اُس کے لیے ظاہر ہوا اور اُس کے برداشت کی طاقت نہ رکھنے کے باعث دم توڑ گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل رویت وہی ہے جو صورتِ محمدیہ سے رویتِ محمدیہ میں حاصل ہوگی۔ ہم لوگوں کو زبانی اور یہ کتاب لکھ کر شوقِ درود شریف دلائے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے اور سب تعریفیں ایک خدا کے لیے ہیں۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

امام فخر الدین رازی

رحمۃ اللہ علیہ
کے

فہرست گرامی

آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۶۰۶ھ) نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور حالات اپنی مایہ ناز تفسیر قرآن کریم یعنی تفسیر کبیر میں متفرق اور متعدد مقامات پر بیان کیے ہیں یہاں موصوف کے چند جواہرات کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ الامام الہمام، احد اعلام الاسلام، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی مندرجہ ذیل آیت:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ
أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری
اور ڈر سنانا اور تم سے دوزخ والوں کا
سوال نہ ہوگا۔

کے تحت فرمایا ہے۔ جاننا چاہیے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی قوم نے معاندانہ سلوک کرنا شروع کر دیا۔ بغیر کسی معقول وجہ کے آپ سے جھگڑنا شعار بنا لیا اور آپ کو نیچا دکھانے کی غرض سے معجزات طلب کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مشرکہ سنا کر تسلی دی کہ تم نے دینی مصالح کو دلائل کے ساتھ ظاہر کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کر دکھایا ہے اس سے زیادہ قطعاً ہو نہیں سکتا۔ لہذا تسلی دی کہ قوم اگر کفر پر اصرار کرتی ہے تو تبلیغ میں کمی یا کوتاہی کے باعث نہیں ہے۔

آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی آیت:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
اے رب ہمارے! اور بھیج ان میں ایک رسول

مَنْهُمْ يَسْتَلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ۝ انہیں میں سے، ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائی
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝ اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے
وَيُزَكِّيهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ۝ اور انہیں خوب ستھرا فرمائے۔ بے شک
الْحَكِيمُ ۝ ۱۷ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس دعائے ابراہیمی میں رسول سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس مراد پر کئی وجوہ دلالت کرتے ہیں:

پہلی وجہ: مفسرین کا اسی مفہوم پر اجماع ہے اور اجماع مفسرین حجت ہے۔

دوسری وجہ: سرور کون و مکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ دعائے ابراہیمی سے آپ کا اشارہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کی جانب ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو سورہ صف میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے:

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ ۝ اور اُن رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۝ ۱۸ بعد تشریف لائیں گے اور اُن کا نام احمد ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی جو مکہ مکرمہ اور اُس کے ارد گرد آباد تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ اور اُس کے گرد نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث نہیں فرمایا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فائدہ کے ذکر خیر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے جبکہ یہ پڑھتے ہیں: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ۔ اس کا جواب کئی وجوہ سے دیا گیا ہے:

چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
وجہ اول حق میں دُعا مانگی تھی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ۖ اے رب ہمارے! اور بھیج ان میں ایک رسول
مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ۖ رَاٰهُمْ فِي سَكْنٍ مِّنْ اٰيَاتِكَ ۚ اٰتٰنِي تِلْكَ الْوَحْيَ
جب خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دُعا کرنے کا حق
واجب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جانب سے اس حق کو یوں ادا کر دیا کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اُمتِ محمدیہ کی زبانوں پر قیامت
تک کے لیے جاری کر دیا۔

وجہ دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم سے یہ سوال کیا تھا:

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ ۖ اُوْمِرْتُ بِالشُّكْرِ ۚ اُوْمِرْتُ بِالشُّكْرِ ۚ اُوْمِرْتُ بِالشُّكْرِ ۚ اُوْمِرْتُ بِالشُّكْرِ ۚ
فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ ۷

یعنی اے پروردگار عالم! اُمتِ محمدیہ کی زبانوں پر میری تعریف جاری رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے
اپنے خلیل کی دُعا کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے حبیب علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ساتھ
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری کر دیا تاکہ اُمتِ محمدیہ میں اُن کا ذکر خیر باقی رہے۔

وجہ سوم حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتِ اسلامیہ کے باپ تھے، جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مِلَّةَ اٰبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۖ اٰتٰنِي تِلْكَ الْوَحْيَ ۚ اٰتٰنِي تِلْكَ الْوَحْيَ ۚ اٰتٰنِي تِلْكَ الْوَحْيَ ۚ اٰتٰنِي تِلْكَ الْوَحْيَ ۚ

اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوالرحمۃ ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنه کی قرأت میں ہے کہ: اَلنَّبِيُّ اَوَّلِيْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ مِنْهُمْ

۷ پ ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت ۸۴

۸ پ ۱، سورۃ البقرہ، آیت ۱۲۹

۹ پ ۱، سورۃ الحج، آیت ۸

اللہ تعالیٰ نے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا ہے:

بِالْمُؤْمِنِينَ سَرُّهُ وَسَرُّهُ سَرَّ حَيْمٌ ۱۵ مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان ہیں۔

اور سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں یعنی شفقت اور مہربانی کرنے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ابوت واجب اور ثابت ہے، اس وجہ سے دونوں کے ذکر کو مدح و ثنا اور درود و پاک میں جمع کر دیا گیا ہے۔

وجہ چہارم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت سے حج کے منادی تھے، جیسا کہ

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ۱۶ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے۔

اور فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے منادی تھے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

بَرَاتَنَا إِنَّا سَمِعْنَا مَنَادًا ۱۷ اے رب ہمارے! ہم نے ایک منادی کو

يُنَادِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۱۸ سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے

رَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۱۹ رب پر ایمان لاؤ۔ تو ہم ایمان لے آئے۔

تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور خلیل علیہما السلام کے ذکرِ جمیل کو یہاں جمع فرما دیا ہے۔ جاننا

چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے رسول کی دعا کی جو اُن میں سے ہو اور اُن کی

طرف رسول بن کر آئے تو اُن محضوں نے اُس عظیم الشان رسول کے چند اوصاف بھی بیان

فرمائے مَثَلًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ ۲۰ یعنی اے اللہ! وہ اُن پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔

اس مفہوم کو اختیار کرنے کی دو وجہ ہیں:

پہلی وجہ یہی قرآن مجید و فرقانِ حمید ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

نازل ہوا۔ پس جس کی آپ قوم پر تلاوت کرتے تھے وہ اس کے علاوہ کوئی

۱۵ پ ۱۱، سورہ الحج، آیت ۲۷

۱۶ پ ۱۱، سورہ التوبہ، آیت ۱۲۸

۱۷ پ ۳، سورہ آل عمران، آیت ۱۹۳

دوسری کتاب یا کلام نہیں۔ لہذا ضروری ہوا کہ تلاوت کو اسی پر محمول کیا جائے۔

جاڑ ہے کہ مذکورہ آیات صانع کے وجود پر دلالت کرنے والی ہوں اور ان دوسری وجہ کی تلاوت کرنے سے مقصود یہی ہو کہ وہ ان کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں۔ آیات تلاوت کر کے قرآن کریم کی جانب لوگوں کو بلائیں اور ایمان جیسی متاعِ عزیز سے انہیں مالا مال کر دیں۔ دوسرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توصیف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** (اور وہ انہیں کتاب سکھاتے)۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ رسول لوگوں کو کتاب کی تلاوت کرنے کا حکم دے گا اور اس کے معانی اور حقائق کی تعلیم دے گا۔ کیونکہ تلاوت کئی وجہ سے مطلوب و مقصود ہے:

وجہ اول اہل تواتر کی زبانوں پر اس کے الفاظ کو باقی رکھنے کی غرض سے تاکہ اس کے الفاظ تحریف اور تبدیل ہونے سے بچے رہیں۔

یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے الفاظ اور حسن ترتیب و نظم وغیرہ آپ کا معجزہ ہو۔ **وجہ دوم** اس تلاوت میں عبادت و اطاعت پائی جاتے۔ اس لیے قرآن کریم کی قرأت و تلاوت کا نمازوں اور دیگر عبادتوں میں عبادت کا مقام ہو۔ یہ تلاوت کا حکم ہے لیکن سب سے بڑی حکمت اور اعلیٰ مقصد اس کے ذریعے دلائل اور احکام کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور کے ساتھ قرآن کریم کی تعریف کی ہے، کیونکہ اس میں معانی، حکمتیں اور اسرار و رموز ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی تعلیم کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس کے حقائق و اسرار کا تذکرہ فرمایا۔

یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف سے تیسری صفت **وجہ سوم** یہاں حکمت بیان فرمائی ہے یعنی آپ لوگوں کو حکمت بھی سکھائیں اور یہ جاننا ضروری ہے کہ قول اور فعل کی اصلاح کو حکمت کہتے ہیں اور جس شخص کے اندر یہ دونوں اوصاف پائے جائیں اسے حکیم (دانا) کہا جائے گا۔

حکمت کے مفہوم میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن دہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حکمت کیا چیز ہے؟ انہوں نے

فرمایا کہ دین کی معرفت اور اُسی کی نقاہت کا ادراک و فہم اور ان کے مطابق اتباع کرنیکا نام حکمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکمت قرار دیا ہے۔ یہی قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن انھوں نے حکمت کے مرادی معنی میں اور بھی کئی اقوال نقل کیے ہیں۔

کے بارے میں انھوں نے فرمایا ہے کہ ارشادِ باری تعالیٰ وَیُزَكِّيهِمْ کے مطابق وجہ چہارم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں یہ چوتھی صفت مذکور ہوئی ہے۔ تزکیہ کی دو تفسیریں منقول ہیں:

اس سے ایسا فعل مراد ہے جو تلاوتِ قرآنِ کریم اور تعلیمِ کتاب و حکمت کے علاوہ پہلی تفسیر اور ان کی پاکیزگی کے لیے سبب کا حکم رکھتا ہو اور وہ ایسے امور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واقع ہوا کرتے تھے جیسے وعدہ، وعید، پند و موعظت، وعظ و نصیحت وغیرہ کی تکرار کرنا اور لوگوں کی دنیاوی امور میں اس طرح رہنمائی فرمانا کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے اور نیک اعمال کے پابند بن جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس طریقے سے کوشاں رہتے اور انھیں ایمان کی طرف بلانے اور اعمالِ صالحہ کا پابند کرنے کی خاطر اپنی دعوت کو تقویت پہنچانے والے نیک کاموں کا سہارا بھی لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف و توصیف میں فرمایا ہے کہ میرا حبیب خلقِ عظیم کا مالک ہے اور خود سرورِ کون و مکاں، تاجدارِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

قیامت میں جب ہر شخص کے اعمال پر گواہی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اُمت کے عادل اور پاکباز ہونے کی شہادت دیں گے۔ دوسری تفسیر علیہ وسلم اپنی اُمت کے عادل اور پاکباز ہونے کی شہادت دیں گے۔ مَظَرِّی سے مراد صفائی بیان کرنے والا بھی ہے یعنی آپ اپنی اُمت کی صفائی کے لیے گواہی دیں گے۔

پہلی تفسیر زیادہ عمدہ ہے۔ لہٰذا کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اُمتِ محمدیہ جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم دینے، نیک اعمال کی پوری تن دہی سے رغبت دلانے اور بُرے کاموں کے مآل سے

ڈرانے کے باعث ہی پورا ہو سکتا ہے اور یہی تزکیہ ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے میں پہلی تفسیر کو بڑا دخل ہے۔ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہے۔

افضلیتِ مصطفیٰ

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ،
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ۱۶
یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو
دوسرے پر افضل کیا۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ گروہ انبیاء تھے کرام علیہم السلام میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اس افضلیت کی متعدد وجوہات
ہیں مثلاً،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ۔ ۲۱
اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے
جہان کے لیے۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے:
فلما كان صلى الله تعالى عليه جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام
وسلم رحمة لكل العالمين جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو ضروری ہوا
لزم ان يكون افضل من كل کہ آپ کائنات کے مجملہ افراد سے
العالمين۔ (ص ۱۳۸) افضل ہوں۔

دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام معجز نظام میں فرمایا ہے:
وَمَا نَعْمَا لَكَ ذِكْرًا ۚ فَعِيقِل
فیه لانه تعالى قرن ذکر اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔
مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور تشہد میں اپنے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ

بذکرہ فی کلمۃ الشہادۃ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو ملایا ہے

فی الاذان و فی التشمید و لم جبکہ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کا اس

یہ کن ذکر سائر انبیاء کذا لک (ص ۱۳۸) طرح ذکر نہیں کیا۔

تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا ہے مثلاً:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

أَطَاعَ اللَّهَ - ۱۰ جس نے رسول کا حکم مانا ہے شک اس نے

اللہ کا حکم مانا۔

اور آپ کی بیعت کو اپنی بیعت کے ساتھ ملایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا

يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ فَوْقَ بیعت کرتے ہیں۔ اُن کے ہاتھوں پر اللہ کا

أَيْدِيهِمْ - (۱۱) ہاتھ ہے۔

اور اپنی عزت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو وابستہ کیا ہے، مثلاً:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - ۱۲ اور عزت اللہ کی اور اُس کے رسول کی۔

اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا سے اپنی رضا کو ملحق کیا ہے، جیسا کہ خود

فرمایا ہے:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ

يَرْضَوْهُ - ۱۳ اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اُسے

اور اپنے حکم کی تعمیل کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل سے ملاتے ہوئے

فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا

لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ - ۱۴ اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جاؤ۔

۱۰ پ ۲۶، سورہ الفتح، آیت ۱۰

۱۱ پ ۱۰، سورہ التوبہ، آیت ۶۲

۱۲ پ ۵، سورہ النساء، آیت ۸۰

۱۳ پ ۲۸، سورہ منافقون، آیت ۸

۱۴ پ ۹، سورہ الانفال، آیت ۲۴

چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قرآن کریم کی جس سورت سے چاہو کفار کو مقابلے کا چیلنج دو، جیسا کہ فرمایا ہے:

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ قَبْلِهِ - ۱۰ تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔

قرآن کریم کی تین آیات والی سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہر تین آیات سے مقابلے کی دعوت دی۔ چونکہ قرآن کریم کی چھ ہزار سے بھی زائد آیات ہیں تو اس لحاظ سے ایک ہی معجزہ نہیں بلکہ دو ہزار سے زیادہ معجزات کا مجموعہ ہے۔ جب یہ امر ثابت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو آیاتِ بنیات (معجزات) کے ساتھ مشرف و مکرم فرمایا تھا، پس جس کو قرآن کریم کے ذریعے اتنی کثیر آیاتِ بنیات (دو ہزار سے زائد معجزات) سے نوازا ہو اس کے شرف اور بزرگی کی کیا حد ہوگی؟

پانچویں دلیل جب ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی ایک معجزہ دیگر ہر نبی کے سارے معجزات سے افضل ہے تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر جملہ انبیائے کرام سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس سلسلے میں سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک تو یہ ارشاد ہے، تمام کلاموں میں قرآن کریم ایسا ہے جسے جملہ موجودات میں بنی نوع انسان - دوسرا ارشاد یہ ہے کہ خلعت جس قدر اشرف و اعلیٰ ہو، اس کا پہننے والا بادشاہ کے نزدیک اتنا ہی معزز و مکرم ہوتا ہے۔

چھٹی دلیل سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے، جو حروف اور اصوات کی جنس سے ہے اور یہ اعراض ہیں، جو باقی رہنے والے نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس دیگر انبیائے کرام کے معجزات امورِ باقیہ کی جنس سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کو آخر زمانے تک باقی رکھا اور دیگر انبیائے کرام کے سارے معجزے ختم بھی ہو چکے، جن کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

ساتویں دلیل اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ
 یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، تو تم انہیں کی
 اقتداء۔ ۱۔
 راہ چلو۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں انبیائے ماضی کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس سے
 یہ مراد لی جائے کہ آپ اصولِ دین میں ان کی اقتداء پر مامور تھے تو آپ کے حق میں یہ جائز نہیں،
 کیونکہ یہ تو تقلید ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین کے فروع میں ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے
 تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ شریعتِ محمدیہ نے پہلی تمام شرائع کو منسوخ کر دیا ہے۔ پس باقی
 یہی رہا کہ اس سے مراد اخلاقِ حسنہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر انبیائے کرام کے
 حالات اور ان کے پاکیزہ اخلاق سے مطلع کر کے یہی فرمایا ہو گا کہ مذکورہ اچھی عادتوں میں ان کی
 اقتداء کرو۔ اس کا مقتضی یہ ہوا کہ جو اچھی عادات ان حضرات میں الگ الگ پائی جاتی تھیں وہ
 آپ کی تنہا ذات میں جمع ہو گئیں۔ پس یہ ضروری ہوا کہ سب کے کمالات کا مجموعہ ہونے کے باعث
 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سب سے افضل ہیں۔

آنٹھوس ولیل نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف مبعوث
 فرمائے گئے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اور دوسرے
 انبیائے کرام کی نسبت مشقت بھی زیادہ اٹھائی۔ پس آپ کا سب سے افضل ہونا ضروری ہوا۔
 سارے انسانوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بارے میں
 ارشادِ ربانی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
 اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت
 لِلنَّاسِ۔ ۲۔
 کے ساتھ جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔

اس کا مقتضی یہی ہے کہ آپ کی مشقت دوسرے انبیائے کرام سے زیادہ تھی کیونکہ آپ تنہا تھے،
 وہ بھی اس حالت میں کہ پاس نہ مال خزانے تھے اور نہ اعیان و انصار۔ ایسے حالات میں
 آپ نے جب انہیں یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (اے کافرو!) کے الفاظ سے مخاطب کیا تو سب

آپ کے دشمن ہو گئے اور اُن کی جانب سے ہر وقت خطرہ رہنے لگا کیونکہ سارے درپٹے ہزار تھے اس لحاظ سے آپ کی مشقت سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو اُنھیں صرف فرعون اور اُس کی قوم سے خطرہ تھا، لیکن ہر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو سب ہی دشمن ہو گئے تھے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ یہ شہر دوستوں اور رفیقوں سے بالکل خالی ہے، لیکن اس میں صرف ایک آدمی ہی ایسا ہے جو طاقت اور جنگی ساز و سامان رکھتا ہے۔ اُس کے پاس تنہا جاؤ اور اُسے ایسی خبر دو جو اُسے گھبراہٹ میں ڈال دے اور تکلیف دہ ہو، تو وہ شخص وہاں جانے سے شاید ہی پس و پیش کرے حالانکہ وہ تنہا ہے۔ لیکن اُس سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں دُور دراز جنگل کی طرف جاؤ، جہاں کوئی دوست اور ہمنوا نہ ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو ایسی خبر پہنچا دو جس سے وہ بھڑک اُٹھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اُس کے لیے پہلے ہی نسبت انتہائی مشکل ہے۔ پس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی مشکل ترین فریضے پر مامور تھے۔ چنانچہ یہی کام آپ کے سپرد ہوا کہ رات دن جنوں اور انسانوں کے پاس جائیں، جن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، بلکہ عادۃً اُن سے یہی متوقع تھا کہ دشمنی سے پیش آئیں گے، اذیت پہنچائیں گے اور تحقیر کریں گے۔ اس کے باوجود فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سرگرم عمل ہو گئے اور اپنے اس فرض کی ادائیگی میں عمر بھر مصروف رہے۔ نہ دشمنوں کے سلوک سے بیزار ہوئے اور نہ بد دل ہو کر رُکے۔ ان حالات کا مقتضی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں آپ کو سخت پریشانیوں اور مشقتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ
مِنْ قَبْلِ الْفَتْمِ وَقَاتِلَ طُأُولِيكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً ط مِنْ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا ط لَ
تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح تکہ سے قبل خرچ
اور جہاد کیا وہ مرتبے میں اُن سے بڑے ہیں ،
جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد
کیا ۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ حقیقت میں یہ مشقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھی۔ جب پیروی کے باعث صحابہ کرام بھی اس سے دوچار ہوئے تو مشقت کے سبب انہیں باقی صحابہ پر اتنی بڑی فضیلت ملی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ جب یہ امر ثابت ہو چکا کہ آپ کو سب سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑی تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ کو فضیلت بھی سب سے زیادہ حاصل ہے کیونکہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادتوں میں سے افضل وہ عبادت ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔

نویں دلیل چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین دیگر تمام ادیان سے افضل ہے لہذا لازم آتا ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیائے کرام سے افضل ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان کا ناسخ بنایا ہے اور ناسخ منسوخ سے افضل ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا ہے ان سب کے برابر اجر ملے گا جتنا قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کو ملنا ہے۔ جب یہ دین دیگر ادیان سے افضل اور زیادہ ثواب والا ہے تو اس دین کے لانے والے کو دیگر ادیان کے لانے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس سے لازم آیا کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر تمام انبیائے کرام سے افضل ہوں۔

دسویں دلیل چونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت دوسری تمام امتوں سے افضل ہے، لہذا آپ کا دیگر تمام انبیائے کرام سے افضل ہونا ضروری ہوا۔ پہلی بات کا قرآنی ثبوت یہ آیت ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ لے
تم بہتر ہو ان سب امتوں میں، جو لوگوں میں
ظاہر ہوئیں۔

دوسری بات کی دلیل یہ ہے کہ اس امت کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے باعث یہ فضیلت ملی ہے، جیسا کہ خود اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

اے محبوب! تم فرما دو، لوگو! اگر تم اللہ کو
دوست رکھتے ہو تو میرے فرماں بردار ہو جاؤ۔

تالیع کی فضیلت سے متبوع کی فضیلت لازم آتی ہے۔ علاوہ بریں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار دیگر تمام انبیائے کرام سے زیادہ ہیں کیونکہ آپ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ لہذا آپ کا ثواب سب سے زیادہ ہوا، کیونکہ تابعداروں کی کثرت متبوع کے رتبہ عالی کی دلیل ہے۔

گیارھویں دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہیں، لہذا آپ کا افضل ہونا ضروری ہوا، کیونکہ مفضول سے فاضل کے منسوخ ہونے میں عقلی لحاظ سے بھی قباحت ہے۔

بارھویں دلیل انبیائے کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت کئی وجہ سے ہے، ان میں سے ایک وجہ کثرت معجزات بھی ہے، جو ان کی صداقت اور بزرگی پر دلالت کرتے ہیں اور ہمارے نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات تین ہزار سے بھی متجاوز ہیں جن کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی:

منہا ما يتعلق بالقدرۃ کاشباع	ان میں سے بعض معجزات ایسے ہیں جن کا تعلق
الخلق الکثیر من الطعام	قدرت و تصرف سے ہے، جیسے تھوڑے
القلیل و إروائهم من الماء	کھانے سے بہت سارے آدمیوں کو شکم سیر
القلیل و منہا ما يتعلق بالعلوم	کر دینا یا ذرا سے پانی سے انہیں سیراب کر دینا۔
کا لاخبار عن الغیوب و فصاحة	بعض وہ معجزات ہیں، جن کا تعلق علوم سے ہے،
القرآن و منہا اختصاصہ	جیسے آپ کا غیب کی خبریں بتانا اور فصاحت
صلی اللہ علیہ وسلم فی	قرآن کریم اور بعض معجزات کا تعلق آپ کے
ذاتہ بالفضائل نحو کونہ	ذاتی خصائص و فضائل سے ہے، جیسے تمام

اشرف نسباً من اشرف اشرف عرب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
العرب۔ (صفحہ ۱۵) وسلم کا شریف النسب ہونا۔

بعض معجزات کا تعلق آپ کی بے انتہا شجاعت سے ہے اور بعض معجزات کا تعلق آپ کے اخلاق،
علم، وفا، فصاحت اور سخاوت سے ہے۔ کتب احادیث میں ان امور کا تفصیلی بیان
موجود ہے۔

تیرھویں دلیل فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام
اور اُن کے علاوہ سارے انسان قیامت کے روز میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ حدیث
اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور اُن کی ساری
اولاد سے افضل ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا ہے: میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سر وار
ہوں۔ یہ بھی فرمایا ہے:

لا یدخل الجنة احد من جنت میں اُس وقت کوئی نبی داخل نہیں ہوگا
النبيين حتى ادخلها انا جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں اور نہ کوئی
ولا یدخلها احد من الامم امت داخل ہو سکے گی جب تک میری امت
حتى تدخلها امتی۔ (صفحہ ۱۵) نہ داخل ہو جائے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے جب لوگ قبروں سے اُٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اُٹھوں گا اور
جب وہ وفد کی صورت میں پیش ہوں گے تو اُن کا خطیب میں ہوں گا اور جب وہ نا اُمید
ہو جائیں گے تو اُنھیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔
میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جملہ بنی آدم سے مکرم و معزز ہوں اور یہ فخر یہ نہیں کہتا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ چند

صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انبیائے کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اُن کی گفتگو سن رہے تھے۔ اُن میں سے کسی نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا: یہ کتنی عجیب بات ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمکلامی کا شرف بخشا۔ کسی اور نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ اور اس کی طرف کی رُوح ہیں۔ چوتھے صاحب کمنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چُن لیا تھا پہلا مقرر کرنے یا تمام انسانوں کا باپ بنانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو اور دلائل کو سُن لیا ہے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ واقعی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ واقعی عیسیٰ علیہ السلام رُوح اللہ ہیں اور واقعی آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا اور قیامت کے روز لو اُحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اور میں بروز قیامت سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور وہ ہوں جن کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی اور یہ فخر یہ نہیں کہتا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں، پس میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ غریب مسلمان ہوں گے اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا اور میں سب اگلے پھلوں سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں اور یہ فخر یہ نہیں کہتا۔

چودھویں دلیل امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ عرب کا سردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گزارش کی: یا رسول اکرم! عرب کے سردار آپ نہیں ہیں؛ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام جہانوں کا سردار ہوں اور یہ عرب کا سردار ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔

لے مجدد مآثرہ حاضرہ قدس سرہ نے اسی لیے لکھا ہے:۔

طیبہ کے ماہِ تمام، مجدہ رُکُل کے امام
نوشہ ملکِ خدا، تم پر کرو روں درود

امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
 پندرھویں دلیل روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : مجھے
 پانچ چیزیں ایسی مرحمت فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں اور یہ فخر کے
 طور پر نہیں کہتا۔ (۱) میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں جبکہ مجھ سے پہلے ہر
 نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا (۲) تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک قرار دی ہے۔
 (۳) میرے سامنے ایک ماہ کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے۔
 (۴) میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمتیں حلال
 نہیں تھیں۔ (۵) مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی ہے، جو میں نے اپنی امت کے لیے رکھ چھوڑی
 پس انشاء اللہ تعالیٰ اس سے ہر اس شخص کو حصہ ملے گا جس نے کسی کو خدا کا شریک
 نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اس استدلال سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ فضائل
 کے ساتھ دوسرے انبیائے کرام پر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔
 سو لھویں دلیل امام محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کی وضاحت یوں
 کی ہے کہ ہر حکمران کی مشقت اس کی رعایا کی تعداد کے مطابق ہوتی
 جس کی حکمرانی صرف ایک گاؤں پر ہو اسے صرف ایک گاؤں کی ضروریات کے مطابق مشقت
 ہوگی لیکن جس کا سکہ مشرق سے مغرب تک رواں ہو، وہ مال اور ذخیروں کے لحاظ سے
 ایک گاؤں کے حکمران کی نسبت بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ پس آپ سے پہلے ہر ایک
 رسول اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لہذا انھیں توحید کے خزانوں اور معرفت کے جواہرات
 اتنا ہی حصہ ملا جتنا کہ بار رسالت اُن کے سپرد کیا گیا تھا۔ پس جو رسول اپنی قوم کی طرف یعنی
 زمین کے ایک قطعے میں بھیجا گیا اسے خزانوں سے اُس قطعے کی ضروریات کے مطابق روحانیت
 دی گئی، لیکن جو فرد کامل مشرق سے مغرب تک بسنے والے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف
 نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، تو ضروری ہوا کہ اُسے معرفت سے اُسی قدر حصہ ملا ہوگا، جو مشرق سے
 مغرب تک بسنے والوں کے امور کو سرانجام دینے کے لیے کافی ہو سکے۔ جب صورت حال
 یہ ہے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی

نبوت کو وہی نسبت ہوگی جو مشرق سے مغرب تک حکمرانی کرنے والے سے بعض شہروں پر حکمرانی کرنے والوں کو ہو سکتی ہے۔ دریں حالات سرور کون و مہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم و حکمت کے خزانوں سے اتنا وافر حصہ ملا ہوگا جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ لہذا علم میں آپ اُس درجے تک یقیناً پہنچے ہوں گے جہاں تک کسی بشر کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَادْخُلِي إِلَىٰ عِبَادِي مَا أَوْحَىٰ إِلَيَّ ابِ وَحْيٍ فَرَأَيْتُ اسْمَهُ يَكْتُبُ فِي كِتَابٍ

اور فصاحت میں آپ اس مقام تک پہنچے جس کے بارے میں خودیوں فرمایا ہے کہ میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں اور آپ کی کتاب (قرآن کریم) تمام کتابوں کی محافظ اور جامع ہے اور اُمت محمدیہ ساری اُمتوں سے بہتر قرار دی گئی۔

صحیحین بخاری و مسلم، میں ہمام بن منبہ کے طریق سے حضرت ابو ہریرہؓ اٹھارہویں دلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیائے کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی مکان بنایا اور اُس کے حُسن و جمال کو خوب سنوارا اور ہر لحاظ سے اسے مکمل کیا لیکن کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی لوگ جب اس عمارت کو دیکھتے تو بناوٹ اور سجاوٹ کے پیش نظر عیش و عشرت کرتے لیکن ساتھ ہی کہتے کہ آپ نے اس خالی جگہ میں اینٹ کیوں نہیں لگائی؛ تاکہ مکان واقعی مکمل ہو جاتا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ اینٹ میں ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے جب بھی دیگر انبیائے کرام کو قرآن کریم میں پکارا تو اُن کے اسمائے گرامی کے ساتھ مثلاً یَا دَاوُدُ اسْكُنْ۔ یَا اِبْرَاهِيْمُ۔

یَا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا تو یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ۔ یَا اَیُّهَا الرَّسُوْلُ وغیرہ پیارے القاب کے ساتھ ہی پکارا اور یہ آپ کی فضیلت کی دلیل ہے۔

ایک مخالفت نے ہمارے مذکورہ دعوے سے اختلاف کیا ہے اور فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر انبیائے کرام پر فضیلت کا اقرار کیا حتیٰ کہ اُمت کا اس امر پر اجماع و اتفاق بھی تسلیم کیا باوجود اس کے اختلاف کرتا ہے لیکن ایسی مخالفت کا شرعاً کوئی اعتبار اور نہ اس سے اُمتِ محمدیہ کے اجماع و اتفاق میں کوئی نقص واقع ہوتا ہے۔ اُس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دیگر انبیائے کرام کی فضیلت کا کئی وجہ سے ذکر کیا چنانچہ وہ کہتا ہے:

پہلی وجہ اختلاف دیگر انبیائے کرام کے معجزات فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات سے بڑے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سجدہ نہیں کروایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی آگ میں ڈالے گئے اور وہ اُن کے لیے گلزار بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے گئے جبکہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُن کی مانند کوئی معجزہ نہیں ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، انسانوں، پرندوں، وحشی جانوروں اور ہواؤں پر قبضہ و تسلط دیا گیا تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا قبضہ نہیں دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بولنے کی طاقت دی اور مردوں کو زندہ کرنے، بہروں، گونگوں اور کورھیوں کو شفا دینے کی قدرت عطا فرمائی جبکہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مقام حاصل نہیں تھا۔

دوسری وجہ اختلاف کہتا ہے، چنانچہ فرمایا:

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۖ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گرا دوست بنایا۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے:

قَفَّحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ۝ تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔

اور ان میں سے کسی فضیلت کا حصول فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہے۔
تیسری وجہ اختلاف پر بھی فضیلت نہ دور نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیائے کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دور۔

چوتھی وجہ اختلاف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم مسجد میں انبیائے کرام کے فضائل بیان کر رہے تھے، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ عبادت بہت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔ اور ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں کیونکہ آپ کو ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں اور آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا: تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے ساری باتیں بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا: کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یحییٰ بن زکریا علیہما السلام سے بہتر ہو کیونکہ انھوں نے کوئی بُرا کام نہیں کیا تھا، بلکہ کبھی بُرائی کا قصد تک نہیں کیا تھا۔

مخالف کے چاروں دلائل کا جواب حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ آدم اور ان کے سوا سارے انسان بروز قیامت میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اُس

وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے (یعنی مٹی اور پانی سے اُن کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا) اور یہ بھی منقول ہے کہ معراج کی رات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براقی کی رکاب جبریل علیہ السلام نے تھامی ہوئی تھی اور سجدے کی نسبت اس میں زیادہ عظمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ نازل فرماتا ہے نیز فرشتوں اور انسانوں کو بھی اپنے حبیب پر درود و صلوٰۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسجود ملائکہ ہونے سے فضیلت میں زیادہ ہے کیونکہ :

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا یہ انہیں ادب سکھانے کے لیے تھا لیکن ملائکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے مرتبے کو پہچانیں۔

۲۔ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قیامت تک ہر وقت اور ہر آن کے لیے درود بھیجنے کا حکم ہے جبکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تو صرف ایک ہی دفعہ کیا تھا۔

۳۔ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنا صرف فرشتوں پر لازم کیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خود صلوٰۃ بھیجتا ہے اور ساتھ ہی فرشتوں اور ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی درود پاک کا بارگاہ رسالت میں ہر پیش کیا کریں۔

۴۔ فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم فرمایا گیا تھا کہ نبی اکرم، نور مجسم، فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ افروز تھا۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ خاص فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔

لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے کلام معجز نظام میں فرمایا ہے :

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ - ۱
اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع
کی تفصیل۔

نیز دوسری جگہ یوں فرمایا ہے:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ ۲
اور تمہیں اپنی محبت میں خرد رفتہ پایا۔

علاوہ بریں آدم علیہ السلام کو سکھانے والا اللہ ہے، جیسا کہ فرمایا ہے: آدم کو تمام نام سکھا
دیے۔ لیکن سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام تعلیم دیتے تھے،
جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ - ۳
انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔

جواب: یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جلّ شانہ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
علم سے اپنے آخری کلام معجز نظام کے ذریعے یوں خبردار فرمایا ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا ۝ ۴
اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے
اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خور فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے ادب کی تعلیم دی اور
خوب تعلیم دی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں خود یوں فرمایا ہے:

الَّتِي خُتِمَ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ ۝ ۵
رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔

فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دُعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ! ہمیں اشیاء کی
اصلی حقیقت دکھا۔ بلکہ خود اللہ ربّ العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو علم کی دُعا مانگنے کا یوں حکم دیا:

۱۔ پ ۲۵، سورۃ الزخرف، آیت ۵۲ - ۲۔ پ ۳۰، سورۃ الضحیٰ، آیت ۱

۳۔ پ ۲۷، سورۃ النجم، آیت ۵ - ۴۔ پ ۵، سورۃ النساء، آیت ۱۱۳

۵۔ پ ۲۷، سورۃ الرحمن، آیت ۱، ۲

وَقُلْ تَرَبَّيْتُ بِرَدْفِي عِلْمًا ۱ اور عرض کرو، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔
 مذکورہ آیات اور مخالف کی پیش کردہ آیت عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى میں مطابقت بلحاظ تلقین اور
 تعلیم ہے (یعنی پیش کردہ آیات کے مطابق آپ کو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی اور اس آیت کے
 بموجب تلقین جبرئیل علیہ السلام بھی کرتے رہے) اس فرق کو مندرجہ ذیل روایتوں سے سمجھ
 چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ يَتَوَقَّأَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ ۲ تم فرماؤ، تمہیں وفات دیتا ہے، موت کا فرشتہ۔
 لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:
 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ۳ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے اُن کی موت کے
 وقت۔

سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا،
 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۴ اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں
 لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا،
 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ اور دور نہ کرو انھیں جو اپنے رب کو پکارتے
 رَبِّهِمْ ۵ ہیں۔

مذکورہ آیات اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ اخلاق میں نوح علیہ السلام آپ سے افضل ہیں۔ کیا
 صورت حال یہی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے:
 إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۶ انا ارسلنا نوحا الى قومه
 اَنْ اُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ ۷ بھیجا کہ اُن کو ڈرا اس سے پہلے کہ اُن پر
 اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۸ دردناک عذاب آئے۔

۱ پ ۲۱، سورہ السجہ، آیت ۱۱

۲ پ ۱۶، سورہ طہ، آیت ۱۱۴

۳ پ ۱۹، سورہ الشعراء، آیت ۱۱۴

۴ پ ۲۲، سورہ الزمر، آیت ۲۲

۵ پ ۲۹، سورہ نوح، آیت پہلی

۶ پ ۵، سورہ الانعام، آیت ۵۲

تو انہیں سب سے پہلی خبر عذاب کے بارے میں دی گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۰
اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

نیز دوسرے مقام پر آپ کے متعلق یوں فرمایا ہے:

لَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱
بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے ، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ، مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان ۔

حضرت نوح علیہ السلام کا آخری سلوک اپنی قوم کے ساتھ یہ تھا:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۝۱۲
اور نوح نے عرض کی: اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔

اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُمت سے آخری سلوک شفاعت کی صورت میں ہوگا، جیسا کہ فرمایا ہے:

عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۱۳
قرب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔

بانی رہے انبیائے کرام کے معجزات تو کتاب دلائل النبوة (مصنفہ حافظ ابوالعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ) میں ان کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کے ثابت کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیائے کرام کے معجزات سے افضل ہیں۔ طوالت کے پیش نظر یہ کتاب (تفسیر کبیر) اس سے زیادہ کی متحمل

۱۰ پ ۱۱، سورہ النور، آیت ۱۲۸

۱۱ پ ۱۱، سورہ الانبیاء، آیت ۱۰۷

۱۲ پ ۱۱، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۷۹

۱۳ پ ۱۹، سورہ نوح، آیت ۱۰

نہیں۔ (واللہ اعلم)

اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دفعہ بَعْضُهُمْ دَرَجاتٍ فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں: پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انبیائے کرام کے مراتب کا بیان کرنا مقصود ہے، جو ایک دوسرے سے نرالے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا جبکہ دوسروں کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بادشاہی اور نبوت دونوں کو اکٹھا کر دیا جبکہ دیگر انبیائے کرام کو یہ چیز حاصل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انسان، جنات، پرندے اور ہوتا بعل کر دی گئی جبکہ ایسی بادشاہی تو ان کے والد محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں تھی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو دیگر کسی نبی کو حاصل نہیں، نیز آپ کی شریعت تمام پہلی شریعتوں کی ناسخ ہے۔ مذکورہ تقریر اس لحاظ سے ہے جبکہ درجات کو مراتب و مناصب پر محمول کریں، لیکن اسے اگر معجزات پر محمول کیا جائے تو اس لحاظ سے بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر تمام انبیائے کرام پر فضیلت ہے، کیونکہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جو ان کے زمانے کے مناسب تھے۔

مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیے کہ عصا کا سانپ بننا، ید بیضا اور سمندر کا پھٹ جانا اُس زمانے والوں کے اُن کاموں کا توڑ ہیں جنہیں وہ لوگ جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ بہروں، گونگوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا یا مردوں کو زندہ کرنا، اُس زمانے والوں کے کسب کے مطابق تھا جو وہ طب کے ذریعے کرتے تھے لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے، جو فصاحت و بلاغت اور خطبات و اشعار کے مشابہ ہے۔ معجزات قلت و کثرت کے لحاظ سے، مدتوں باقی رہنے اور جلد ختم ہو جانے کے باعث نیز ایک دوسرے سے قوی ہونے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ فضیلت کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ درجات کے تفاوت سے وہ امور مراد ہوں جن کا تعلق دنیا سے ہے یعنی امت اور صحابہ کی کثرت نیز شہنشاہی کا

اگر ان تینوں وجوہات پر غور کیا جائے تو صاف نظر آجائے گا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تینوں قسم کی خوبیوں کے جامع ہیں، کیونکہ:

فمنصبہ اعلیٰ ومعجزاتہ	آپ کا منصب سب سے بلند، معجزات ہمیشہ
انبیٰی و اقویٰ وقومہ اکثر	باقی رہنے والے اور سب سے قوی اور آپ کی
ودولتہ اعظم و اوفر	امت سب سے زیادہ اور شہنشاہی سب سے عظیم اور بڑی۔
القول الثانی ان المراد	دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد
بہذہ الایۃ محمد علیہ	سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں،
الصلاۃ والسلام لاسہ	کیونکہ آپ کو سب پر فضیلت دی گئی ہے۔ صلی
هو المفضل علی کل صلی	اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اللہ علیہ وسلم۔ (ص ۱۵۴)	

مِثَاقِ انبِیَآءِ کَرَام

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ	اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے اُن کا عہد لیا
لَمَّا أْتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ	جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں۔ پھر تشریف لائے
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ	تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق
لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ	فرمائے تو ضرور بظہور اس پر ایمان لانا اور ضرور
لَتَنْصُرُنَّهُ ط قَالَ أَقْرَدْتُمْ	بظہور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَيْكُمُ أَوْصِيًّا ط	اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی کہ
قَالُوا أَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا	ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ه	ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ	ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے

فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۱۰ تو وہی فاسق ہیں۔

جاننا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیات سے اُن امور کا ذکر کرنا مقصود ہے جو اہل کتاب میں مشہور و معروف تھے اور فخر و وعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے عذر کی بنیاد نہ ہو اور اُن کا بغض و عناد صاف ظاہر ہو جائے۔ اُن امور سے بعض کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن انبیائے کرام سے عہد لیا جنہیں کتاب اور حکمت مرحمت فرمائی تھی کہ جب تمہارے پاس ایسا رسول آئے، جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرتا ہو، تو اُس پر ایمان لانا اور اُس کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جملہ انبیائے کرام نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس معصوم گروہ کو یہ تحدید سنادی تھی کہ جو اس حکم سے پھرے گا وہ نافرمان شمار ہوگا۔ اس آیت کا مقصود یہی ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام پر یہ واجب کیا ہے کہ اُس رسول پر ایمان لائیں جو اُن کی کتابوں کی تصدیق کرے۔ یہ تنہا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ شامل نہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہی رسول ہیں جو دیگر انبیائے کرام کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے جلوہ آراستے گیتی ہوئے تھے لیکن ایسا کہنے پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس سے اثبات للشیء بنفسہ لازم آتا ہے کیونکہ اس طرح ایک کی رسالت سے دوسرے کی رسالت ثابت کی جا رہی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی رسالت سے یہاں اظہارِ معجزہ مراد ہے اور

اس صورت میں اعتراض ہی ساقط ہو جاتا ہے (واللہ تعالیٰ اعلم)۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، قتادہ اور سدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے مذکور ہے:

ان هذا الميثاق مختص
بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ميثاق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔

فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر آج موسیٰ بن عمران (علیہ السلام) بھی زندہ موجود ہوتے تو انھیں میرا اتباع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد والے سارے انبیائے کرام علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ظاہری حیات میں مبعوث ہوں تو ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنی پڑے گی۔

وَيَحْتَمِلُ انْ الْمَرَادُ مِنَ الْآيَةِ
انْ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْمِيثَاقَ
مَنْ اَمَّهُمْ بَايَعُوهُ اِذَا بَعَثَ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ
يَحْيَى عَلَيْهِمُ اَنْ يَوْمِنُوْا بِهِ وَ
اَنْ يَتَصَرَّوْهُ وَهَذَا قَوْلُ
كَثِيْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَاللَّفْظُ مُحْتَمِلٌ
لَهٗ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْ هَذِهِ
الْآيَةِ اَنْ يَوْمِنُوْا الَّذِيْنَ كَانُوْا
فِيْ نَزْمَانِ الرَّسُوْلِ صَلَّي اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِذَا كَانَ الْمِيثَاقُ
مُأْخُوْذًا. يَوْمِنُوْا كَانُ ذٰلِكَ

اور احتمال ہے کہ آیت سے یہ بھی مراد ہو کہ
انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد لیں
کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مبعوث ہوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ نبی آخر الزماں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی
مدد کریں اور اکثر علمائے کرام یہی کہتے ہیں اور
(آیت کے) لفظوں میں اس معنی کا احتمال بھی ہے
کیونکہ مقصود اس آیت کا یہی ہے کہ جو لوگ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس
میں موجود ہوں وہ آپ پر ایمان لائیں اور یہ عہد
امتوں سے جب لیا گیا تو (اس کا تذکرہ)
حصول مقصد کی زیادہ وضاحت کرتا ہے نسبت
اس کے کہ انبیائے کرام علیہم السلام سے

لہٰ اسی لیے عشاق کا یہی کچھ مشغلہ رہتا ہے :

اُن کی دُھن ، اُن کی لگن ، اُن کی تمنا ، اُن کی یاد
مختصر سا ہے مگر کافی ہے سامان حیات
(اختر الحمادی)

ابلاغ فی تحصیل هذا المقصود
 من ان يكون مأخوذاً على الانبياء
 عليهم الصلوة والسلام وقد
 اُجيب عن ذلك بان درجات
 الانبياء عليهم السلام اعلیٰ
 واشرف من درجات الامم
 فاذا دلت هذه الآية على ان
 الله تعالى اوجب على جميع
 الانبياء ان يؤمنوا بمحمد
 عليه الصلوة والسلام
 لو كانوا في الاحياء وانهم
 لو تركوا ذلك لصاروا من
 نمرۃ الفاسقين فلان يكون
 الايمان بمحمد صلى الله
 عليه وسلم واجباً على اممهم
 لو كان ذلك اولیٰ فکان
 صرف هذا البیتاق الى الانبياء
 اقویٰ فی تحصیل المطلوب :-

د ص ۱۵۵-۱۵۶

عہد لینے کا ذکر فرمایا گیا تو اس کا جواب ہماری
 (امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ) کی جانب سے
 یہ ہے انبیائے کرام علیہم السلام کے درجات
 امتوں کے درجات کی نسبت بہت بلند و بالا
 ہیں، لیکن جب یہ آیت اس بات پر دلالت
 کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام
 کے لیے یہ ضروری ٹھہرایا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، خواہ
 وہ زندہ کیوں نہ موجود ہوں۔ اگر وہ اس فرض کے
 تارک ہوئے تو نافرمانوں کے گروہ سے ہو جائیں گے
 پس سیدنا محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ان
 حضرات کی امتوں پر تو اور زیادہ ضروری
 ہوا اور اولیٰ بھی یہی ہے۔ پس صرف
 انبیائے کرام سے عہد لینے کا ذکر
 ہی تحصیل مقصد کے لحاظ سے زیادہ قوت
 رکھتا ہے (یعنی زیادہ مناسب ہے)۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سے فوائد بیان فرمائے ہیں
 جو تفصیل و تحقیق کا شائق ہے وہ ان کی تفسیر کی جانب رجوع کرے۔

رحمتِ دو عالم کا حلم

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لِّلْقُلُوبِ
لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوْهُمْ
فِي الْأَمْرِ ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ه

ترکیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب !
تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج
سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے
پریشان ہو جاتے۔ تو تم انہیں معاف فرماؤ اور
ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ
کرو۔ اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو، تو اللہ پر
بھروسہ کرو۔ بے شک توکل واسلہ اللہ کو

پیارے ہیں۔

کے تحت فرمایا ہے، جاننا چاہیے کہ غزوہٴ احد میں جب اکثر حضرات آپ سے بچھڑ کر دُور نکل گئے، تو جب وہ آپ کی جانب لوٹے، اُس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کے ساتھ ذرا بھی سخت کلامی سے پیش نہ آئے بلکہ نرمی کے ساتھ دلوں کو موہ لینے والے انداز ہی میں گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیات کے ساتھ اُن کی ایسی رہنمائی فرمائی جو انہیں دنیا اور آخرت میں نفع پہنچاتے۔ منجملہ اُن کے یہ بات بھی تھی کہ اُن سب کو معاف فرما دیا اور کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہیں معاف کرنے اور سختی نہ فرمانے پر تعریف و توصیف کی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا نرمی اور عفو و درگزر سے پیش آنا آپ کے حُسنِ خلق کا ثبوت ہے۔ ساتھ ہی باری تعالیٰ نے یہ حکم دیا:

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِئَلَّا تَبْعَكَ
اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ لہ

مسلمانوں کے لیے۔

نیز اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لفظوں میں بھی حکم دیا:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اے محبوب! معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ اور بے شک تمہاری نحو بوڑھی شان کی ہے۔

نیز دوسرے مقام پر ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوں مدح و ثناء بیان فرمائی ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

بیشک تمہارے پاس تشریف لائے ہیں وہ رسول

جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہاری

بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔ مسلمانوں پر

کمال مہربان مہربان۔

فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امام کا حکم اور نرمی سب سے زیادہ پسند ہے اور امام کی جہالت اور سختی سے زیادہ اور کوئی چیز ناپسند نہیں ہے۔ جب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے امام ہیں تو ضروری ہوا کہ آپ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حلیم اور اخلاقِ حسنہ والے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ

۱۹۹ آیت ۱۹۹

۲۱۵ آیت ۲۱۵

۱۲۸ آیت ۱۲۸

۲۹ آیت ۲۹

اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَزُكْرِتُمْ لَهُمْ اَلْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ تَاْوَانًا كَاُنُوْا مِّنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۰

اُن میں اُنھیں میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن پر اُس کی آیتیں پڑھتا ہے اور اُنھیں پاک کرتا ہے اور اُنھیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اُس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

کے تحت فرمایا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس آیت میں مختلف وجوہ ہیں، مثلاً:

پہلی وجہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کی کو رحمتی کا ذکر فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب بددیانتی اور خیانت کی نسبت کی تھی تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اُس معاند کے الزام کی بیخ کنی فرمادی۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کے شہر ہی میں پیدا ہوئے اور اُسی میں اُن کے سامنے پروان چڑھے۔ ساری عمر میں قوم نے آپ سے صدق و امانت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے سوا یہی تھا کہ آپ حق کی طرف بگاتے اور دنیا سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ ان حالات میں آپ کی پاک اور شفاف روحانیت پر خیانت کا دھبہ کیسے لگ سکتا تھا؟

اللہ تعالیٰ نے جب اُس معاند و مقترض کی غلطی بیان فرمائی تو سرور کون و مکان دوسری وجہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیانت سے بری ہونے کی شہادت دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ان کا وجود مسعود تمھارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ تمہیں طُرُقِ باطلہ کی طرف دائل ہونے سے پاک کرتے اور ایسے علومِ نافعہ سے تمھارے دامنِ مراد کو بھرتے رہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ضامن ہیں۔ ان حالات میں کون سا صاحبِ عقل و دانش ہوگا جو ایسے خلاصہ رزگار فردِ کامل و مردِ اکمل کی جانب خیانت کو منسوب کرنے کا تصور بھی دل میں لائے گا؟

تیسری وجہ۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تم میں سے ہے اور تمھارے شہر کا رہنے والا اور تمھارے خویش و اقارب سے ہے۔ اس کے

باوجود، شرک کے باعث تم ذلت کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ اُسے بزرگی دی ہے اور فضل و احسان کے ساتھ ساری کائنات سے ممتاز کیا ہے۔ اُن کا وجود تمہارے لیے باعثِ شرف و عظمت ہے۔ اس کے برعکس تمہارا اُن پر طعن و تشنیع کرنا اور اُن کی جانب برائیوں کی نسبت کرنا عقل و دانش سے بعید ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فضل و کمال میں اُس منصبِ رفیع پر چوتھی وجہ فائز ہیں، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان بتایا ہے تو ہر صاحبِ عقل و دانش پر حتیٰ المقدور آپ کی اعانت کرنا واجب ہے۔ پس اے معاند و! تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہوتے اور شرف دست و لسان بکھ سیف و سنان کے ساتھ ان کی معاونت پر ہم وقت کمر بستہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فرمایا ہے تو یہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ:

انعم علیہم واحسن الیہم	یہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر انعام کیا اور رسول اللہ
بعثتہ ہذا الرسول فان	صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے سبب
بعثتہ صلی اللہ علیہ وسلم	احسان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان
احسان الی کل العالمین	تمام جہانوں (یعنی جہان والوں) پر ہے۔
وذاک لان وجہ الاحسان	اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بعثت کا احسان
فی بعثتہ کوئہ داعیا	اُن کے لیے آپ کے داعی ہونے اور اُنہیں
لہم الی ما یخلصہم من	عذاب الہی سے نجات دلانے اور اُنہیں
عقاب اللہ ویوصلہم الی	ثواب و اجر کی منزلِ مقصود تک پہنچانے کے
ثواب اللہ و ہذا عام فی	باعث ہے اور یہ جملہ کائنات والوں کے حق
حق العالمین لانہ صلی	میں عام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
اللہ علیہ وسلم مبعوث الی	وسلم ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمائے
کل العالمین۔ (ص ۱۵۶)	گئے ہیں۔

چنانچہ آپ کی جہانگیر بعثت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِّلنَّاسِ - ۱۷

اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی
رسالت کے ساتھ جو تمام آدمیوں کو گھیرنے
والی ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے اہل اسلام ہی نے فائدہ اٹھایا ہے لہذا آیت میں ایمان والوں
کو اس احسان سے خاص کیا گیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کے بارے میں ہُدًی لِّلْمُتَّقِينَ فرمایا ہے (یہ نفع حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے)
حالانکہ قرآن کریم کی صفت یہ بتائی ہے ہُدًی لِّلنَّاسِ کہ یہ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔
دوسری نظیر مندرجہ ذیل آیت میں موجود ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ۚ
تو تم فقط اُسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔

جاننا چاہیے کہ انبیاء و مرسلین سے ہر ایک کی بعثت اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر احسان ہے،
لیکن جس قدر کسی رسول سے مخلوق کو زیادہ نفع ہوگا، اُنسی قدر اُس کی بعثت میں انعام
زیادہ ہوگا۔ فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت میں دو قسم کی خصوصیات ہیں۔ ایک
وہ منافع جو آپ کی بعثت ہی سے حاصل ہوتا ہے، دوسرے وہ منافع جو آپ کے اُن
خصائل حمیدہ و اخلاقِ محمودہ سے حاصل ہوتا ہے، جو دوسرے میں نہیں پائے جاتے۔ جو
نفع آپ کی اصل بعثت سے حاصل ہوتا ہے اُس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مُرْسَلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
رسولِ خوشخبری دیتے اور ڈر سنانے کے

لِّشَاكٍ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی

حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ - ۱۸
عذر نہ رہے۔

ابو عبد اللہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء و مرسلین کی بعثت سے جو فائدہ حاصل
کیا جاتا ہے اُس کا حصول دین کے راستے سے ہوتا ہے۔ اس نفع حاصل کرنے کے

طریقے مختلف ہیں۔

اول مخلوق جتنی طور پر نقصان کی طرف مائل ہے۔ اُس کا فہم قلیل اور درایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل کے طریقے بیان فرمائے اور انہیں خوب واضح کیا اور حیب اُن کے دلوں میں کوئی خطرہ گزرا یا شبہ وارد ہوا، تو مناسب جواب سے اُس کا ازالہ فرمایا۔

دوم مخلوق یہ تو جانتی ہے کہ اُنہیں اپنے مالک کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن وہ اطاعت کی کیفیت سے نا آشنا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُسی کیفیت کی وضاحت فرمائی تاکہ وہ طاعت گزاری میں غلطی نہ کریں اور نا مناسب اقدام سے اجتناب کریں۔ سو ہم مخلوق کی جبلت میں چونکہ کاہلی، غفلت، کمزوری اور تنگ دلی بھی موجود ہے اس لیے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کے سامنے احکامِ الہی کو ترغیب اور ترہیب کے طریقوں سے بیان فرمایا تاکہ تعمیلِ حکم میں سستی یا نقصان واقع ہونے کے بجائے طاعت گزاری کی طرف رغبت رہے۔

چہارم مخلوق کا نورِ عقل آنکھوں کی روشنی کے مانند ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھوں سے اُس وقت تک کما حقہ دیکھنے کا کام نہیں لیا جاسکتا جب تک سورج کی جلوہ گری نہ ہو۔ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت عقلِ الہی سے ہے، جس نے سورج کی طرح دنیا کو جگمگا رکھا ہے۔ پس اس نورِ عقل سے لوگوں کی عقل و دانش کو تقویت پہنچاتے اور ایسے غیبی امور کو اُن کے لیے ظاہر فرماتے رہتے ہیں، جن پر آپ کے ظہور سے پہلے پردہ پڑا ہوا تھا۔ حقیقت میں یہ اشارہ آپ کی بعثت کے اصل فوائد کی جانب ہے۔ وہ فوائد جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفاتِ جمیلہ کے سبب حاصل ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اِس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ مِنْ أَنْفُسِكُمْ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ آپ سے متعدد طریقوں کے ساتھ یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلاً:

پہلی دلیل: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کے شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں اُن کے

سامنے پروان چڑھے۔ وہ آپ کے حالات سے پوری طرح باخبر اور آپ کے تمام اقوال و احوال سے مطلع تھے۔ انھوں نے آپ کی ابتدائی عمر سے آخر تک سچائی، عفت، دنیا سے بے رغبتی، جھوٹ سے دوری اور صداقت پر ہمیشگی کے سوا سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاقِ کریمہ میں اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ جس کی عمر میں اول سے آخر تک یہی دیکھا گیا ہو کہ وہ ہمیشہ صداقت و امانت پر زندگی بسر کرتا رہا ہونیز کذب و خیانت کے سامنے ہکا بکا اس کی بارگاہ میں گزر نہ ہوا ہو۔ ایسا شخص ایک مدت کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے، جس کا جھوٹا دعویٰ کرنا کذب کی بدترین قسم ہے، اس کے متعلق ہر کسی کا غالب گمان یہی ہو گا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔

وہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی فرد کے دوسری دلیل سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیا، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی سے سبق لیا جس کی تکرار کرتے اور پورے چالیس سال کی عمر تک آپ نے اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ جب چالیس سال پورے ہونے کے بعد آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا اور آپ کی زبان مبارک سے ایسے علوم و معارف ظاہر ہونے لگے جو ابتداءً آفرینش سے اس کائنات میں کسی سے ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ نے اگلے لوگوں کے واقعات اور گزشتہ انبیاء کرام کے حالات اُسی طرح بیان فرما دیئے جیسے اُن حضرات کی کتابوں میں مذکور ہوئے تھے۔ پس ہر وہ شخص جو عقل سلیم سے بہرہ ور ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ایسا آسمانی وحی اور الہام الہی کے بغیر ممکن نہیں۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بعد معاندین نے تبصری دلیل پیش کی کہ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیجیے اور اس کے معاوضے میں جتنی زیادہ سے زیادہ دولت آپ چاہیں وہ پیش کی جاسکتی ہے یا کسی عورت سے آپ شادی کرنے کے خواہشمند ہیں تو آپ کی ایسی خواہش بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اُن کی پیشکش کو پرکھ کے برابر حیثیت نہ دی بلکہ اپنے فقر پر قانع رہے اور مشقت کے مقابلے میں صبر کی ڈھال کو سنبھالے رکھا۔ جب اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کی عظمتوں کے شادیاں نے بجھنے لگے، کتنے ہی

شہروں پر قبضہ ہو گیا اور مالی غنیمت سے بیت المال بھر پور ہو گیا اور صحابہ کرام کو آسودہ حال فرمایا
 ایسے حالات میں بھی آپ کی دنیا سے بے رغبتی مثل سابق رہی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
 لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ حالانکہ جھوٹا آدمی دنیا کمانے کی خاطر بھاگ دوڑ
 کرتا ہے اور جب اسے دنیا کو ریل ہو جاتی ہے تو اس سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتا ہے
 اور اس کے دائرے کو مزید وسعت دینے میں کوشاں رہتا ہے۔ جب آپ نے دنیاوی آرام و
 راحت کی جانب توجہ بھی نہیں فرمائی تو اظہر من الشمس ہوا کہ آپ اس دعوے میں یقیناً سچے تھے۔
 جس نسخہ کیسیا کو لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس میں
 جو تھکی دلیل توحید کا مفصل بیان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، انصاف، نبوت، مرنے
 کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اثبات، عبادات کی تشریح اور اطاعت و فرمانبرداری کی پاکیزہ تعلیم
 ہی تو ہے اور یہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ انسان کامل کا کام بھلے بڑے کاموں میں تمیز کرنا ہے۔ جب
 فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب (قرآن کریم) ان دونوں راستوں کی مجمل وضاحت
 کرتی ہے تو ہر عقلمند انسان یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 راستبازی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

اس آخری شمع رسالت کے جلوہ آراے گیتی ہونے سے قبل اہل عرب کا
 پانچویں دلیل دین تمام رائج الوقت ادیان سے بھی گھٹیا تھا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا
 کرتے تھے اور ان کے اخلاق میں لوٹ مار اور قتل و غارت کے ذیل مشغلے بھی موجود تھے۔ جب
 اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کو بھیجا، تو آپ نے انھیں اس قعرِ مذلت
 سے نکال کر ہمد و شش ثریا کر دیا، حتیٰ کہ وہ علم، زہد، عبادت اور دنیاوی لذتوں اور آسائشوں
 میں بے رغبتی کے لحاظ سے ایسے راسخ ہوئے کہ اُمم سابقہ سے ممتاز اور افضل ہو گئے۔ وَذٰلِكَ

لہ یعنی : یہ

ہاتھ خالی، دل غنی، کون و مکان پر اقتدار
 دیکھنا یہ ساز و سامان حبیبِ کبریا
 (اختر الحامدی)

فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مِنْ نَاسِهِ -

جب مذکورہ وجوہات کو جان لیا گیا تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن لوگوں میں پیدا ہوئے اور اُن میں ہی آپ نے پرورش پائی تھی جو شبانہ روز آپ کے حالات کا مشاہدہ کرتے اور مذکورہ دلائل پر مطلع تھے، جن کے سبب اُن کا آپ پر ایمان لانا زیادہ آسان تھا ہر اس شخص کی نسبت جو آپ کے حالات سے بے خبر ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے ساتھ اُن پر خاص احسان فرمایا ہے کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ - اس میں احسان کا یہ پہلو بھی تو موجود ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عربی ہونا اہل عرب کے لیے انتہائی شرف اور سرمایہ افتخار ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے:

وَإِنَّكَ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ - اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور

تمہاری قوم کے لیے۔

اس فخر کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فخر کرنا یہود، نصاریٰ اور اہل عرب میں مشترک تھا، لیکن یہود و نصاریٰ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور توریت و انجیل کے باعث بھی فخر کرتے تھے اور اہل عرب کو ایسا کوئی شرف حاصل نہیں تھا جس سے یہود و نصاریٰ محروم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن مجید نازل کیا تو اہل عرب کو وہ کرامت اور بزرگی میسر آگئی جیسی اہم سابقہ میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مِنْ أَنْفُسِهِمْ فرمایا ہے۔

اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ قُلْ هُم مِثْلُ الْبَشَرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - اِیْتَانِہٖ ذُرِّیَّتَہُمۡ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ تَوَّاس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ انسان کا کمال دو باتوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اعمالِ صالحہ کو جاننے میں تاکہ اُن کے مطابق عمل کر سکے۔ بالفاظِ دیگر نفسِ انسانی کے لیے نظریاتی اور عملی دو طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ

قرآن کریم کو اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ مخلوق کی ان دونوں قوتوں کی اصلاح و تکمیل ہو جائے چنانچہ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ میں اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق خدا تک وحی الہی کو پہنچاتے ہیں وَیُزَکِّیْہِمْ میں معارف الہیہ کی طرف اشارہ ہے جس سے نظریاتی قوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تعلیم کتاب سے تاویل معرفت کی جانب اشارہ ہے یا بالفاظِ دیگر کتاب سے شریعت کے ظاہری احکام اور حکمت سے اُس کے محاسن و اسرار اور اسباب و منافع مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس چیز کا ذکر فرمایا جس سے یہ نعمت کامل ہوتی ہے اور وہ اس بات کا اظہار ہے کہ پہلے یہی لوگ گمراہی میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ جب مشقت اٹھا اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد کسی نعمت یا راحت کا حصول ہوتا ہے تو اُس کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ چونکہ اس نعمت کا تعلق علم و اعلام سے ہے جو جہالت اور بے دینی کے بعد حاصل ہوئی تو اس طرح اس کی عظمت اور قدر و منزلت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نظیر یہ ارشادِ ربانی ہے: وَدَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدٰی۔

فرت کے بعد سید المرسلین کی آمد

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ کی آیت

رَاْ اٰہْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاؤْکُمْ	اے کتاب والو! بیشک تمہارے پاس ہمارے
رَسُوْلُنَا یُبَیِّنْ لَکُمْ عَلٰی قَدَرٍ	یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام
مِّنَ الرَّسُوْلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاؤَنَا	ظاہر فرماتے ہیں بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا
مِّنْ نَّبِیْرٍ وَّلَا مَذِیْرٍ فَقَدْ جَاؤْکُمْ	موتوں بند رہا تھا کہ کبھی کہہ کہ ہمارے پاس کوئی
بَشِیْرٌ وَّلَا نَذِیْرٌ وَّاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ	خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا تو یہ خوشی اور ڈر سنانے
شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ ۱۹	والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں اور
	اللہ کو سب قدرت ہے۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے: یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ایام فترت کے بارے میں ہے یعنی رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افزائے دہر ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خضر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو برس یا اس سے کچھ کم و بیش کا طویل وقفہ ہے۔ علامہ کلبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان ستر سو سالہ مدت ہے اور اس عرصے میں ایک ہزار انبیائے کرام خلق خدا کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان وقفہ میں صرف چار نبی تشریف فرما ہوئے، جن میں سے تین بنی اسرائیل میں اور ایک اہل عرب سے، جن کا اسم گرامی خالد بن سنان علبسی علیہ السلام ہے۔

رسولوں کی آمد کا سلسلہ اتنے دنوں بند رہنے کے بعد خضر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے میں یہی مصلحت تھی کہ شرائع سابقہ میں اس طرح تخریب و تبدیل کرنے والے اپنے پورے جوہر دکھالیں اور اتنے عرصے میں حق و باطل اور سچ جھوٹ میں اس درجہ اختلاط ہو جاتے کہ تمیز کرنا ممکن نہ رہے اور لوگوں کے لیے عبادات ترک کرنے کا واضح عذر ہو جاتے اور وہ کہہ سکیں کہ اسے پروردگار ایہ تو ہم جانتے ہیں کہ تیری عبادت کرنی چاہیے کیونکہ بندوں کے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں لیکن ہم عبادت کرنے کے طریقوں سے نا آشنا ہیں۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ جل شانہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اُن لوگوں کا یہ عذر ختم ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: اَنْ تَقُولُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ۔ (یعنی یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کون سا کوئی نبی آیا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں خضر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ کہا جاسکے کہ اب تو تمہارے پاس نبی آگیا۔ آپ کی بعثت سبب علت زائل ہو گئی اور اُن کا یہ عذر ختم ہو گیا۔

لہٰذا عبادات حاضریہ قدس سرہ فرماتے ہیں:

کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے
قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی نہ ہی
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی

النبي الامي صلى الله تعالى عليه وسلم

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ اعراف کی آیت کریمہ:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي يَخْلُقُ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَثَبًا
عِنْدَهُمْ فِي الثَّوَابِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغَبَائِثَ
يَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ
هُمْ الْمُقْلِحُونَ ۝ ١٥

وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پٹھے، غیب
کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے
اپنے پاس توریت اور انجیل ہیں۔ وہ انھیں
بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا
اور مستحصری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا
اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر
سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے، جو ان پر
تھے، اتارے گا، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں
اور اس کی تعظیم کریں اور اس سے مدد دیں اور
اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اُترا،
وہی بامراد ہوئے۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے: یہ جاننا ضروری ہے کہ رحمت خداوندی ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی
جو تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوں، زکوٰۃ ادا کریں اور آیات الہیہ پر ایمان لائیں۔ اس آیت کے
ذریعے یہ بات بھی ساتھ ملا دی گئی کہ اس اُمّی نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے
جس کا تذکرہ وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ جس حیثیت سے انھوں نے توریت میں آپ کا وصف
پایا، اُسی طرح وہ آپ کی نبوت پر ایمان لا کر پیروی کریں، کیونکہ آپ کے مبعوث ہونے سے
پہلے کسی شریعت کی پیروی کرنا اب جائز نہیں ہے۔

دوسرا قول وَإِلَّا نُنْجِيَنَّكَ کے بارے میں یہ ہے کہ انجیل میں یہ کچھ لکھا ہوا پائیں گے کیونکہ انجیل کے نزول سے پہلے اُس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کا پایا جانا محال ہے۔

تفسیر اقول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن سے فرمایا کہ اگر وہ اس اُمّی نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی پیروی کریں تو دنیا اور آخرت کے اندر رحمت بے پایاں سے نوازے جائیں گے۔ یہی قول زیادہ درست ہے کیونکہ بعثت سے پہلے تو آپ کی پیروی ممکن ہی نہ تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا وہی فرد اس رحمت سے حصّہ حاصل کر سکا، جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرا، زکوٰۃ ادا کی اور عہد موسوی کے دلائل پر ایمان لایا اور زمانہ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں اس رحمت سے وہی فیضیاب ہوگا جس میں مذکورہ صفات کے ساتھ یہ صفت بھی پائی جاتے کہ وہ شریعتِ محمدیہ کا پیروکار ہو۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ میں سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نو اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔

وصفِ اول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ رسول ہیں۔ عرف عام کے لحاظ سے اس لفظ کے ساتھ وہی مخصوص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجے۔

وصف دوم بتایا کہ آپ نبی بھی ہیں۔ یہ لفظ بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ جلّ شانہ کی بارگاہ میں آپ عظیم المرتبت منصب پر فائز ہیں۔

وصف سوم آپ کو اُمّی بتایا ہے۔ زجاج علیہ الرحمہ نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ جو شخص اہل عرب کی صفت پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اُن پڑھوں کی جماعت میں مبعوث فرمایا گیا ہوں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ چونکہ اکثر اہل عرب پڑھنے لکھنے سے نا آشنا تھے لہذا فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی حال پر رہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اُمّی ہونے کا لقب دیا ہے۔ محققین فرماتے ہیں

کہ اس تفسیر کے لحاظ سے اُمتی ہونا آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس اعجاز کی مختلف وجوہ ہیں:

پہلی وجہ: فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار قرآنِ کریم پڑھ کر سناتے رہے لیکن کبھی اس کے الفاظ یا کلمات میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوئی، حالانکہ عربی خطیب پہلی دفعہ خطبہ پڑھنے کے بعد جب بھی اُسے دُہراتے تو یقیناً اُس کے الفاظ میں کمی یا بیشی ہو جاتی تھی۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں کہ اُن پڑھ ہونے کے باوجود آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہے اور کسی دفعہ کے پڑھنے میں ذرا سا فرق بھی نہیں آیا۔ آخر اسے معجزے کے سوا اور کیا کہا جاتے؟ اسی لیے تو اللہ جلّ شانہ نے فرمایا ہے:

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ۝ ۱۰ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔

دوسری وجہ: نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر پڑھے لکھے ہوتے تو آپ پر یہ اتہام لگایا جاسکتا تھا کہ کتب سابقہ کے مطالعے سے یہ علوم حاصل کیے ہیں لیکن کسی کے سامنے زانوائے تلمذ نہ کرنے اور مطالعے کے بغیر ہی جب آپ قرآن مجید جیسی کتاب لے کر آئے جو علومِ کثیرہ کی جامع ہے تو اسے منجملہ آپ کے معجزات کے اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ یہی مراد اللہ جلّ شانہ کے اس ارشاد سے ہے:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْبُاطِلُونَ ۝ ۱۱ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔

تیسری وجہ: لکھنا سیکھ لینا آسان ہے کیونکہ بغضِ کم پڑھے ہوئے جو ذکی و فہیم ہوں وہ معمولی سی سرکشش سے لکھنا سیکھ لیتے ہیں۔ لکھنے سے محروم رہنا عقل و فہم میں کوتاہی کا باعث ہو کر رہ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود

انہ تعالیٰ اتاہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

وسلم علوم الاولین و الاخرین
واعطاه من العلوم والحقائق
ما لم یصل الیه احد من
البشر ومع تلك القوة العظيمة
فی العقل والفهم جعله بحيث
لم یتعلم الخط الذی یمس
تعلّمه علی اقل الخلق عقلاً وفهماً
فكان الجمع بین هاتین
الحالتین المتضادتين جازياً
مجبوراً الجمع بین الضدين
وذلك الامور الخارقة للعادة
وجاز مجرى المعجزات۔ (۶۱)

سب اگلے پھلوں کے علوم مرحمت فرما دیے
اور آپ کو اتنے علوم و حقائق عطا فرمائے جن تک
نوع انسانی کے کسی بھی فرد کی رسائی نہیں ہو سکی
اور عقل و فہم کی آپ کو ایسی عظیم الشان قوت
مرحمت فرمانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو
لکھنے سے محروم رکھا حالانکہ لکھنا تو ایک معمولی
فہم و فراست والا انسان بھی سیکھ لیتا ہے۔
پس آپ کے اندر ان دونوں متضاد حالتوں کا جمع
ہو جانا نہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اجتماع فید
کی طرح ہے اور دو متضاد حالتوں کا جمع ہونا عادت
کے خلاف اور معجزے کا قائم مقام ہے۔

وصف چہارم: فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ میں جو نو صفات بیان
فرمائی گئی ہیں ان میں سے چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ: الَّذِي يَجِدُ مَسَدًا
مَكْشُوبًا عِنْدَهُمْ فِي السَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور کون و مکار صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کی نبوت کا سچا ہونا توریت اور انجیل میں بھی لکھا
ہوا ہے۔ (والحمد لله علی ذلک)۔ اگر توریت و انجیل میں ایسا لکھا ہوا نہ ہوتا
تو آپ کا مذکورہ بالا اعلان یہود و نصاریٰ کو آپ سے از حد متنفر کر دیتا اور وہ آپ کی باتوں پر کبھی
کان دھرنے کے لیے تیار نہ ہوتے کیونکہ کذب بیانی اور بہتان تراشی تو نفرت کا زبردست پیش خیمہ
ہیں اور کوئی بھی عقل و فہم سے بہرہ ور شخص ایسے امور کی جسارت نہیں کرتا جو اس کی شہرت کو
داغدار کریں اور لوگوں کو اس سے متنفر کر دیں تاکہ وہ اس کی بات تک مستنا گوارا نہ کریں۔ معلوم
ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محابہ و محاسن توریت و انجیل میں لکھے ہوئے تھے اور یہ نبی خزانہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کے عظیم الشان دلائل سے ہے۔

وصف ہفتم: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ - اس کے بارے میں زجاج علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رسالتِ مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفات توریت و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں ممکن ہے یہ صفت اُن کے علاوہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ معنا ایسا لکھا ہوا ہو کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے کاموں کا حکم دینے والے ہیں۔

وصف ششم: اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے: وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ - اس سے مراد ہے:

اصداد الامور المذکورة اس سے امور مذکورہ کی ضد مراد ہے یعنی ہتوں کی

وہی عبادۃ الاوثان والقول پوجا کرنا، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی صفات میں

فی صفات اللہ تعالیٰ بغیر علم گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انبیائے کرام

والکفر بما انزل اللہ علی النبیین پر نازل کیا اُس کا انکار کرنا، قطع رحمی کرنا

وقطع الرحم وعقوق الوالدین (منہ) اور والدین کی نافرمانی کرنا۔

وصف ہفتم: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ - بعض لوگ کہتے ہیں کہ

طبیات سے مراد وہی چیزیں ہیں جن کی حلت کا باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ اصلی مفہوم سے

بعید ہے بلکہ ضروری ہے کہ طبیات سے مراد وہ پاک اور ستھری چیزیں ہوں جنہیں طبع انسانی

پسند کرتی ہے کیونکہ ستھری چیزوں کا کھانا ہی لذت بخش ہوتا ہے۔ پس نفع بخش ہونے کی

اصل حلال ہونا ہے، ماسوائے اُس کے جس کے خلاف کوئی علیحدہ دلیل ہو۔

وصف ششم: ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ - حضرت عطاء علیہ الرحمہ

نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ خبائث سے مراد مردار

اور خون وغیرہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذِ الْکُفْرِیْنِ تک کیا ہے اور میں کہتا ہوں

کہ خبائث سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کے کھانے سے آدمی نفرت کرتا ہے اور طبع انسانی سے

پسند نہیں کرتی اور اُس کا کھانا تکلیف دہ ہوتا ہے مضر چیزوں کی اصل حرمت ہے، لہذا

اس آیت کا مقتضی یہ ہوا کہ جن چیزوں کا کھانا طبیعت بُرا جانے اُن کی اصل حرمت ہے جبکہ

کسی چیز کی حلت کے بارے میں کوئی علیحدہ دلیل نہ ہو۔

وصف نہم: ارشاد ربّانی: وَيُضَمُّ عَلَيْهِمُ اصْوَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میں اص

سے مراد وہ بھاری بوجھ ہے جو اپنی ثقالت کے باعث حرکت کرنے سے روکے۔ یہ اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی جانب ہے جو بہت سخت تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو اَعْلَال فرمایا ہے اس سے مراد شریعت موسیٰ کے وہ سخت احکام ہیں جو اُن کی شریعت میں شامل تھے جیسے جس جگہ پشیاب لگ جاتے اُسے کاٹ ڈالنا، توبہ کی خاطر اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا، جسم کے جس حصے سے کوئی گناہ سرزد ہوا اُسے کاٹ دینا اور گوشت میں عروق تلاش کرنا وغیرہ۔ ان احکام کو اَعْلَال (طوق) اُن کی سختی کے باعث کہا گیا ہے کیونکہ حرمت فعل سے منع کرتی ہے جیسے طوق انسان کو فعل سے روکتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بالوں سے بٹنے ہوتے موٹے کپڑے پہنتے اور اپنے ہاتھوں کو گردنوں میں باندھ لیتے تھے۔ نماز میں تواضع کے لیے انھیں ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اس تقدیر پر اَعْلَال اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے اور اس میں کوئی استعارہ نہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ضرر رساں چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ مشروع نہیں ہوتیں، کیونکہ مضر چیز اصدر ہوگی یا عِلّ اور اس نص قرآنی کا ظاہر عدم مشروعیت کا مقتضی ہے، جیسا کہ سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام میں کوئی ضرر یا مضرت نہیں ہے اور فرمایا کہ میں سہل اور نرم شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہوں اور یہ شریعت محمدیہ کی اصل کبریٰ ہے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذکورہ توصیف کے ساتھ توصیف فرمائی تو اس کے بعد حکم دیا: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو آپ پر ایمان لاتے۔ عَزَّ وَجَلَّ سے مراد آپ کی تعظیم و توقیر کرنا ہے اور نَصْرُوْهُ سے مراد دشمنانِ دین کے خلاف آپ کی مدد کرنا ہے وَاتَّبَعُوا النَّوْءَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهُ کا اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی کامیاب ہونے والے ایسے ہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں اپنے مطلوب کو پالیں گے۔ مذکورہ بالا آیت کے بعد ارشادِ ربّانی ہوا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

تم فرماؤ! اے لوگو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اُسی کو ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جلائے اور مارے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اُس کے رسول، بے پڑھے، غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَسَاءَ كُتُبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ (یعنی میں اُسے پر ہنگاموں میں لکھ لوں گا) پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمادیا کہ اس رحمت کو وہی متقی حاصل کر سکتے ہیں جو اس اُمّی رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا اتباع کریں گے تو اس آیت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساری مخلوق کی جانب رسول بن کر آنا واضح طور پر بتا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اور اس جملے میں دو مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ مخلوق کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ یہود سے عیسویہ فرقہ کہتا تھا، جو عیسوی اصفہانی کے پیروکاروں پر مشتمل تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن صرف عرب والوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں، آپ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا۔ اُن لوگوں کے رد و ابطال میں یہ آیت ہمارے لیے محکم دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فرمایا ہے، یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس کا واضح مقتضی یہی ہے کہ آپ تمام

انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ نیز دین محمدی میں یہ بطریق تواتر معلوم ہے کہ آپ کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ آپ کو ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ پس آپ کا دعویٰ رسالتِ صداقت پر مبنی ہو گا یا برعکس۔ پس آپ کو حبیبِ ستار رسول مانا جائے گا تو کذبِ آپ پر ممتنع ہو گا اور ہر دعویٰ میں آپ کو سچا ماننا لازم آئے گا۔ جب مذکورہ آیت اور تواتر کے طریق سے یہ ثابت ہو چکا کہ آپ تمام مخلوق کی جانب مبعوث ہوئے اور یہی آپ کا دعویٰ بھی تھا، تو اس دعویٰ میں بھی آپ کو سچا ماننا واجب ہوا اور اس سے عیسویہ کے قول کا بطلان واضح ہو گیا جو کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرف نہیں بلکہ صرف اہل عرب کی جانب مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اگر وہ لوگ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستار رسول نہیں مانتے، تو اس صورت میں آپ عرب یا غیر عرب کسی کے رسول نہ ہوئے (حالانکہ وہ اہل عرب کا رسول آپ کو مانتے تھے)۔ پس ثابت ہوا کہ ان لوگوں کا آپ کو بعض مخلوق کے لیے رسول ماننا اور دوسروں کے لیے نہ ماننا باطل اور ان کا کلام متناقض ہے۔

یہ آیت کبرہ اس بات پر تو دلالت کرتی ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کی جانب مبعوث فرمائے گئے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی نبی بھی ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا تھا یا نہیں، واجب ہوا کہ یہ معلوم کرنے کی خاطر دلائل کی طرف رجوع کیا جائے اور تمام دلائل کو دیکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا دوسرا کوئی نبی ساری مخلوق کی جانب مبعوث نہیں ہوا اور انھوں نے اِزِردے دلائل اس بات کو ردِ رُشون کی طرح واضح کر دکھایا ہے، جیسا کہ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

میں پانچ چیزیں ایسا عطا فرمایا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئیں: (۱) بس سارے انسانوں (دہر گورے اور کالے) کا نبی ہوں۔ (۲) تمام زمین میرے لیے پاؤں اور مسجد بنا دی گئی۔ (۳) میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی گئی ہے یہاں تک کہ میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پر مجھ سے دور رہتا ہوا بھی لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ (۴) ہم غنیمت کا مال کھا سکتے ہیں جبکہ ہم سے پہلے کسی امت کے لیے غنیمت کا مال کھانا جائز نہیں تھا۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے مجھ سے

وعدہ فرمایا کہ کوئی چیز مجھ سے مانگ لو، وہ رحمت فرمائی جائے گی۔ میں نے یہ حق اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔

اگر قائل یہ کہے کہ یہ حدیث آپ کے مدعا پر صریح دلالت نہیں کرتی کیونکہ یہ بعید نہیں ہے کہ مذکورہ پانچوں امور کا مجموعہ فخرِ درِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو اور یہ پانچوں کسی دوسرے کو حاصل نہ ہوں لیکن آپ کی خصوصیت کے اس مجموعے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور اس لحاظ سے وہ بھی سارے انسانوں کے نبی ہوئے۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو وہ اُن لوگوں کے نبی تھے جو اُس وقت اُن کے ساتھ تھے اور اُس وقت تمام انسانوں کا اطلاق صرف اُن چند نفوس ہی پر منحصر تھا۔

اس کے بعد فخر الملت والدین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بیان فرمایا کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی بعثت ایک جائزہ اور ممکن چیز ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق رسول ہیں، کیونکہ جو مطلوب کو ثابت کرنے کا قصد کرے اُس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اُس کا جواز ثابت کرے، اس کے بعد حصول، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قَامُوا بِاللّٰهِ سے حکم کی ابتداء فرمائی کیونکہ ذاتِ باری تعالیٰ پر ایمان لانا اصل ہے اور نبوت و رسالت پر ایمان لانا اُس کی فرع ہے اور اصل کا اپنی فرع سے مقدم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قَامُوا بِاللّٰهِ سے کلام کی ابتداء فرمائی، اس کے بعد رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاٰخِرِ الَّذِيْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ کَلِمَاتِهِ سے اشارہ آپ کے معجزات کی جانب ہے کیونکہ یہ نبوت کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی تقریر یوں ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دو قسم کے ہیں:

پہلی قسم: وہ معجزات جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ میں ظاہر ہوئے اُن میں سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ پڑھ لکھ نہ تھے یعنی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ

نہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ علماء کی مجلس میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا کیونکہ
مکہ مکرمہ میں کوئی عالم تھا ہی نہیں اور نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے اتنی مدت
غیر حاضر رہے جس میں علوم کثیرہ کی تحصیل ممکن ہو، اس کے باوجود آپ نے علم و تحقیق کے دریا
بہاتے اور وہ دروازے بھی کھول دیے جو آج تک مقفل ہی چلے آتے تھے، ساتھ ہی آپ پر
قرآن کریم کو ظاہر فرمایا جو انگوٹوں اور پچھلوں کے سارے علوم کا جامع ہے۔ اُمّی ہونے کے باوجود
آپ نے ایسے علوم کثیرہ عظیمہ کا ظہور ہونا، جبکہ نہ کسی استاد سے ملے، نہ کسی کتاب کا مطالعہ
کیا، ایسے حالات میں یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اَللّٰہِیُّ الْاُتَمِّیُّ کہہ کر
آپ کی جانب ہی اشارہ فرمایا ہے۔

دوسری قسم: وہ معجزات جو سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ سے
ظاہر ہوتے، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، ایسے
معجزات کو کلمات اللہ کہا جاتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب و غریب طریقے
سے ہوئی جو خلافِ عادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اُنھیں کَلِمَۃُ اللّٰہِ کہا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات جبکہ عجیب و غریب بھی ہیں اور عادت کے خلاف بھی، تو اُنھیں
کَلِمَۃُ اللّٰہِ کیوں نہ کہا جائے گا؟ پس اس لحاظ سے یُوْمَیْنٌ بِاللّٰہِ وَ کَلِمَاتِہِ کا مطلب یہی ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اُن معجزات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو فخرِ دُعا لَمْ
سرورِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ سے ظاہر ہوتے۔ اس طرح نبی آخر الزماں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہونے پر اتمامِ محبت ہو جاتی ہے۔
جاننا چاہیے کہ جب مضبوط دلائل کے ساتھ، جن کا ہم ذکر کر چکے، نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے تو ضروری ہوا کہ اب اس امر کا تذکرہ کیا جائے جس کے
ذریعے تفصیل شریعتِ مطہرہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس کا معلوم کرنا آپ کے اقوال و
افعال سے واقفیت ہونے کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ اسی کی جانب اللہ جلّ شانہ نے اس
آیت میں لَفْظٌ وَ اَتَّبِعُوْا کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ پیروی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ کے ہر قول و فعل کو

معلوم کیا جاتے۔ قول میں آپ کی پیروی اس طرح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ امر و نہی اور ترغیب و ترہیب کے طور پر فرمایا ہے اُسے بے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے اور فعل میں آپ کی پیروی اس طرح کی جائے گی کہ جو کام آپ نے جس طرح کیا ہم بھی اسی طرح کریں اور جس کام سے آپ نے اجتناب فرمایا ہو ہم بھی اُس سے دُور رہیں۔ معلوم ہوا کہ وَ اتَّبِعُوا اَکْثَرَ مَا نَزَّلَ الْوَحْيُ کا حکم ان دونوں قسموں کو شامل ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ امر و وجوب کو چاہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا وَ اتَّبِعُوا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر امر و نہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر واجب ہے اور ہر فعل میں آپ کی اقتداء ضروری ہے ماسوائے اُن افعال کے جن کے بارے میں دلیل سے یہ معلوم ہے کہ وہ آپ کی خصوصیات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُن کے ساتھ خاص ہونا تفصیلی دلائل سے ثابت ہے۔

اسلام کا تمام ادیان پر غلبہ

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دَلُورًا لِّلْمُشْرِكِينَ
وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ پڑے بُرا مانیں مشرک۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے: جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعدائے دین کا یہ حال بیان فرمایا کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو باطل ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میں اس بطلان کا انکار کرتا ہوں اور یہ برحق دین میٹ نہیں سکتا بلکہ عروج کمال تک پہنچے گا اور اس کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس آخری نبی کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے۔ جاننا چاہیے کہ انبیائے کرام کے کمالات کو اُس وقت تک سمجھا نہیں جاسکتا جب تک مندرجہ ذیل امور کو نہ سمجھ لیا جائے۔

اول: ہدایت کے ساتھ بھیجنے کا مفہوم کثرتِ دلائل اور معجزاتِ کثیرہ کے ساتھ بھیجنا ہے۔
 دوم: محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین مختلف قسم کے امور پر مشتمل ہے، جن میں ہر ایک کے اندر بہتری، اصلاح و درستی، حکمت سے مطابقت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔
 اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس برحق دین کو دینِ الحق فرمایا ہے۔
 سوم: فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو دیگر تمام ادیان پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہے، اسی لیے یہ منکرینِ اسلام کے ہر گروہ پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سے یہی مراد ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز کا دوسری پر غلبہ کبھی دلائل کے لحاظ سے، کبھی بسبب کثرت اور غلو و برتری کے باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر قسم کے غلبہ کی بشارت دی ہے اور خوشخبری اُس چیز کی دی جاتی ہے جو مستقبل میں حاصل ہونے والی ہو۔ اس دینِ متین کا دلائل و براہین کے ساتھ غلبہ تو ایک مسلم امر ہے، پس واجب ہے کہ غلبہ کو اسی مفہوم پر محمول کیا جائے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سے لازم آتا ہے کہ اسلام باقی تمام ادیان پر غالب ہو لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان (بھارت)، چین، روم (اطلی) اور کفار کے دیگر ممالک میں اسلام باقی دینوں پر غالب نہیں ہے۔ (یہاں سائل نے اسلام کے غلبہ سے مدعیانِ اسلام کا غلبہ مراد لیا ہے، اس کے مختلف جواب ہیں: پہلا جواب: اسلام کے خلاف کوئی دین ایسا نہیں جس پر مسلمان غالب نہ آئے ہوں اور بعض ممالک پر مستطو و قابض بھی رہے ہیں، اگرچہ تمام ممالک پر قابض نہیں ہوئے۔ چنانچہ یہودیوں پر غالب آئے اور انھیں جزیرہ عرب سے باہر مار بھگایا تھا۔ ملکِ شام میں نصاریٰ پر غالب آئے اور اُس کے گرد روم اور دیگر مغربی ممالک پر قابض ہوئے۔ مجوسیوں کے ملک پر قبضہ کیا اور بت پرستوں کے بیشتر علاقوں پر غالب آئے۔ اسی طرح ترکی اور بھارت میں بھی مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ اس طرح بھی باقی ادیان پر اسلام کے غلبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں خبر دی تھی وہ واقع ہو گئی۔ چونکہ یہ غیب کی خبر ہے لہذا یہ آپ کا معجزہ ہوا۔

دوسرا جواب : ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو باقی ادیان پر غالب رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس وعدے کی تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ہر شخص دائرۃ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے وہ مسلمانوں کے باج گزار ہوں گے۔

تیسرا جواب : ہو سکتا ہے اس غلبہ سے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ مراد ہو۔ اگر مراد یہی ہو تو ایسا ہو چکا ہے کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ عرب میں کوئی کافر نہیں رہا تھا۔
چوتھا جواب : ہو سکتا ہے کہ دین سے مراد سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہو یعنی اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کے جملہ احکام پر مطلع کر دے گا اور کوئی چیز آپ پر مخفی نہ رہے گی تاکہ یہ دین بالکل مکمل ہو جائے۔ اس تقدیر پر لیٹھیرہ کی ضمیر کا مرجع فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے نہ کہ دین۔

پانچواں جواب : اس آیت سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ دلیل اور بیان سے آپ کے دین کو غلبہ دیا جائے گا، اگرچہ یہ وجہ کمزور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مستقبل کے بارے میں فرمایا ہے اور دلائل و براہین کی قوت اور غلبہ تو اسلام کو شروع ہی سے حاصل ہے۔ ہاں اس کی صورت ممکن ہے کہ شروع میں مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت کے باعث بہت سے شبہات وارد کیے جا رہے تھے اور کفار نے تمام لوگوں کو مسلمانوں کے دلائل میں غور و خوض کرنے سے منع کر رکھا تھا لیکن جب اسلام کو قوت اور شوکت حاصل ہو گئی تو کفار عاجز ہو گئے اور ان کے شکوک و شبہات بھی نڈھال ہو کر رہ گئے۔ اس طرح اسلام کے دلائل کو منظر عام پر آنے کے باعث تقویت پہنچی اور غلبہ حاصل ہو گیا۔

ہمارا غمخوار آقا

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ التوبہ کی آیت کریمہ :
 فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ بَيْنِكُمْ تَمَّارٌ بِأَسْتَشْرِفُ لَأَتَمِّمَ مِنْ

اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
 وَدُفَّ نَرَجِيمٌ ۝ ۱۷
 وہ رسول، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں
 ہے۔ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔
 مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کئی مسائل ہیں:

پہلا مسئلہ: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سورت کی تبلیغ کا حکم دیا تو آپ نے مخلوق خدا تک اسے پہنچانے کی خاطر تکالیف شدیدہ برداشت کیں، جنہیں صرف وہی ہستی برداشت کر سکتی ہے جسے توفیق و کرامت کی خلعت سے نوازا گیا ہو۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محبت آمیز لفظوں میں ختم کیا جو فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تکالیف کی شدت میں تسکین و راحت کا سامان بنے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے فرمایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے ہیں۔ پس انھیں دنیا میں جو عزت و شرافت حاصل ہے وہ تمہارے لیے بھی سرمایہ افتخار ہے۔ علاوہ بریں وہ تمہارے انتہائی خیر خواہ ہیں کہ تم محنت و مشقت میں پڑ جاؤ تو یہ صورت حال ان پر گراں گزرتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت کی ہر ایک بھلائی کو تم لوگوں تک پہنچانے میں بڑے ہی کوشاں رہتے ہیں۔ گویا وہ تمہارے حق میں ایک مہربان طبیب اور مشفق باپ کی طرح ہیں۔ مہربان طبیب کو کبھی اس طرح بھی علاج کرنا پڑ جاتا ہے جس کا برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے اور ایک مشفق باپ کو کبھی سختی کے ساتھ بھی ادب سکھانا پڑ جاتا ہے لیکن مستفید ہونے والا اگر اس حقیقت سے باخبر ہو کہ طبیب مہربان اور والد محترم شفیق ہے تو سخت علاج اور سخت آداب کو آسانی سے برداشت کرتا اور ان کی شدت کو لطف و کرم گردانتا ہے۔ پس جب تم نے جان لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ان کی وجہ سے تمہیں جن تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان کا برضا و رغبت استقبال کر دینا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے

آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ اگر یہ لوگ ان تکالیف کو قبول کرنے سے پس و پیش کریں تو ان سے منہ پھیر لو، ان کی جانب ذرا بھی توجہ نہ فرماؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے تمام امور کو اُسی کے حوالے کر دو اور یہ اعلان فرما دو:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط مجھے اللہ کافی ہے۔ اُس کے سوا کسی کی
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط بندگی نہیں۔ میں نے اُسی پر بھروسہ کیا اور
وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

یہ اس سورت کے آخری الفاظ ہیں۔ یہ اختتام معنوی لحاظ سے بڑا حسین و جمیل ہے کہ اُس کمال منصب کی نشان دہی کرتا ہے جو بارگاہِ الہی میں اُس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

دوسرا مسئلہ: جانتا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پانچ قسم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

پہلا وصف: اللہ تعالیٰ نے مِنْ أَنْفُسِكُمْ فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی گئی ہے:

۱۔ یعنی دیکھنے میں وہ بھی تمہاری طرح کے انسان معلوم ہوتے ہیں یا تمہاری طرح کے بشری تقاضے اُن کے ساتھ بھی ہیں، جیسا کہ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے:

أَكَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ط کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا ہوا کہ ہم نے اُن میں سے
ایک مرد کو وحی بھیجی۔

یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ط ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔

اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اگر فخرِ دوزخ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنسِ ملائکہ سے ہوتے تو انسانوں

کے لیے اُن کی پیروی کر کے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔

۲۔ مِنْ اَنْفُسِكُمْ میں خطاب اہل عرب سے ہے یعنی وہ تم سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس سے وادیوں کے سبب آپ کا سلسلہ پیدائش نہ ملتا ہو۔ وہ مضر، ربیعہ اور یمانی ہیں۔ چنانچہ مضر اور ربیعہ عدنانی ہیں اور یمانی قحطانی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: — لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ۔ اس میں مِنْ اَنْفُسِهِمْ قرآن کریم میں ترغیب دینا مقصود ہے کہ اہل عرب اُن کی نصرت و اعانت پر کمر بستہ ہو جائیں گے اور گویا اُن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دنیاوی حکومت اور رفعت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تمہارے لیے بھی تو باعث عزت اور سرمایہ افتخار ہے کیونکہ وہ تم میں سے ہیں اور نسب کے لحاظ سے وہ تم سے علیحدہ تو نہیں ہیں۔

۳۔ مِنْ اَنْفُسِكُمْ میں خطاب اہل حرم سے ہے کیونکہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اہل حرم کو اللہ والے کہا کرتے تھے، انھیں خاص سمجھتے اور ان کی خدمت بجالاتے تھے۔ اہل حرم بھی مشکل معاملات میں اُن کی دستگیری کیا کرتے تھے یہاں گویا اہل عرب سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے ان کے اسلاف کی تعظیم و توقیر اور خدمت گزاری میں پیش پیش رہتے تھے تو ان کی خدمت گزاری سے کیوں پہلو ہٹا کر تے ہو حالانکہ بزرگی اور شرافت میں وہ اسلاف تو ان کے پاس گ بھی نہیں تھے۔

۴۔ اس وصف کے تذکرے سے آپ کی پاکدامنی اور طہارت سے لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے قبیلے سے ہیں۔ تم ان کے صدق و امانت اور عفت و صیانت سے اچھی طرح باخبر ہو۔ علاوہ بریں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ تم سے مصائب و آفات کو دفع کرنے اور ہر بھلائی سے تمہیں ہمکنار کرنے میں ہمہ وقت کوشاں رہے ہیں۔ جس کی یہ حالت اور ایسے اوصاف ہوں، اُس کا تم میں سے ہونا، اللہ تعالیٰ کا تم پر کتنا بڑا انعام ہے؟

اس کی ایک قرأت میں مِنْ اَنْفُسِكُمْ یعنی فاسے مفتوح کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا

مطلب یہ ہوا کہ وہ تم میں سب سے بزرگ اور افضل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرأت ہے۔

دوسرا وصف : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ جانا چاہیے عَزِيزٌ سے سخت غالب مراد ہے اور عزت سے زیادہ سخت غلبہ اور کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ غنت مصائب میں اس طرح گھرے ہوئے انسان کو کہتے ہیں جو بے بس ہو چکا ہو۔ امام فراء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مَا عَنِتُّمْ میں لفظ مَا یہاں رفع کی جگہ ہے لہذا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا مشکلات میں گرفتار رہنا ان پر گراں گزرتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچانے والے امور سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور وہ انہیں دور کرنے کی پوری کوشش فرماتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف وہ چیز اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور وہ اسی سے بچانے کی خاطر بھیجے گئے ہیں۔

تیسرا وصف : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ حرص کا ذاتیات سے متعلق ہونا ممنوع ہے لیکن یہاں حرص سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں بھلائیوں سے ہکناز کرنے کے بڑے خواہشمند ہیں۔

چوتھا اور پانچواں وصف : ارشاد ربانی ہے : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَتَىٰ نَجِيذُكُمْ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے اسماء حسنیٰ سے یہ دو نام فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے ہیں یعنی رُؤف اور رحیم۔ (جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔

حیاتِ مصطفیٰ کی قسم

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الحجرات کی آیت کریمہ :
لَعَنَّاكَ اِنَّهُمْ كَفُوْا سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۝ ۱۷
اے محبوب! تمہاری جان کی قسم، بیشک وہ اپنے
نشتہ میں بھٹک رہے ہیں۔

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے درجہ امامت کے مطابق یوں جواہر ریزی فرمائی ہے:

ان الخطاب لرسول الله صلى
الله عليه وسلم وانه تعالى
اقسم بحياته وما اقسم بحياة
احد و ذلك يدل على انه
صلى الله عليه وسلم اكوم
الخلق على الله تعالى۔ (ص ۱۶۶)

یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کی
حیات مقدسہ کی قسم کھائی ہے حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے کی حیات کی
قسم نہیں کھائی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ساری مخلوق سے
بزرگ ترین ہیں۔

رحمتِ دو عالم

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الانبیاء کی آیت کریمہ:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ ۝ ۲۱

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے
جہان کے لیے۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اور دنیا میں رحمت ہیں۔ دین میں
رحمت اس لحاظ سے ہیں کہ جب آپ کی جلوہ گری ہوئی اُس وقت لوگ جاہلیت اور گمراہی میں
بھٹکتے پھر رہے تھے اور اہل کتاب بھی دین کے معاملے میں حیران اور سرگرداں تھے کیونکہ انبیائے کرام
کے دور کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، اُن کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور اُن کی کتابوں میں تحریف کے
باعث بہت زیادہ اختلاف واقع ہو گیا تھا۔ ایسے ناگفتہ بہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سرورِ کونِ مکان
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جبکہ ایک حق کے متلاشی کو سعی بسیار کے باوجود بھی راہِ ہدایت
نہ ملتی تھی۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو راہِ ہدایت کی طرف بلایا، کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح کا راستہ

۱۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا (حدائقِ بخشش)

۲۔ کلامِ مجید نے کھاٹی شہسارے شہر و کلامِ وبقا کی قسم

۳۔ پ، ا، سورہ الانبیاء، آیت ۱۰۷

دکھایا، احکام مشروع فرماتے اور حلال و حرام کی تمیز سکھائی، لیکن اسی رحمت سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جو حق کا منشا اور طلبگار ہو اور زمانہ مجاہدیت والوں کی تقلید سے کنارہ کش ہو جائے، بغض و عناد اور تکبر کو نزدیک نہ پھٹکنے دے، ایسے حالات میں توفیق اُس کا ساتھ دیتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لِّلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شَفَاعَةٌ ۖ اٰیْمَانُ وَالْوَلَوْنَ كَیْلَ هِدَايَتٍ اَوْ شَفَاعَةٍ هَیْـۤهٗـۤنَ۔

سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رحمت اس طرح ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ انتہائی ذلت اور قتل و غارت گری سے نجات پا گئے اور آپ کے دین کی برکات سے انہوں نے مدد حاصل کی۔ اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت کس طرح ہیں جبکہ آپ نے تلوار کے ذریعے دوسری قوموں کو ہلاک کیا اور ان کے اموال کو غنیمت قرار دے کر اُس کا استعمال میں لانا مباح ٹھہرایا اس کے مختلف جواب ہیں:

وجہ اول: آپ نے تلوار صرف اُس شخص کے خلاف اٹھائی جس نے تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کیا یا حق کے ساتھ بغض و عناد رکھنے کا راستہ اختیار کیا، عاقبت کو نظر انداز کر دیا اور حق و باطل میں تمیز نہ کی۔ علاوہ بریں اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم ہے لیکن نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ نیز اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ۚ وَاٰیْمَانُ وَالْوَلَوْنَ كَیْلَ هِدَايَتٍ اَوْ شَفَاعَةٍ هَیْـۤهٗـۤنَ۔

حالانکہ یہی پانی جس کے لیے مبرا سراگ فرمایا ہے بعض اوقات تباہی و بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ وجہ دوم: ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے جس نبی کو جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو زمین میں دھنسا دیا، یا ان کی صورتیں مسخ کر دیں (بدل دیں)، یا انہیں غرق کر دیا لیکن:

وانہ تعالیٰ اخر عذاب من کذب برسولنا الی الموت و الی یاقینا مت تک عذاب کو مؤخر فرما دیا ہے جس نے

القیامۃ وقال تعالیٰ وَمَا كَانَ
اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ قِيَمٌ -
ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو
(صلۃ) اُس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک

محبوب اتم ان میں جلوہ افروز ہو۔

وجہ سوم: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنِ اخلاق کے پکیر تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۖ اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فخرِ دو عالم سے مشرکین کی ہلاکت کے لیے دعا فرمانے
کی درخواست کی گئی تو آپ نے فرمایا: مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے میں عذاب لانے کے لیے
مبعوث نہیں فرمایا گیا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی آخر ایک بشر ہوں۔ میں بھی دوسرے انسانوں کی
طرح غصے میں آجاتا ہوں، پس میں کسی کے لیے نامناسب الفاظ ادا کر بیٹھوں یا کسی پر لعنت کروں
تو اسے اللہ اقیامت کے دن اُن لفظوں کو اس کے لیے رحمت بنا دینا۔

وجہ چہارم: حضرت عبدالرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے خاص طور پر رحمت ہیں۔ حضرت امام ابو القاسم انصاری رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ دونوں اقوال ایک ہی مفہوم کی جانب راجع ہیں کیونکہ ہم نے واضح کر دیا ہے
کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے ہی رحمت ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے
رسول کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، لیکن جو اعراض کریں یا تکبر کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو
اپنے افعال کے باعث انہیں مبتلائے مشقت ہونا پڑے گا جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًی ۖ اور اُن پر اندھا پن ہے۔

مدارج تبلیغ

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ صٰحٰہ کی آیت کریمہ:

لے پ ۲۹، سورۃ القلم، آیت ۴

لے پ ۲۴، سورۃ حم سجده، آیت ۲۴

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ تَمِ فَرَاؤُا، میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ إِنَّ مَا لَنَا أَوْرِیٰں بناوٹ والوں میں نہیں
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَ وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے
لَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝ اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے

کی تفسیر میں فرمایا ہے، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو مذکورہ مبارک بیان سے
پورا فرمایا ہے کیونکہ باری تعالیٰ نے کتنے ہی ایسے طریقے بتائے ہیں جن کا طلبِ دین کے راستے
میں احتیاط کے طور پر تدبیر نظر رکھنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں اس سورت کے اختتام پر فرمایا ہے کہ
اے محبوب! انھیں دعوتِ غور و فکر بھی دو کہ جس ذات کی طرف میں بلاتا ہوں اُس کے ساتھ ہی تم
داعی اور دعوت کے حال پر بھی نظر ڈال لو تاکہ حق و باطل میں تمیز کر سکو۔ داعی تمہارے سامنے
موجود ہے اور میں اس دعوت کا تم سے کوئی معاوضہ یا مال طلب نہیں کرتا اور یہ ظاہرات ہے کہ
جھوٹا آدمی کبھی مال کی حرص و طلب سے دست بردار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے ہمیشہ دُور رہے اور کبھی آپ دنیا کی جانب راغب نہیں
ہوئے (جیسا کہ تاریخ و سیر کی کتابوں میں مرقوم ہے) جہاں تک دعوت کی کیفیت کا تعلق ہے
تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مفسرینِ کرام نے لفظ مُتَكَلِّف
کے مختلف معانی بیان فرمائے ہیں:

۱۔ ظن غالب اسی مفہوم کی طرف ہے کہ میں تمہیں ایسے دین کی طرف بلاتا ہوں جو اپنے
واضح دلائل کے باعث محتاجِ تعارف نہیں ہے، لہذا اس کی صحت ثابت کرنے کی خاطر مجھے
تکلفات میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ دین تو ایسا دین ہے جس کی صحت پر عقل بھی دلالت
کرتی ہے۔ اسی لیے میں سب سے پہلے تمہیں وجودِ باری کا اقرار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔

۲۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر
عیب اور نقصان سے پاک و صاف ہے اور مجملہ ایسے امور سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں۔

اس مفہوم کی تائید قرآن کریم یوں کرتا ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ اَسْ جِيسَا كُوْنِيْ نِهِيْنَ۔

اور بھی کتنی ہی آیات اس مفہوم پر صریح دلالت کرتی ہیں۔

۳۔ اس کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم و قدرت اور حکمت و رحمت کی صفات سے بالذات مُتَّصِف ہے۔

۴۔ چوتھے مرحلے میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اُس کا کوئی شریک ہو یا اُس کی ضد پائی جائے۔

۵۔ پانچویں مرحلے میں تمہیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ عبادت کے لائق نہیں بلکہ حقیر جمادات ہیں، جن کی عبادت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اور نہ ان سے اعراض کرنے میں کسی قسم کا نقصان ہے۔

۶۔ اس کے بعد تمہیں انبیائے کرام و ملائکہ عظام کی ارواحِ طاہرہ و مقدسہ کی تعظیم و توقیر کی دعوت دیتا ہوں۔

۷۔ ازاں بعد تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت یقینی ہے تاکہ:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اَسَاءُوا وَاِيسَا تَاكِرْ بَرَاۤى كِرْنِے دَاوْلُو كُوْ اُنْ كَسْ كِيَكْے كَا بَدَلْہ دے

عَمِلُوْا وَاِيَجْزِيَ الَّذِينَ اَحْسَنُوْا اُوْرِيَكِي كِرْنِے دَاوْلُو كُو نِهَايْت اچھا حِدْ عطا

بِالْحُسْنٰى۔ ۱۰ فرمائے۔

۸۔ بعد ازیں دنیا سے مُنہ پھیرنے اور آخرت کو سوار نے میں کو نشان رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔

یہ آٹھوں اصول ایسے ہیں جو اللہ و رسول درجہ جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں مستحکم اور معتبر ہیں نیز عقلِ بدیہی اور اولین قوتِ فکر یہ ان آٹھوں اصولوں کی

صحت پر شاہد ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ جس شریعت کی طرف میں مخلوق خدا کو بلاتا ہوں اُس کے بار میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا جا رہا بلکہ طبعِ مستقیم اور عقلِ سلیم بھی اس کی صحت و جلالت پر گواہ ہیں اور اُن پر واضح ہے کہ باطل اور فساد سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں، اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

إِنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرُوا لِلْعَالَمِينَ ۝۱۰ یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت۔

ان مقدمات کی وضاحت کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے و لتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حَيِّئٍ فرمایا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ اگر تم نے جاہلیت پر اصرار کیا اور اپنے جاہل اسلاف کی تقلید کی اور حق کی دعوت کا انکار کیا تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دعوت سے اعراض کرنے میں تم حق بجانب تھے یا خطا کار۔ اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف دلانے اور ڈرانے کے بارے میں مذکورہ بالا بیانات کے مطابق اور بہت کچھ لکھا ہے۔

حضور کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے

امام فخر الدین الملت رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ والضحیٰ کی مندرجہ ذیل آیات:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝
اور بیشک پھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب آیت مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ نازل ہوئی تو اس کے نزول سے فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب رفیع کا اظہار اور عزت افزائی ہوئی اور اس عزت و شرف کے پیش نظر آپ کی تعظیم و توقیر پر لوگوں کو ابھارنے کی خاطر فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یعنی عزت و شرف تو انتہائی آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں جس طرح آپ کو نوازا جائے گا اور آپ کی رفعت کا اظہار ہوگا، اُس کے

پیش نظر دنیا سے آپ کے لیے آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ عظمت والی ہے۔ آگے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ سَأْيُكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت کا کلام ماسبق سے دو طرح اتصال ہے، جس سے باخبر رہنا چاہیے، چنانچہ:

پہلا: جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے تو اس فرق کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی تھی، لیکن اس آیت کریمہ میں اُس تفاوت کی مقدار بیان فرمادی اور مذکورہ بہتری کی غایت کو یوں واضح فرمایا کہ میرا محبوب وہاں نوازشات کی جتنی بارش پر راضی ہوگا اتنی برسا کر راضی کر لوں گا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

دوسرا: جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ تو اس سے اُن معاندین کا منہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ آپ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں آخرت میں اسی طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آخرت میں سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس دارِ فانی میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ یہاں سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام مرضیات کو پورا کیا جاسکے، چنانچہ اس لحاظ سے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم راضی کرنے کے وعدے کو آخرت پر محمول کریں تو اسے کبھی منافع پر محمول کرنا ہوگا اور کبھی تعظیم پر۔ منافع کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جنت میں ایک ہزار مکان سفید موتیوں کے ہیں۔ اُن کی مٹی مشک ہے اور باقی سب کچھ اسی مناسبت سے ہے۔ تعظیم کے بارے میں حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امت کی شفاعت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم بیکسوں کے آقا و والی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

لے مولانا حسن رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: ۵۰

فَتَرْضَىٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے ہیں
کہ ہو جاتے راضی طبعیت کسی کی

لا ارضی وواحد من امتی فی اگر میل ایک امتی بھی دوزخ میں رہا تو میں راضی
النار۔ (ص ۱۶۸) نہیں ہوں گا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اس وعدے کو شفاعت پر محمول کرنا کئی وجہ سے متعین ہے، مثلاً:
اول: اللہ تعالیٰ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دنیا میں استغفار
کرتے رہیں، چنانچہ فرمایا:

وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اے محبوب! اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں
وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ لہ اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو استغفار کا حکم دیا ہے اور استغفار مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں اور
جب کوئی کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اُس کا سوال رد کر دیا جائے اور نہ
وہ اس سے خوش ہوگا بلکہ اُسے تو خوشی اُس وقت ہوگی جب اُس کی طلب پوری ہو جائے۔
جب یہ ثابت ہو گیا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو سکتے ہیں وہ سوال کا پورا
ہونا ہے نہ کہ اُس کا رد کیا جانا۔ پس:

دلت هذه الآية على انه تعالى يعطيه كل ما يرضيه علما ان هذه الآية دالة على الشفاعة في حق المذنبين۔ (ص ۱۶۸)
یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیشک
اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس سے
آپ راضی ہوں گے۔ (اس سے) ہمیں معلوم
ہو گیا کہ یہ آیت گنہگاروں کی شفاعت پر دلالت
کرتی ہے۔

دوم: اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ اس مفہوم سے مناسبت رکھتا ہے۔ گویا:
انه تعالى يقول لا اودعك ولا ابغضك بل لا اغضبك
على احد من اصحابك
بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب! نہ
تجھیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا بلکہ تمھارے
کسی صحابی سے بھی ناراض نہیں اور نہ تمھارے کسی

وَاتَّبَاعَكَ وَاشْيَاكَ طَلِبًا
لِرِضَاتِكَ وَتَطْبِيبًا لِقَلْبِكَ
فَهَذَا التفسير اوفق لمقدمة
الآية - (ص ۱۶۸)
پیر و کار اور ساتھ دینے والے ہی سے ناراض ہے
جو تمہاری رضا کا طلبگار ہے اور تمہارے دل کو
راحت پہنچاتا ہے۔ یہ تفسیر اس آیت کے مقدمے
سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔

سوم : شفاعت کے بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں
کہ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ گنہگاروں کی معافی ہو جائے اور یہ
آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ :

انہ تعالیٰ یفعل کل ما یرضاه
الرسول فتحصل من مجبوع
الآیۃ والخبر حصول الشفاعۃ -
اللہ تعالیٰ بیشک وہی کچھ کرے گا جو اس کا رسول
چاہے گا۔ پس اس آیت اور حدیث کو جمع کرنے
سے شفاعت کا حصول ثابت ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میرے جدا مجد (سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم) کی رضا اس میں ہے کہ ایک خدا کو ماننے والا کوئی جہنم میں داخل نہ ہو۔ امام باقر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مفہوم و معانی میں دسترس رکھنے والے حضرات
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سب سے پُر امید یہ آیت کریمہ ہے :

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰی
اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِي
اللہ - لے
اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر
زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ناامید
نہ ہو۔

اور ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ سب سے امید افزا مندرجہ ذیل آیت ہے :
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی
کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

اللہ کی قسم یہ وہ شفاعت ہے جو فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر لَآ اِلَہَ اِلَّا اللہ مُحَمَّدٌ

مَسْئُولُ اللّٰہِ پڑھنے والے کے لیے آپ کے راضی ہونے تک عطا فرمائی گئی ہے۔ لہ

مذکورہ تقریر اس صورت میں ہے کہ مذکورہ آیت کو احوالِ آخرت پر محمول کریں اور اگر اسے احوالِ دنیا پر محمول کیا جائے تو یہ اشارہ اس جانب ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں پر غزوہ بدر اور فتح مکہ میں فتح و ظفر سے نوازا اور لوگ جو درجہ دارۃ اسلام میں داخل ہوئے اور بنی قریظہ و بنی نضیر پر غلبہ دے کر انہیں جلا وطن کروایا اور آپ کی بڑی چھوٹی افواج کا بلادِ عرب میں پھیل جانا اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مختلف شہروں کو فتح کرنا اور جابر بادشاہوں کی مملکتوں کا ان کے ہاتھوں تباہ ہونا، کسری کے خزانوں پر قابض ہونا اور مشرق سے مغرب تک ان کا رعب اور اسلام کی ہیبت کا چھا جانا اور اسلام کی دعوت کا دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جانا ہے۔ ہماری راستے میں دنیا اور آخرت دونوں ہی کی بھلائی پر اس آیت کو محمول کرنا اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس آیت کریمہ میں یُعْطِیْکُمْ نہیں فرمایا لیکن فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل یہ سعادتیں غلامانِ مصطفیٰ کو بھی علیٰ قدر مراتب حاصل ہیں اور اس بشارت میں شمولیت اہل ایمان کی مختلف وجوہات ہیں۔ مثلاً :

پہلی وجہ : فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اگرچہ مقصود اصلی ہیں لیکن مومن آپ کے تابع ہیں۔

دوسری وجہ : جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عزت و فضیلت سے نوازا تو حقیقت میں یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے باعث تھا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سرورِ کون مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت ان پر اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ صحابہ کرام پر انعام و اکرام کی بارش ہونے پر اتنی مسرت و شادمانی ہوتی تھی جتنی خود اپنی ذات کو نوازے جانے پر بھی

لہ	کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ	قرض لیتی ہے گنہ، پرہیزگاری واہ واہ
	اشک، شب بھر انتظارِ عفو امت میں بہیں	میں خدا چاند ادویوں اختر شماری واہ واہ
	مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ	طالعِ برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ
	عرض بیگی ہے شفاعت عفو کی سرکار میں	چھنٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری واہ واہ

(کلامِ رضا)

نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے توحید امت میں دیگر انبیاء کے کرام نفسی نفسی پکاریں گے یعنی اے اللہ! مجھے جزا اور ثواب اُمت سے پہلے عطا فرما کیونکہ میری اطاعت میری اُمت کی اطاعت سے پہلے ہے لیکن آقائے نامدار، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہِ الہی میں عرض کر رہے ہوں گے: اُمتی، اُمتی۔ یعنی اے اللہ! میری اُمت کو پہلے بہتر جزا عطا فرما، کیونکہ میری مسترت و شادمانی اسی میں ہے کہ اپنی اُمت کو ثواب میں کامران دکھوں۔ لہ

تفسیری وجہ: گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے اُن کے چہرہ انور کو زخمی کر دیا (اور زندان مبارک شہید کر لیے) اُس وقت بھی اُن کے لیے یہ دعا کی: اے اللہ! میری قوم کو ہدایت مرحمت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن خندق کے روز جب اُنھیں نماز سے روک دیا گیا تو یوں دعا کی: اے اللہ! اُن کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ یعنی اپنے جسم پر زخم آیا تو اُسے برداشت کیا لیکن جب دین کے چہرے پر زخم آیا تو اُسے برداشت نہ کیا، کیونکہ نماز دین کا چہرہ ہے۔ یعنی میرے حبیب نے اپنے حق سے میرے حق کو مقدم رکھا۔ اسی لیے میں نے اُن کو فضیلت دی اور:

فقلت من ترك الصلوة سنين	پس میں نے کہہ دیا کہ جو سالہا سال تک نماز نہ
او حبس غيره عن الصلوة سنين	پڑھے یا دوسرے کو سالہا سال تک نماز
لا اكفره ومن اذى شعرة من	پڑھنے سے روکے رکھے تب بھی اُسے کافر
شعر تلك اوجزاد من نعلك	شمار نہیں کروں گا لیکن جو میرے حبیب کے
اكفره - (ص ۱۶۹)	ایک بال کو یا اُن کے نعلین مبارک کے

کسی حقے کو بھی تکلیف دے اُسے کافر شمار کر دے گا۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی کتنے ہی فوائد ذکر کیے ہیں، تحقیق کا شوق رکھنے والے حضرات اُن کی تفسیر کبیر کی طرف رجوع کریں۔

رِفْعَتِ ذِکْرِ مُصْطَفٰی

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانشراح کی آیت کریمہ:

لَا تَحْزَنْ لِهٰذَا مَثَلٌ ۚ هُوَ الَّذِي يُخْرِجُكُم مِّنَ الْغَمِّ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّسَالَاتِ ۚ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَمَامَ ۚ فَاَنزَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ مَآءً كَثِيراً ۚ فَاصْبِرُوا لَهُ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَثَلٌ ۚ هُوَ الَّذِي يُخْرِجُكُم مِّنَ الْغَمِّ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّسَالَاتِ ۚ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَمَامَ ۚ فَاَنزَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ مَآءً كَثِيراً ۚ فَاصْبِرُوا لَهُ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَثَلٌ ۚ

وَمَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے: جاننا چاہیے کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور شہرت کے ذکر میں عام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم مبارک کو عرش پر یکجا نیز شہادت اور تشہد (نماز، اذان و اقامت) میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر رکھا اور پہلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فرمایا اور آپ کے ذکر کو شہرہ آفاق کیا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا، علاوہ بریں خطبوں، اذانوں، صحافت اور کتب میں آپ کا ذکر کرنا اور قرآن کریم میں اپنے ساتھ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو ملانا۔ مثلاً:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا بِهِ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُعْمَلُونَ۔ اور رسول کا حق زیادہ تھا کہ اُسے راضی کرتے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكَ اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔

اور سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ کو رسول اور نبی کے لفظوں سے بلانا جبکہ دوسرے انبیائے کرام کو نام لے کر مخاطب فرمایا تھا مثلاً یا موسیٰ، یا عیسیٰ وغیرہ اور دلوں کو آپ کی طرف مائل کر دیا کہ حسب استطاعت وہ آپ کے ذکر میں مشغول اور تعریف و توسییف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مفہوم ہے:

سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذِكْرًا ۚ عَنَقَرِيبَ اُنْ كَيْلِ رَحْمَنٍ مَّجْتِ كَرْدِيْكَ۔

گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ! میں تمہارے تابعداروں سے دُنیا کو بھر دوں گا، جو تمہاری حمد و ثنا کریں گے، تمہاری بارگاہ میں درودِ پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، تمہاری سنتوں کی حفاظت کریں گے بلکہ کوئی فرضِ نماز ایسی نہیں ہوگی جس کے ساتھ سنتیں نہ ہوں۔ وہ فرض ادا کرنے میں میرے حکم کی تعمیل کریں گے اور سنتیں ادا کر کے تمہاری بارگاہ کے غلام ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ میں نے تمہاری اطاعت کو اپنی اطاعت اور تمہاری

۱۔ پ ۳۰، سورہ الانشراح، آیت ۴ ۲۔ پ ۱۰، سورہ التوبہ، آیت ۶۲

۳۔ پ ۴، سورہ النساء، آیت ۱۳ ۴۔ پ ۲۶، سورہ محمد، آیت ۳۳

۵۔ پ ۱۲، سورہ میم، آیت ۹۶

بیعت کو اپنی بیعت قرار دے دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

جس نے رسول کا حکم مانا بیشک اس نے

اللہ کا حکم مانا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ

وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ

ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

حتیٰ کہ بادشاہانِ ممالک بھی تمہارے در کی غلامی کو سرِ پا افتخار سمجھیں گے۔ قاری حضرات (محدثین) تمہارے منشور کے الفاظ کو محفوظ رکھیں گے، مفسرین تمہارے نسخہ کینیا (قرآن مجید) کے مفہوم و معانی بیان کریں گے، واعظ تمہاری نصیحتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، جید اساطینِ علم اور سلاطین تمہارے دربارِ دربار میں غلامانہ حاضر ہوا کریں گے اور تمہارے درِ رحمت سے دور ہونے کے باوجود بھی سلام عرض کرتے رہیں گے اور تمہارے روضہ اطہر کی مٹی کو اپنے چہروں کی زیب و زینت بنائیں گے اور تمہاری شفاعت پر ہمیشہ بھروسہ کرتے رہیں گے اور تمہارا عز و شرف تا قیامت اسی طرح باقی رہے گا۔

صاحبِ کوثر

إِنَّا عَظَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ

اے محبوب! بے شک ہم نے تمہیں بے شمار

لِرَبِّكَ وَانْحَرِهِ إِنَّ شَأْنَكَ

خوبیاں عطا فرمائیں۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز

هُوَ الْأَبَدُ ۝

پڑھو اور قربانی کرو۔ بیشک جو تمہارا دشمن ہے

وہی سرِ خیر سے محروم ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کوثر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس میں دو مختلف فوائد ہیں:

یہ سورت پہلی سورتوں کے لیے تتمہ اور بعد والی سورتوں کے لیے اصل کی مانند ہے۔

پہلا فائدہ پہلی سورتوں کے لیے تتمہ کی طرح اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ وَالضُّحٰی میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور آپ کے حالات

۱۔ پ ۵، سورہ النہد، آیت ۸۰ ۵ پ ۲۶، سورہ الفتح، آیت ۱۰

۳۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے: اَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبْنِي حَافِظَةٌ فِي الْأَسَامِيرِ سِوَاكَ

(فضائل و کمالات) کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے:

۱۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔

۲۔ وَلَا خِرَّةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ ۝ اور بیشک بچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔

۳۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۝ اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا

کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

پھر اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات سے تین احوال کا ذکر فرمایا جن کا تعلق دنیاوی حالات سے ہے۔ وہ تین احوال یہ ہیں:

۱۔ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَدٰی ۝ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر جگہ دی۔

۲۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ۝ اور تمہیں اپنی محبت میں خورفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔

۳۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰی ۝ اور تمہیں حاجت مند پایا، پھر غنی کر دیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سُورۃُ الْمُنَشِّرِ کے اندر تین ایسی عنایات کا ذکر فرمایا، جن کے باعث آپ کو ممتاز فرمایا ہے:

۱۔ اَلَمْ نُنشِرْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔

۲۔ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِی ۝ اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری

پچھ توڑی تھی۔

۳۔ وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

اس کے بعد سورۃُ الْتِّین میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عز و شرف کی تین اقسام بیان فرمائیں:

۱۔ اُولٰٓئِہِاِنَّہٗ تَعَالٰی اَقْسَمُ بِبَلَدِہٖ ۝ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی

قسم کھائی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) وہ ارشاد ربانی

قوله وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝ یہ ہے: اور اس امانت والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ اُمّتِ محمدیہ کی دوزخ سے خلاصی (نجات) کا مشورہ سنا دیا گیا اور

فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک

کام کیے۔

۳۔ مومنوں کو ثواب اور عنایات سے نوازنے کی بشارت سنادی، جیسا کہ فرمایا ہے:

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ اُن کے لیے بے حد ثواب ہے۔

اس کے بعد سورہ علق میں فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تین عنایات فرمانے کا ذکر فرمایا:

۱۔ اِقْبِرْ اِيَّا سَمِ رَبِّكَ - یعنی اپنے رب کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے لوگوں کو قرآنِ کریم سناؤ۔

۲۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ:

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ طَسَدْعُ اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو الزبانیۃ۔ بلا تے ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربِ خاص سے نوازا ہے، جس کا یوں ذکر فرمایا:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (اُس کی نہ سجد اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔

اور سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر فرمایا ہے جو شبِ قدر کے ذریعے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ اس میں بھی تین طرح فضیلت کا اظہار فرمایا گیا ہے:

۱۔ یہ رات ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔

۲۔ اس میں فرشتے اور رُوحوں کا نزول ہوتا ہے۔

۳۔ یہ رات طلوعِ فجر تک سلامتی والی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بئینہ میں سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اُمتِ محمدیہ کو تین خصوصیات اور کرامتیں مرحمت فرمائی ہیں، جو یہ ہیں:

۱۔ اَوَّلَهَا نَحْيَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔

۲۔ وَثَانِيهَا اَنَّ جَزَاءَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ۔ دوسری یہ کہ اُن کے رب کے پاس اُن کی جزا بہشتیں ہیں۔

۳۔ وَثَالِثُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اور تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ اُن سے راضی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال سے میں نبی کویم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین طرح عزت و شرف سے نوازا ہے:

۱۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ اُس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے روز نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت کے بارے میں طاعت اور عبودیت کی گواہی دے گی۔

۲۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ یہ ارشادِ الہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں پر اُن کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور نیک اعمال کو دیکھ کر اُنہیں مسرت و شادمانی ہوگی۔

۳۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑی بھلائی ہے۔ پس یقیناً اُنہیں اس کا ثواب حاصل ہوگا۔
اس کے بعد سورہ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے اُمتِ محمدیہ کے غازیوں اور مجاہدوں کو سراہا اور اُن کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ یہاں اُن کے گھوڑوں کے تین اوصاف بیان فرماتے ہیں:

قسم اُن کی جو دوڑتے ہیں، سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔

پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سُم مار کر۔

پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔

۱۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

۲۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا

۳۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

اللہ تعالیٰ نے اُمتِ مرعومہ کو سورہ القارعة میں تین چیزوں کے ساتھ شرف بخشا ہے۔

۱۔ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ - تو جس کی تولیوں بھاری ہوئیں۔

۲۔ فَمَوْفَىٰ عِشَّةٍ رَّا صِفَّةً - وہ تو من مانے عیش میں ہیں۔

۳۔ وَهُوَ اپنے دشمنوں کو (نَارُ حَامِيَةٍ) بھڑکائی ہوئی آگ میں دیکھیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ تکاثر میں یہ شرف بخشا کہ جو لوگ آپ کے دین متین اور آپ کی شریعتِ مطہرہ سے منہ پھیریں گے انھیں تین طرح عذاب دیا جائے گا:

۱۔ وہ جہنم کو دیکھیں گے۔

۲۔ وہ اُسے عین الیقین کے ساتھ دیکھیں گے۔

۳۔ اُن سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔

اور فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ والعصر میں تین شرف عطا فرمائے کہ آپ کی اُمت پر یوں انعامات کی بارش ہوگی کہ:

۱۔ وہ دولتِ ایمان سے مالا مال ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے: اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔

۲۔ وہ اعمالِ صالحہ سے مزین ہوگی، چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: وَعَمَلُوْا الصّٰلِحٰتِ۔

۳۔ وہ مخلوقِ خدا کو اعمالِ صالحہ کا راستہ دکھائے گی نیز انصاف اور سب کے تلقین کرے گی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں سرورِ کون و مکن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو آپ کی بدگوئی کرتا پھرے اور مٹھے پیچھے ناشائستہ الفاظ استعمال کرے اُسے تین طرح عذاب دیا جائے گا:

۱۔ دنیا میں اس کا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا (یعنی مال کو نیک کاموں میں خرچ

نہیں کرے گا یا اگر ایسی جگہ خرچ بھی کرے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا)۔ اسی لیے

لے دشمن احمد پر شدت کیجیے

محدوں سے کیا مراد کیجیے

مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں

ذکر آیاتِ ولادت کیجیے

شکر ٹھہرے جس میں تعظیمِ نبی

اُس بُرے مذہب پر لعنت کیجیے

مومنو! اتمامِ حجت کیجیے

والضحیٰ، حجرات، الفتنہ سے پھر

(حدائقِ بخشش)

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ فَرِيَا هے۔

۲۔ وہ دوزخ کے اُس حصہ میں پھینکا جائے گا جسے حطہ کہتے ہیں۔

۳۔ اُسے دوزخ میں پھینک کر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اُس سے نکلنے کی ہر امید

منقطع ہو جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ ۱۰

اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ فیل میں یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے دشمنوں کے مکہ و فریب کو تین طرح خاک میں ملا کر رکھ دیا:

۱۔ وہ مکہ و فریب اور طاقت کے ذریعے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے اُسے خاک میں ملا دیا گیا۔

۲۔ اُن پر اُڑتے ہوئے ابا بیل بھیجے۔

۳۔ اُن کو ایسے ہلاک کیا کہ کھائی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ قریش میں یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے آباؤ اجداد کی مصلحتوں کے پیش نظر اُن کی تین طرح رعایت فرمائی:

۱۔ قریش کے دل موہ لینے کے لیے اُنھیں موافقت اور محبت کرنے والے بنایا۔

۲۔ اُنھیں جھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے با فراغت روزی دی۔

۳۔ اُنھیں خوف سے امن میں رکھا۔

۱۰ اسی لیے مجدد مائتہ حاضرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: ۱۰

وہ دما بیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا

وہ شہید لیلیٰ نجد تھا وہ ذبیح تیج خیار ہے

یہ ہے دیں کی تقویت اُس کے گھر یہ ہے مستقیم صراطِ شر

جو شقی کے دل میں ہے گاؤں تو زبان پر اچھڑا چار ہے

وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر

ارے تجھ کو کھائے تپ سقر، ترے دل میں کس سے بخار ہے

آپ کو سورہ صاعون میں یہ شرف عطا فرمائے گئے کہ آپ کے دین کی مخالفت کرنے والوں کی تین مذموم صفات (برائیاں) بیان فرمائیں،

- ۱۔ اُن کا کم ظرف اور ذلیل ہونا بیان فرمایا کہ يَدْعُ الْيَسْتِمْ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ
- ۲۔ بتایا کہ اُنھوں نے خالق کی تعظیم کو چھوڑ دیا ہے، چنانچہ فرمایا: هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

۳۔ وہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے: وَلَيْتَعُونَ الْمَاعُونَ

جب اللہ تعالیٰ نے فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سورتوں میں مذکورہ بالا عظیم فضیلتیں عطا فرمائیں اور عزت و شرف سے نوازا، تو ان تمام نوازشات کے بعد مشرکہ سنایا کہ:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِیْ اِنَّا
 اَعْطَيْنَاكَ هَذِهِ الْمَنَاقِبَ
 المتکاثرہ المذكورۃ فی السور
 المتقدمة التي كل واحدة
 منها اعظم من ملك الدنيا بحدافیرھا
 فاشتغل (نت بعبادة هذا الرب
 وبارشاد عباده الى ما هو الاصلح
 لهم۔ (ص ۱۱)

ہم نے تمھیں کوثر عطا فرمادیا یعنی ہم نے تمھیں
 یہ کثیر فضائل و مناقب مرحمت فرمائیے ہیں
 جن کا پہلی سورتوں میں ذکر موجود ہے۔ اُن میں سے
 ہر ایک کمال ساری دنیا کی بادشاہی سے بڑھ کر
 اور اعلیٰ ہے۔ پس تمھیں چاہیے کہ اپنے رب کی
 عبادت میں مشغول رہا کرو اور اس کے بندوں کو
 ہدایت کرتے رہو۔ اُن کی بھلائی اور بہتری اسی ہے

اپنے رب کی بدنی عبادت بھی کرتے رہو، جس کے لیے حکم دیا گیا ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ رِپْسَ اپنے
 رب کے لیے نماز پڑھو) یا مالی عبادت کرتے رہو جس کے لیے وَانْحَرْ فرمایا گیا ہے یا لوگوں کو

۱۔ (ترجمہ) جو یتیم کو دھتکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔

۲۔ (ترجمہ) جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔

۳۔ (ترجمہ) اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔

ایسی باتوں کی طرف ہدایت کرتے رہنا جو انھیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتے چنانچہ فرمایا ہے:
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ پس

فثبت ان هذه السورة يعني پس ثابت ہو کہ سورہ کوثر پہلی سورتوں کے تحت
سورة الكوثر كالتمة لما اور بعد والی سورتوں کے لیے اصل کی مانند ہے
قبلها من السور واما انها اور احب یہ بعد والی سورتوں کے لیے اصل کی
كالاصل لما بعد هافهو طرح ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ
انه تعالى يامرہ صلى الله حکم دیتا ہے کہ تمام دنیا داروں (منکرین دین) کو
عليه وسلم بعد هذه السورة کافر کہا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
بان يكفر جميع اهل الدنيا بقوله اے محبوب! ان سے فرما دو کہ اے کافرو! میں
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا اُن (دُہتوں) کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔
تَعْبُدُونَ ۝ (ص ۱۷)

یہ یقینی بات ہے کہ لوگوں کے دین و مذہب میں طعن کرنا اُن کی جانوں اور مالوں میں طعن کرنے سے
زیادہ گراں گزرتا ہے اسی لیے وہ اپنے باطل ادیان کی خاطر جان اور مال خرچ کر دیتے ہیں پس
یہ لوگوں کے دین میں طعن کرنا بغض و عداوت کی آگ کو خوب بھڑکانے اور اُس پر تیل چھڑکنے کی
طرح تھا، جبکہ دیگر مطاعن سے اس قدر اشتعال پیدا نہ ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ ساری دنیا کے کافروں کو کافر کے لفظ سے مخاطب کرو اور اُن کے ادیان کو باطل قرار دو تو
اس کا لازمی ردّ عمل یہی تھا کہ پوری طرح وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور یہ ایسا مرحلہ تھا
جس نے ہر غیر مسلم کو آپ سے دور کر دیا اور کوئی آپ کے قریب بھی مچھٹکنا نہیں چاہتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ وہ فرعون اور اُس کے لشکر سے خائف تھے
لیکن یہاں صورت حال یہ ہے کہ فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کی طرف مبعوث
فرمائے گئے تھے اور ہر دشمن دین و ایمان ہی فرعون ثانی نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس
شدید خوف کے ازالے کی انتہائی لطیف تدبیر فرمائی کہ یہ چونکا مینے والا اعلان کروانے
سے پہلے سورہ کوثر نازل فرمادی کیونکہ ارشادِ ربّانی اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ کا مرادہ اس خوف کہ

زائل کرتا ہے۔ یہ بشارت خوف کو کیسے دور کرتی ہے؟ اس کے مختلف جواب ہیں:
اول: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ** ۵

ای الخیر کثیر فی الدنیا و
 الدین فیکون ذلک وعداً من
 اللہ ایاہ بالنصرة والحفظ (ص۱۶)
 یعنی اس سے دین دنیا کی خیر کثیر مراد ہیں پس
 یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کی نصرت و
 حفاظت کا وعدہ کرنا ہے۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مژدہ سنایا تھا:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ۱۷
 اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اللہ تمہیں
 کافی ہے۔

یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے:
وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۱۸
 اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔
 یا جیسے اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا ہے:
إِنَّا نَنْصُرُوكَ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ۱۹
 اور تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے اُن کی
 مدد فرمائی۔

وَمَنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ضَامِنًا
 لحفظه فإنه لا يخشى أحداً (ص۱۶)
 اور جس کی حفاظت کا ضامن اللہ جل شانہ ہو جائے
 وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔

دوم: انہ تعالیٰ لما قال **إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ**
 وَهَذَا اللفظ يتناول
 خیرات الدنیا وخیرات الآخرة
 واناخیرات الدنیا ما كانت
 فاصلة الیه حین کان بمکّة
 جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ ہم نے تمہیں ہر چیز کی
 کثرت عطا فرمادی تو یہ لفظ دنیا اور آخرت کی
 ہر بھلائی پر محیط ہو گا۔ لیکن جب تک آپ مکہ معظمہ
 میں جلوہ افروز ہوئے اُس وقت تک دنیاوی
 بھلائیاں آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں اور

والخلف في كلام الله تعالى
 محال فوجب في حكمة الله تعالى
 ابقائه صلى الله تعالى عليه وسلم
 في دار الدنيا الى حيث يصل
 اليه تلك الخيرات فكان
 ذلك كالشارة له و
 الوعد بانه لا يقتلونه ولا يقهرونه
 ولا يصل اليه مكرهم
 بل يصير امره كل يوم
 في الازدياد والقوة (ص ۱۷)

کلام خدا کے خلاف واقع ہو جانا محال ہے۔
 پس واجب ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پھکت
 تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُس
 وقت تک دنیا میں زندہ رکھے جب تک یہ بھلائیوں
 آپ تک پہنچ نہ جائیں۔ پس یہ آیت آپ کے لیے
 گویا بشارت ہے اور اس بات کا وعدہ ہے کہ
 دشمن نہ آپ کو قتل کر سکیں گے اور نہ آپ پر غلب
 آسکیں گے اور نہ ان کا کوئی مکر فریب آپ پر
 کارگر ثابت ہو سکے گا، بلکہ اُمتِ محمدیہ میں روز بروز
 اضافہ ہوگا اور جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔

سوم: جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ کافر ہیں اور
 اُن کے ادیان کو باطل ٹھہرایا اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تو وہ
 اکٹھے ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پیشکش کی کہ اگر آپ دولت جمع کرنے کی خاطر
 یہ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کا اتنا انبار لگا دیتے ہیں کہ آپ سب
 بڑے دولت مند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنے کے خواہشمند ہیں تو جس حبیب
 و جلیلہ اور معزز ترین عورت کی آپ کو طلب ہو، اُس سے ہم شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر حکومت
 قائم کرنا آپ کا مقصود ہے تو ہم آپ کو اپنا حکمران بنالینے کے لیے تیار ہیں۔ اُن کے جواب میں
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اٰی لَمَّا
 اعطاك خالق السموات والارض
 خيرات الدنيا والاخرة
 فلا تغربا لهم ومراعاتهم۔
 (ص ۱۷)

بیشک ہم نے تمہیں ہر چیز کی کثرت عطا فرمادی
 یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے
 نے تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عنایت
 فرمادی ہے لہذا کفار کے مال و دولت یا مراعات
 کے جھانسنے میں نہ آنا۔

چہارم: ارشادِ الہی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ جلّ شانہ نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و کلام اللہ مَوْسٰی تَكَلَّمَ کے قائم مقام ہے بلکہ یہ عزّ و شرف میں اُس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ مالک حبیب اپنے غلام کی تربیت اور اُس پر احسان کرنے کو اپنی ذمہ داری قرار دے کر بات کرے تو یہ اس کے علاوہ کلام کرنے کی دوسری ہر صورت سے افضل و اعلیٰ صورت ہے بلکہ اس میں قلب کی تقویت اور بُزدلی کو زائل کرنے کا فائدہ موجود ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مخاطب کرنا خوف کو دل سے زائل کرنے اور بُزدلی کو پرکھنے کی خاطر تھا۔ اسی لیے سورہ کوثر کو سورہ کافرون سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس سے فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُس غنّتِ ثنائیہ کے لیے تیار کرنا تھا جو اہل جہاں کی تکفیر کے اقدام اور اُن کے معبودانِ باطل سے اظہارِ برأت کی صورت میں پیش آنے والی تھی۔ جب اے حبیب اِثْم نے میرے حکم کی تعمیل کی اور اُسے عملِ جامہ پہنایا تو ملاحظہ فرماؤ کہ میں نے اپنا وعدہ کس طرح پورا کر دکھایا ہے کہ اہل دنیا سے بکثرت تمھارے تابعدار اور مددگار بنا دیے ہیں، جو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔

حبیب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور شریعت کو ظاہر کرنے کے مراحل طے کر لیے گئے تو آپ اُن احوال کی جانب متوجہ ہوئے جو قلب و باطن سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ طالب دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیا کا طالب ہے اور دوسرا وہ جو آخرت کا طلبگار ہے۔ دنیا کا طالب خسارے میں رہتا ہے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی اُس کا مقدر ہو کر رہ جاتی ہے اور آخرت میں اُس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے اور سورہ لہب کا خلاصہ یہی ہے۔ لیکن،

اما طالب الآخرة فاعظم احواله	جو آخرت کا طالب ہے اُس کے احوال میں
ان تصير نفسه كالمرأة التي	عظیم تربیہ حالت ہے کہ اُس کا دل آئینے کی
يتنقش فيها صور الموجودات	ماند ہو جاتا ہے جس میں موجودات کی صورتیں منقش
وقد ثبت في العلوم العقلية	ہو جاتی ہیں۔ علم عقلیہ میں یہ ثابت شدہ بات ہے
ان طريق الخلق في معرفته	کہ مخلوق کے لیے صانع کی معرفت کے دو

الصانع علی وجهین منہم من طریق الجہور۔ (ص ۳۱)
عرف الصانع ثم توصل
بمعرفته الی معرفة مخلوقاته
وهذا هو الطريق الاشرف
الاعلیٰ ومنہم من عکس وهو
طریق الجہور۔ (ص ۳۱)
طریقے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے خالق کو پہچانا
اور اُس کی معرفت کے ذریعے مخلوقات کی
معرفت تک اُن کی رسائی ہوئی۔ یہی وہ طریقہ ہے
جو سب میں اشرف و اعلیٰ ہے اور بعض نے
اِس کے برعکس معرفت حاصل کی، جیسا کہ
جہور کا طریقہ ہے۔

اِس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اِس طریقے سے ختم کیا جو دونوں طریقوں
سے اشرف و اعلیٰ ہے، یعنی اپنی صفات اور جلالتِ شان کا ذکر فرمایا اور اِس بیان کا نام
سورۃ اخلاص ہے۔ اِس کے بعد سورۃ فلق میں اپنی مخلوقات کے مراتب کا ذکر فرمایا،
پھر مراتبِ نفسِ انسانیہ کے ساتھ اِس بیان کو ختم کیا اور یہاں پہنچ کر اِس کتابِ عزیز کے
مضامین کو ختم کر دیا۔ یہ جملہ (فائدہ مذکورہ) اِس سورت کی مفصل تفسیر کی مزید تفصیلی وضاحت ہے
پاک ہے وہ ذات جس نے عقلموں کو شریعت کے اُن اسرار کی معرفت بخشی جو اُس نے اپنی اِس
مقدس کتاب میں ولیعت فرمائے ہیں۔

دوسرا فائدہ: ارشادِ ربّانی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْکُتُبَ اِنَّا کُجّی جمع کے لیے آتا ہے اور
کبھی تعظیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت محکم دلائل سے ثابت اور محلِ کلام نہیں۔ پس اِس کا اطلاق جمع پر کرنا کسی طرح ممکن
نہیں ماسوائے اُس صورت کے جبکہ یہ ارادہ کیا جائے کہ اِس عطیہ کی تحصیل میں ملائکہ، جبرئیل،
میکائیل اور گزشتہ انبیائے کرام نے کوشش کی ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فخرِ دو عالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا اہدٰ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا، یعنی:

مَرَّیْنَا دَا بُعَثْ فِیْہِم مَّرَّسُوکَا
اے رب ہمارے! اور بھیج ان میں ایک رسول
انہیں میں سے۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں یہ درخواست پیش کی تھی :

رب اجعلنی من امة احمد اے اللہ! مجھے امتِ احمد میں شمار فرما لے اس کے
وہو المراد من قوله تعالیٰ یہی مراد ہے جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے کہ : اور تم
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو
قَضَيْنَا اِلَىٰ مُوسَى الْاَمْرَ - ۱۵ رسالت کا حکم بھیجا۔ دعلی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

والسلام

اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اور اُن رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد
اسْمُهُ اَحْمَدُ - ۱۶ تشریف لائیں گے۔ اُن کا نام احمد ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اِنَّا کو تعظیم پر محمول کریں تو یہ عطیۃ کی عظمت پر خبردار کرنا ہے کیونکہ
عطا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جس کو یہ عطیۃ مرحمت فرمایا جا رہا ہے اُس کی
جانب اِنَّا اعْطَيْنَاكَ میں خطاب کے کاف سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور جو چیز بہہ فرمائی ہے
اُس کا نام کوثر ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ :

وہر ما بفیہ البالغۃ فی الکثرت اور وہ (لفظ کوثر) کثرت میں مبالغے کا فائدہ دیتا ہے
فقد اشعر اللفظ اعظم الواهب پس اس لفظ سے یقیناً بخشش کرنے والے ،
والہوہوب الہ والہوہوب فیالہا بخشش لینے والے اور بخشش کی عظمت کا پتہ
من نعمۃ ما اعظمہا وما اجلہا لگتا ہے ۔ پس یہ نعمت کتنی عظمت والی اور عظیم الشان
ویالہ من تشریف ما اعلاہ - ہے اور وہ ذات کتنی عز و شرف والی ہے جس کو

یہ علو خاص مرحمت ہوا۔ (ص ۱۴۳)

تفسیر فائدہ : بدیہ خواہ قلیل ہو لیکن عطا فرمانے والے کی عظمت کے باعث وہ عظیم شمار
ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ اپنے بعض نوکر چاکروں کو بطور انعام سیب عنایت فرمائے

تو اسے بھی بہت بڑا انعام شمار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ فی نفسہ وہ ہر عظیم ہے بلکہ یہ عظمت اُسے اس سبب سے حاصل ہوئی کہ عطا فرمانے والا عظیم ہے لیکن یہاں جو ہر کوثر دیا گیا ہے وہ اپنی غایت کثرت کے لحاظ سے خود عظیم ہے لیکن خالق کائنات کی طرف سے ہونے کے باعث اس کی عظمت اور کمال میں اور بھی چار چاند لگ گئے۔

چوتھا فائدہ: حبیب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ ہم نے تمہیں فلاں چیز عطا فرمادی۔ قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اب وہ اسے واپس نہیں کرے گا اور یہ اس لیے ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں اجنبی کے لیے جائز ہے کہ اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس کرے لیکن اس عطیہ کے بدلے میں اگر کچھ لے چکا ہے، خواہ وہ کتنا ہی قلیل معادضہ کیوں نہ ہو، اس صورت حال میں عطیہ کا واپس لینا جائز نہیں رہتا۔ مثلاً کسی نے ایک ہزار دینار ہبہ کیے، پھر موہوب لڑے کسی چیز کا مطالبہ کرے اگرچہ وہ ایک مٹھی بھر چیز ہو، تو وہ ہبہ کا حق رجوع ساقط ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور اس کے بالمقابل نماز اور قربانی کا مطالبہ کیا تو اس صورت میں حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔

پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اس فعل (عطیہ) کی بنیاد مبتداء پر رکھی ہے، جس سے تاکید کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم ایسے اسم کا ذکر کرو جس کی خبر دینی ہو تو عقل اس بات کی متلاشی ہوگی کہ کس چیز کی خبر دی جانے والی ہے؟ سننے والا اس خبر کو معلوم کرنے کا خواہشمند ہو جاتا ہے اور جب تم اس خبر کو بیان کر دو تو اُسے ایسے قبول کر لیا جائے گا جیسے عاشق اپنے معشوق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسی خبر اٹھانی صداقت پر مبنی اور شک و شبہ سے قطعاً بالاتر ہوتی ہے۔ اس سے ارشادِ ربانی لَا تَعْنَى الْاَبْصَارُ کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی جگہ اگر اَبْصَارُ لَا تَعْنَى کہا جاتا تو اس میں اتنی عظمت نہ ہوتی۔

ہمارے مذکورہ کلام کو یوں بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ مثلاً ایک بہت بڑا بادشاہ ہے۔ وہ کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے یا کسی چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ میں دوں گا، میں تیری جانب سے کافی ہوں، تیرے معاملات و حالات کی نگرانی میں خود کروں گا اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ

جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ عظیم ہو، جس میں چشم پوشی کم ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اس چیز کا عظیم ہونا ایفائے عہد کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی جانب سے اگر کوئی عظیم ہستی ضامن ہو جائے تو ایسا کرنے سے شک زائل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ اسی باب سے ہے کیونکہ کوثر ایک عظیم الشان چیز ہے جس میں کم ہی چشم پوشی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب مبتدا کو مقدم کیا اور وہ لفظ اثنائے ہے۔ یہ اسناد ایسے شک کو زائل کرتی اور شبہ کو دفع کرتی بلکہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔

چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو حرف تاکید کے ساتھ صادر فرمایا ہے جو قسم کے قائم مقام ہے۔ سچے کے کلام کا خلاف تو دلیسے بھی نہیں ہو سکتا لیکن جب وہ تاکید کے ساتھ ذکر کرے تو اس کا خلاف کب ہو سکتا ہے؟

ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ (ہم نے تجھیں فلاں چیز عطا فرمادی) یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ سَنُعْطِيكَ (کہ ہم تجھیں فلاں چیز عنقریب عطا فرمائیں گے) لہذا لفظ اَعْطَيْنَاكَ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عطا فرمانے کا معاملہ زمانہ ماضی میں ہو چکا۔ اس میں بھی کئی قسم کے فوائد ہیں:

۱۔ جس کی زمانہ ماضی میں تائید فرمائی گئی، معزز کیا گیا، رعایت فرمائی گئی اور اس کی ضروریات کو پورا فرمایا گیا ہو، وہ اس شخص سے اعلیٰ و اشرف ہوتا ہے جو مستقبل قریب میں نوازا جاسکے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میں اس وقت بھی نبی مختار ہوں آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔

۲۔ مذکورہ الفاظ میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ نیک بخت یا بد بخت، غنی یا فقیر رکھنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کر رہا بلکہ وہ سارے فیصلے ازل میں کر چکا ہے۔

۳۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب! ہم نے تمہارے عالم وجود میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے سعادت و نیک بختی کے اسباب مقرر فرما دیے تھے۔ اب تمہارے جملہ آراء گیتی ہونے اور اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہو جانے کے بعد کس طرح بے یار و مددگار چھوڑا جاسکتا ہے؟

۴۔ گویا باری تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ اے حبیب! ہم نے تجاری اطاعت و فرمانبرداری کے سبب یہ فضائل و کمالات عطا نہیں فرمائے ہیں ورنہ ضروری ہوتا کہ تمہاری اطاعت شعاری کے بعد یہ فضیلت و شرافت مرحمت فرمائی جاتی، بلکہ ہم نے محض اپنے فضل و کرم سے تمہارا ان فضائل و کمالات کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اس میں سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف اشارہ ہے کہ: جس کو وہ قبول فرمائے تو بغیر کسی سبب اور علت کے قبول فرمایا ہے اور جس کو رد فرمائے تو بغیر کسی علت کے رد فرمایا ہے۔

اٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتا ہے کہ: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے عالم کو یا اپنے مطیع کو فلاں چیز عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا تو سمجھا جاتا کہ یہ عطیہ اسی علت کے سبب مرحمت فرمایا گیا ہے۔ لیکن جب (بغیر کسی علت کا ذکر فرمائے) اَعْطَيْنَاكَ ارشاد فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ یہ عطیہ کسی علت اور سبب کے باعث مرحمت نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت و مشیت سے مرحمت فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقسیم ہم نے فرمائی ہے نیز ارشاد ربانی ہے:

اَللّٰهُ يَخْلُقُ فِى الْمَلٰٓئِكَةِ اللّٰہ چُن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور
مُرْسَلًا وَّمِنَ النَّاسِ۔ آدمیوں میں سے۔

نواں فائدہ: پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ۔ اس کے بعد فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَر۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا تو فیت و ارشاد کے لیے ہے جو ہماری طاعت گزاری سے پہلے ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمیں نعمتوں سے نوازا اس کی صفت ہے اور اس کے لیے اطاعت شعار بندے بن کر رہنا ہماری صفت ہے۔ مخلوق کی صفت خالق کی صفات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جبکہ خالق کی صفت مخلوق کی صفات میں اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے امام واسطی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ: ”میں ایسے رب کی اطاعت نہیں کرتا جس کی

میری طاعت راضی اور معصیت ناراضی کر دے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی دونوں قدیم ہیں اور میرا طاعت گزار یا عصیان شعار ہونا محدث (نوپید) ہے۔ حادث قدیم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ اُس کی رضا بندے کو طاعت پر ابھارتی ہے اور یہ ازل کے بعد کا معاملہ ہے۔ یہی صورتِ حال اللہ تعالیٰ کے ناراضی ہونے اور بندوں کے معصیت کار ہونے کی ہے۔

دسوال فائدہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یعنی بیشک ہم نے تجھیں کوثر عطا فرمایا اور یہ نہیں کہا کہ: اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یعنی ہم نے تجھیں کوثر عطا فرمایا (یعنی ذکرِ عطا سے پہلے لفظ اِنَّا کا اضافہ کر کے فرمایا گیا ہے) اس طرح بشارت دینے کی دو وجہ ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ عطا فرمانے میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں: (۱) عطا فرمانا اُس پر واجب ہے۔ (۲) بطور احسان و اکرام عطا فرماتا ہے۔ چونکہ یہاں احسان و اکرام کے طور پر عطا فرمانے کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا، لہذا لفظ اِنَّا کا اضافہ کر کے شک و شبہ کا استیصال کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو:

هذه الخيرات لكثيرة	اس سے مراد بے شمار جلائیاں ہیں یعنی اسلام،
وهي الاسلام والقرآن والنسبة	قرآن، نبوت اور دنیا و آخرت میں آپ کا ذکر جمیل۔
والذكر الجميل في الدنيا والاخرة	یہ عنایات ہماری طرف سے تم پر محض احسان و اکرام
محض الفضل منا اياك وليس	کے طور پر ہیں اور ان میں سے کوئی چیز استحقاق
منه شيء على سبيل الاستحقاق	یا ہماری ذات پر واجب ہونے کے باعث عطا
والوجوب وفيه بشارة من	نہیں فرمائی جا رہی۔ اس میں دو طرح بشارت ہے۔
وجہین۔ احدهما ان الكريم	ایک یہ کہ محسن جب بطور احسان عطا فرمانا شروع
اذا شرع في العطية على سبيل	کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اُسے باطل نہیں کرتا بلکہ
الفضل فالظاهر انه لا يبطلها	روز بروز اُس میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ دوسرے
بل كان كل يوم يزيد فيها۔	اس طرح کہ اگر ان عنایات کا سبب استحقاق

الثانی ان مایکون سبب الاستحقاق ہوتا تو ان غایات کی مقدار استحقاق کے برابر
 فانہ یتقدر بقدر الاستحقاق ہوتی حالانکہ بندوں کے مجملہ افعال تنہا ہی ہیں
 وفعل العبد متناہ فیكون اور ان کے باعث جو استحقاق حاصل ہوتا
 الاستحقاق الحاصل بسببہ اس کا تنہا ہی ہونا ضروری ہے لیکن احسان و
 متناہیاً اما التفضل فانہ انعام کا سبب تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور
 نتیجۃ کرم اللہ وکرم اللہ تعالیٰ کا کرم غیر تنہا ہی ہے۔ جب یہ ثابت
 اللہ غیر متناہ فیكون تفضله ہو گیا کہ ارشاد باری تعالیٰ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ
 اِضًا غَیْرَ مَتْنَاهُ فَلَمَّا دَلَّ قَوْلُهُ احسان کے طور پر ہے بطور استحقاق نہیں،
 اَعْطَيْنَاكَ عَلٰی اَنَّهُ تَفْضُلٌ لَا اِسْتِحْقَاقًا تو معلوم ہوا کہ اس میں ہمیشہ اضافہ
 اشعر ذلک بالدوام والتزاید ہوتا رہے گا۔

ابداً۔ (دھٹا)

اب رہ لفظ کوثر کا معاملہ تو کوثر لغت میں فَوْعَلٌ کے وزن پر کثرت ماؤے سے ہے یعنی:
 وهو المنرط فی الکثرة (دھٹا) یہ افراط در کثرت ہے۔

ایک دیہاتی عورت کا لڑکا جب سفر سے واپس لوٹا تو کسی نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا
 لڑکا کیا لے کر آیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا: آب بکوثر ای بالعدد الکثیر یعنی کوثر
 لایا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں لے کر آیا ہے بہت زیادہ سخاوت کرنے والے
 شخص کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کمیت نے کہا ہے: ہ

وانت کثیر یا ابن مروان طیب

وکان ابوک ابن العقائل کوثر

گردوغبار جب بڑی کثرت سے آسمان کی جانب چڑھ جائے تو اسے بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ
 کوثر کے لغوی معانی ہیں لیکن مفسرین کرام نے بوجہ ان سے اختلاف کیا ہے:

لہ (ترجمہ) اسے ابن مروان! تم اگرچہ اچھے سخی ہو لیکن تمہارا جد اعلیٰ ابن عقائل تو بہت ہی سخی تھا۔

سلف و خلف میں یہی مشہور و معروف رہا ہے کہ کوثر نامی جنت میں ایک نہر ہے۔
قول اول چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کنارے مجتوف موتیوں
 کے قبضوں سے بنائے گئے ہیں۔ میں نے اُس کی گزرگاہ پر ہاتھ پر مارا تو اُس میں مُشکِ اذفر
 جیسی خوشبو پائی۔ جب پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 عطا فرمائی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ اُس کا پانی دودھ
 سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اُس میں سبز پرندے ہیں، جن کی گردنیں بختی اُونٹوں
 کی گردنوں جیسی تھیں۔ جو اُس پرندے کا گوشت کھا لے اور کوثر کا پانی پی لے، اُسے اللہ تعالیٰ کی
 رضا حاصل ہوگئی۔ شاید اس نہر کو کوثر اس لیے کہا گیا ہے کہ جنت کی باقی نہروں سے اس میں
 پانی زیادہ اور بہتر ہے یا اس وجہ سے کہ جنت کی ساری نہریں اسی سے نکلتی ہیں جیسا کہ روایت
 ہے کہ جنت کا کوئی باغ ایسا نہیں جس میں کوثر سے نکل کر کوئی نہر نہ پہنچتی ہو۔ یا اس وجہ سے
 کہ کوثر کہتے ہیں کہ اس پر پانی پینے والے بکثرت ہوں گے۔ یا اس کے پانی میں نفع کثیر ہے،
 جیسا کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوثر ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے
 مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اُس میں خیر کثیر ہے۔

کوثر سے مراد حوض ہے اور اس بارے میں احادیث مشہور ہیں۔ پہلے قول اور اس
قول دوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے (ما سوائے لفظی اختلاف کے) کیونکہ ہو سکتا ہے کہ
 وہ نہر اس حوض میں گرتی ہو یا مجملہ نہریں اسی حوض سے نکل کر بہتی ہوں اور یہ حوض اُن کا منبع ہو۔
 کوثر سے مراد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے
قول سوم ہیں کہ یہ سورت اُس شخص (عاص بن وائل) کے رد میں نازل ہوئی تھی، جس نے
 آپ کو یہ طعنہ دیا تھا کہ محمد کی نسل منقطع ہو چکی ہے (صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم)۔ پس
 کوثر کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے حبیب کو اتنی اولاد مرحمت فرمائی ہے جو اُس وقت تک
 باقی رہے گی جب تک زمانہ باقی ہے۔ جائے غور ہے کہ کتنے اہل بیت اطہار نے جامِ شہادت

نوش کیا لیکن اس کے باوجود ساری دنیا ان حضرات سے بھری پڑی ہے۔ اس کے برعکس بنی امیہ سے کوئی ایک شخص بھی ایسا باقی نہیں رہا، جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ پھر ان کی طرف دیکھیں تو صاف نظر آتے گا کہ ان میں امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور نفسِ زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے کتنے ہی آسمانِ علم و عرفان کے شمس و قمر ہو گزرے ہیں۔

انکو ثر علماء امتہ وھو

کوثر سے علمائے امت محمدیہ مراد ہیں۔ خدا کی قسم یہ

بہت بڑی خیر ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے انبیائے کرام

کی طرح ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے ذکر مبارک کو زندہ اور باقی رکھتے ہیں اور دینِ مصطفویٰ

کے آثار کی نشر و اشاعت کرتے اور شریعتِ مطہرہ

کے اعلام کو بلند رکھتے ہیں۔ انبیائے بنی اسرائیل

کی طرح ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انبیائے کرام

معرفة الہی کے اصولوں میں متفق اور شرعی

احکام میں مختلف تھے۔ یہ مخلوق پر رحمت ہے تاکہ

ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق حاصل کر لے جیسا کہ

علمائے امت محمدیہ اصولِ شرع کے معاملے میں

باہم متفق ہیں لیکن شریعتِ مطہرہ کے فروعی

مسائل میں مختلف ہیں۔ یہ مخلوق پر رحمت ہے

اس (اختلاف) میں دو وجہ سے فضیلت

ہے۔

من وجہین۔ (ص ۱۶)

۱۔ ایک وجہ اُن میں سے یہ ہے، جیسا کہ روایت ہے:

بیشک بروز قیامت ہر نبی حاضر ہوگا اور پیچھے پیچھے

اُس کی امت ہوگی۔ بعض رسول ایسے بھی

ہوں گے جن کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں گے۔

انہ یجاء یوم القیامة بكل نبی

ویتبعہ امتہ فریما یجیئ

الرسول ومعہ الرجل والرجلان

و یجاء بكل عالم من علماء امتہ
صلی اللہ علیہ وسلم و معہ
الالوف العشرۃ فیجتمعون
عند الرسول صلی اللہ علیہ
وسلم فرہما یزید عدد متبعی
بعض العلماء علی عدد متبعی
لیکن اُمتِ محمدیہ کے ہر عالم دین کے ساتھ ہزاروں
افراد کا اثر و حام ہوگا اور سارے رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے چلے
جائیں گے۔ ایسا بھی ہوگا کہ بعض علمائے کرام
کے متبعین کی تعداد ایک ہزار انبیائے کرام کے
متبعین جتنی ہوگی۔
(الف من الانبیاء - (ص ۱۶۶)

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیائے کرام یقینی امر تک نصوص کا اتباع کرنے کے باعث پہنچ
جاتے تھے کیونکہ نصوص وحی سے ماخوذ ہوتے ہیں اور علمائے اُمتِ محمدیہ استنباط و اجتہاد
کی صلاحیت کے باعث صحیح حکم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر بعض کے کہنے کے مطابق بعض علماء
مخطی ہوں لیکن جو صحیح حکم تک نہ پہنچ سکے وہ بھی عند اللہ ماجور ہے۔
قول ختم نبوت ہے۔ اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ۔ لے
اور جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اُس نے
اللہ کا حکم مانا۔

اور یہ بنیادِ ایمان ہے بلکہ یہ شجرِ معرفتِ الہی کی شاخ کے مانند ہے، کیونکہ نبوت کی معرفت ذاتِ الہی
کی معرفت ہوتی ہے لہذا اُس کے علم و قدرت و حکم کا مقدم ہونا ضروری ہے۔ جب نبوت کی
معرفت حاصل ہو جاتے تو اس کے باعث باقی صفات یعنی سمع و بصر اور صفات خبریہ و وجدانیہ
کی معرفت بھی بقول بعض حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان مناقب و
فضائل سے وافر حصہ ملا ہے کیونکہ آپ مجملہ انبیائے کرام سے پہلے مذکور ہیں اگرچہ سب کے بعد مبعوث
ہوتے اور مجملہ جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ کا حشر مجملہ انبیائے کرام سے

پہلے ہوگا۔ آپ کی شریعت مطہرہ کا منسوخ ہونا جائز نہیں ہے اور آپ کے فضائل و کمالات حد و شمار سے باہر ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہاں بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کتاب کلمات تھے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ۖ

پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے۔

اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب بھی کلمات تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ۖ

اور جب ابراہیم کو اُس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب صحیفے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۖ

صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے۔

لیکن فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب باقی جملہ آسمانی کتابوں کی محافظ اور نگران ہے جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ۖ

اور اُن پر محافظ و گواہ

حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اہل اُک کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ ۖ

ان کے نام تو بتاؤ۔

لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام معجز نظام کے ذریعے مقابلہ کیا۔ ارشاد ربانی ہے:

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ۖ

تم نہ آؤ، اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں۔

۱۲۴ پ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۱۲۴

۱۲۵ پ ۶، سورہ المائدہ، آیت ۲۸

۱۲۶ پ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۸۸

۱۲۷ پ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۳

۱۲۸ پ ۳۰، سورہ الاعلیٰ، آیت ۱۹

۱۲۹ پ ۱، سورہ البقرہ، آیت ۳۱

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اُن کی کشتی کو پانی پر ٹھہرائے رکھا، تو سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نہر کے کنارے تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس عکرمہ بن ابوہل تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگا، اے محمد! اگر آپ سچے ہیں تو وہ پتھر جو نہر کے دوسرے کنارے پر ہے، اُسے بلائیے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ اُس پتھر نے مختارِ دو جہاں، سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی حرکت شروع کی اور پانی پر تیرتا ہوا بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو گیا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ رسولِ معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عکرمہ! کیا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ میں اُس وقت آپ کی تصدیق کروں گا جب یہ پتھر اسی طرح اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ خیز و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس پتھر کو واپس چلے جانے کا حکم فرمایا تو وہ پانی پر تیرتا ہوا اُسی طرح اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آگ سلامت والی ٹھنڈی کر دی تھی۔

نبیِ آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے عظیم معجزہ مرحمت ہوا۔ چنانچہ حضرت محمد بن طہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میرے اُپر کھولتی ہوئی ہانڈی گر گئی۔ میرے تمام جسم کی کھال اُتر گئی۔ میری والدہ محترمہ مجھے لے کر فوراً بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو گئیں۔ عرض کی: حضور! یہ حاطب کا بیٹا جل گیا ہے، جیسا کہ سرکارِ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تاجدارِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلے ہوئے جسم پر اپنا لعابِ دہن لگایا، ازراہِ شفقت اپنا دستِ مبارک پھیرا اور بارگاہِ خداوندی میں دعا کی: اے پروردگارِ عالم! اس کی تکلیف دور فرما۔ میں اُسی وقت بالکل تندرست ہو گیا، گویا میرے ساتھ کوئی واقعہ گزرا ہی

مے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے:۔

وَكَذَلِكَ أَثَرُ لِمَشْيِكَ فِي السَّيْرِ

وَالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ بِهٖ قَدَمَاكَ

نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بزرگی مرحمت فرمائی کہ اُن کے لیے زمین پر سمندر میں راستہ بنا دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارے سے آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کیا زمین اور آسمان کے معجزے میں زمین و آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے پانی جاری ہوا تو فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اُن پر بادلوں نے سایہ کیا تو فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ ملا تو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی نورانیت سے مشرق و مغرب بھی جگمگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اثر دیا تھا، لیکن ابو جہل نے جب سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بھاری پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تو اُسے آپ کے دونوں کندھوں پر دو اثر دے مٹھ آتے اور وہ مارے خوف کے دم دبا کر بھاگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں نے تسبیح بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ اقدس میں اور آپ کے اصحاب کے مبارک ہاتھوں میں پتھر تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تو اُن کے لیے نرم ہو جاتا۔ سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میل بکری پر ہاتھ پھیرا تو دودھ دینے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گرد پرندے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تو رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براق عطا فرما کر آپ کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ وہ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک یہودی

۱۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے : ۱۔

وَشَفَّيْتُ ذَ الْعَاهَاتِ مِنْ أَمْوَاضِهِ

وَمَلَأْتُ كُلَّ الْأَرْضِ مِنْ جَدِّ وَالْف

عورت نے بحری کے گوشت کے ساتھ آپ کی ضیافت کی اور اُس میں زہر ملا رکھا تھا۔ جب آپ نے لقمہ دہن مبارک میں رکھا تو لقمے نے آپ کو خبر دی کہ وہ زہر آلود ہے۔ نیز آپ نے مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا کے کاملہ سے ہمکنار کیا۔ روایت ہے کہ حضرت معاذ بن عفرارضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے مرضِ برص (کوڑھ) میں مبتلا ہونے کا حال عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی لے کر اُس کے جسم پر پھیری تو اللہ تعالیٰ نے اُس محترمہ سے برص (کوڑھ) پھل پھری کے مرض کو بالکل دور کر دیا۔

غزوہ اُحُد میں ایک شخص کی آنکھ (تیرنگنے سے) نکل گئی۔ وہ اُسے اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ تاجدارِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس کی آنکھ کو اُس کے اصلی مقام پر رکھ دیا تو وہ ایسے درست ہو گئی کہ گویا کوئی حادثہ پیش آیا ہی نہیں تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن چیزوں کو بتا دیا کرتے تھے جو لوگوں نے اپنے گھروں میں چھپا کر رکھی ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان لیا تھا، جو آپ کے چچا عباس اور چچی اُم الفضل نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب آپ نے اُس کے بارے میں خبر دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی معاملہ یہی کچھ ہے۔
(صلی اللہ علیک یا رسول اللہ)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سورج ڈبے ہوئے کو واپس لوٹا دیا تھا تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی گود میں سرِ اقدس رکھ کر استراحت فرما رہے تھے اور جس وقت آپ بیدار ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو واپس لوٹایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نمازِ عصر قضا ہو گئی تھی وہ اُنکھوں نے وقت کے اندر ادا کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بویاں سمجھ لیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ کمال مرحمت فرمایا تھا۔ چنانچہ روایت ہے کہ کوئی صحابی کسی پرندے کے بچے کو اٹھا لائے تھے۔ وہ پرندہ اڑتا ہوا آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے گرد اڑتا اور آپ سے اپنی زبان میں کچھ عرض کرتا رہا۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضرین کو

مخاطب کر کے فرمایا: اس پر بندے کے بچے کو تم میں سے کون اٹھا کر لایا ہے؟ ایک صحابی عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! میں اٹھا کر لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس کا بچہ اسے واپس دے دو اور بھیڑیے کا آپ سے گفتگو کرنا عام مشہور ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ صبح کو ایک ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے تو شبِ اسرا کے دولہا نے ایک گھڑی میں بیت المقدس تک فاصلہ طے کر لیا تھا۔ سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کا یعفور نامی گدھا ایسا تھا کہ جس شخص کو بلوانا مطلوب ہوتا تو یعفور کو بھیج کر اسے بلوایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے ایک سرکش اونٹ کی بارگاہِ رسالت میں شکایت کی اور بتایا کہ سخیِ بسیار کے باوجود اس پر قابو نہیں پاسکے ہیں۔ شہنشاہِ کونین اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ آپ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنے لگا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جانب پیغام رساں بنا کر بھیجا۔ جب وہ کسی غار کے قریب پہنچے تو وہاں ایک شیر بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ واپس لوٹنا بھی غیر محفوظ ہے، آگے بڑھے اور فرمایا: اے شیر! میں رسولِ عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ یہ سن کر شیر مطیع ہو گیا۔ جس طرح جناتِ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے اسی طرح وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی تابعِ فرمان تھے۔ ایک دفعہ کوئی اعرابی ایک مری ہوئی گاوہ لے کر بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گاوہ ایمان نہ لے آئے۔ گاوہ زندہ ہو کر کلام کرنے لگی اور اس نے نبیِ آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا براہِ اعتراف کیا۔

۱۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معجزات کا ذکر یوں کیا ہے:

وَالَّذِي نَبَّيْتُكَ وَالْغَزَا لَهٗ قَدْ أَتَتْ
وَكَذَّالُوحُوشُ أَتَتْ رَأْيَكَ وَسَلَّمَتْ
بِكَ تَسْتَجِيرُ وَتَحْتَمِي بِحِمَاكَ
وَشَكَالْبُعِيرُ رَأْيَكَ حِينَ رَأَى

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہرنی کی ضمانت دی (جو جال میں گرفتار تھی) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آجاؤں گی، اعرابی نے آپ کی ضمانت پر بہرنی کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُسی جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ بہرنی دوڑتی ہوئی حاضر ہو گئی اور سرور کون و مکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضمانت سے بری الذمہ کر دیا۔

جب فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے منبر تیار ہو گیا اور آپ اُس پر جلوہ افروز ہوئے تو اُس ستون (اُستمن حنائن) نے بچوں کی طرح گریہ وزاری شروع کر دی، جس ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اُس کا ردنا آپ کے فراق میں تھا۔ غارِ ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی اڑی میں ساپ نے ڈنگ مارا اور عرض گزار ہوا کہ حضور! میں ایک مدت دراز سے حبیبِ پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے اشتیاق میں یہاں گن گن کر ساعتیں گزارتا رہا ہوں۔ مجھے اس شرف سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے سے طعام سے کثیر خلقت کو شکم سیر کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے معجزات حد و شمار سے باہر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ترین بندوں میں سب سے مقدم فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھا ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ:

<p>لہ رلائے جبکہ چوب خشک کو حضرت کی مہجوری سُنی جب اُس ستونِ عاشقِ بیتاب کی زاری کوئی ایسا نہ تھا اُس بزم میں جس پر نہ تھی قیامت ادھر گرم فغاں تھا وہ ستوں صدے سے فرقت کے ستوں خاموش ہوتا تھا، نہ یہ رونے سے چھپتے تھے ستوں نے یہ کیے نالے کہ حتمِ حال سے اُس دم رسول اللہ کی الفتِ محبتِ عینِ ایمان ہے</p>	<p>کہو پھر عینِ غیرت سے نہ کیونکہ ہر بشر روئے رسول اللہ کے اصحاب کیسے اکس قدر روئے بہت روئے، نپٹ روئے، تمامی بیشتر روئے ادھر بہ شدتِ رقت سے باہد چشم تر روئے وہ آپیں مار چلایا، یہ دل کو کھول کر روئے شجر روئے، حجر روئے، سبھی دیوار و در روئے فراقِ مصطفیٰ ہیں اہلِ ایمان عمر بھر روئے</p>
---	---

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ - ۱۷
اور اے محبوب ایسا کرو، جب ہم نے نبیوں سے
عہد لیا اور تم سے اور نوح سے -

جب سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت ایسی ہے تو جائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ
اس کا نام کوثر رکھے اور فرمائے: إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرُ ۝

قول ششم ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
کوثر سے مراد قرآنِ کریم ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں جیسا کہ

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ يَمْدُ
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ - ۱۸
اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلمیں
ہو جائیں اور سمندر اُس کی سیاہی ہو، اُس کے
پیچھے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ
ہوں گی۔

نیز اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے:

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ
رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
بِمِثْلِهِ مَدَدًا - ۱۹
اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو
تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی
باتیں ختم نہ ہوں گی اگر ہم ویسا ہی اور اس کی
مدد کو لے آئیں۔

قول سہم کوثر سے مراد اسلام ہے اور خدا کی قسم اسلام میں خیرِ کثیر ہے، کیونکہ اس کے
ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور اسے چھوڑنا داریں کی
بھلائی سے محروم رہنا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اسلام معرفت ہی کا نام ہے یا معرفت
کی ضروری باتوں کو اسلام کہتے ہیں۔ ارشادِ ربّانی ہے:

۱۷ پ ۲، سورہ الاحزاب، آیت ۷

۱۸ پ ۲، سورہ لقمن، آیت ۲۷

۱۹ پ ۱۶، سورہ الکہف، آیت ۱۰۹

مَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ لَمْ يَكُنْ يُدْرِكُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بَعْدَ عَمَلٍ كَثِيرٍ ۚ

جب اسلام خیر کثیر ہے تو ثابت ہوا کہ کوثر یہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسلام کے ساتھ خاص کیوں فرمایا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب کے لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اسلام دوسروں تک پہنچا ہے پس آپ کی ذاتِ مقدسہ اسلام کے لیے اصل کی مانند ہے۔

قول ششم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے پیروکار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ قیامت میں میری شفاعت مقبول ہوگی۔ وہاں جب میں انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوں گا، تو لوگوں کا ایک بہت بڑا گردہ ظاہر ہوگا۔ ہم اُنہیں جلدی سے دیکھیں گے اور ہم میں سے ہر نبی یہی خواہش کرے گا کہ کاش! یہ میری امت ہو۔ وضو کا پانی لگنے کے باعث پنج کلیان نظر آ رہے ہوں گے یعنی اُن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ میں کہوں گا: ربّ کعبہ کی قسم یہ تو میری امت ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی لوگوں کی ایک جماعت اور ظاہر ہوگی۔ ہم اُسے بھی بغور دیکھیں گے اور ہم میں سے ہر نبی کی یہی خواہش ہوگی کہ یہ اُسی کی امت ہو۔ اُن کے اعضائے وضو بھی چمکتے ہوں گے اور میں کہوں گا: ربّ کعبہ کی قسم، یہ تو میری امت ہے۔ وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ پھر اُن جیسی تیسری جماعت ظاہر ہوگی۔ ہم اُنہیں بھی دیکھیں گے۔ اُن کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی کچھ بتایا جو پہلی دونوں جماعتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد فرمایا: میری امت سے یہ تینوں جماعتیں تمام مخلوق سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا: نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ اور مسلمانوں میں عددی کثرت پیدا کرو تاکہ میں تمہاری کثرت کے باعث تمام امتوں پر فخر کروں۔ خواہ کوئی بچہ حمل کی صورت میں ساقط ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سبب بھی فخر فرماتے تھے کہ جو سن بلوغ کو نہ پہنچے ہوں تو مسلمانوں کے حد و شمار سے باہر افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنا پسند فرمایا ہوگا اور اسی لیے فرمایا ہے:

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ۝

قول نہم کوثر سے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کثیرہ مراد ہیں۔ کیونکہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ تمام انبیائے کرام سے افضل ہیں۔ حضرت منقول بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ سخی اور صاحب خیر کثیر ہو اُسے کوثر کہا جاتا ہے۔ لغت کی کتاب صحاح میں ہے کہ جو سردار بہت زیادہ خوبوں والا ہو اُسے کوثر کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ایسے عظیم فضائل و کمالات سے نوازا ہے تو پسند فرمایا کہ بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمائے، اسی لیے اللہ جلّ شانہ نے فرمایا: إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ۝

قول دہم کوثر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی رفعت ہے اور اس کی تفصیل آیت کریمہ وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

قول یازدہم کوثر سے مراد علم ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کوثر کو اس معنی پر محمول کرنا قول یا ز دہم کئی وجہ سے اولیٰ ہے۔ وہ وجوہات درج ذیل ہیں:

۱۔ علم خیر کثیر ہے جیسا کہ اللہ جلّ شانہ نے فرمایا ہے:

لَعَنَ كَاشِحُ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اپنے نبی کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے خاندانی منصوبہ بندی کی لعنت کو مسلمانوں پر مستط کرنے سے باز آئیں۔ غیر مسلموں کی پٹی پڑھانے سے اپنے نبی کی مخالفت پر دن رات کمر بستہ رہنا کیسی مسلمانوں اور کہاں کی عقلمندی ہے؟ یہ عیاشی کو فروغ دینے کا شیطانی منصوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے بے غیرتی کے کاموں سے بچائے جو محض جگ ہنساؤ کا سامان ہیں۔

وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا
عَظِيمًا ۱۷ فضل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دعا مانگنے کا حکم دیا، مثلاً فرمایا:
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۱۸ اے میرے رب! مجھے زیادہ علم دے۔
اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کو خیر کثیر بتایا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۱۹ علی۔

۲۔ کوثر کو یا ہم اُخروی نعمتوں پر محمول کریں گے یا دنیاوی پر۔ اُخروی پر محمول کرنا اس وجہ سے
جائز نہیں ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا (یعنی یہ کام زمانہ ماضی
میں ہو چکا) اور جنت کی نعمتیں زمانہ مستقبل میں ملیں گی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بل چکی ہوں۔
پس کوثر کو اُن نعمتوں پر ہی محمول کرنا ہو گا جو آپ کو دنیا میں مل چکی ہیں۔ لیکن جتنی نعمتیں آپ کو
دنیا میں مرحمت فرمائی گئی ہیں، اُن میں علم سب سے اعلیٰ و اشرف ہے اور نبوت بھی علم میں
داخل ہے (کیونکہ نبوت بھی کمالاتِ علمیہ سے ہے)۔ پس اس لفظ (کوثر) کو علم پر محمول کرنا
واجب ہوا۔

۳۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر مرحمت فرمائی تو اُس کے بعد فرمایا کہ اپنے
رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ لیکن جو چیز عبادات سے مقدم ہے وہ معرفت ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ہے:

أَنْ أُنْذِرَكُمْ لَعْنَةَ آلِ عَادٍ ۲۰ یہ ڈرناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں اتو
أَنَا فَاتَّقُونِ ۲۱ مجھ سے ڈرو۔

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

بیشک میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی

فَاعْبُدْنِي۔ ۱۷

دونوں مقامات پر معرفت کا عبادت سے پہلے ذکر کیا ہے۔ نیز فصل میں فَاَتَعْقِبُ کے لیے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ کوثر کا عطا فرمانا ان عبادات کے موجب کی طرح ہے اور یہ معلوم ہے کہ عبادات کا موجب صرف علم ہے (لہذا کوثر کو علم پر محمول کرنا بھی مناسب ہے)۔

قول دوازدہم جس کا فائدہ ہر عالم اور جاہل، جانور اور عقلمند سب کو پہنچتا ہے۔ جہاں تک علم کے فائدے کا تعلق ہے اُس سے عقلاً ہی مستفیض و مستفید ہوتے ہیں لیکن اخلاقِ حسنہ کا نفع ہر کسی کے لیے عام ہے۔ پس لفظ کوثر کو اسی معنی پر محمول کرنا واجب ہے۔ فخرِ ذوالعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفع عام پہنچانے والے تھے اور اُمتِ محمدیہ کے حق میں تو گویا دالہ کی طرح تھے کہ اُن کے عقدے حل فرماتے، اُن کے مشکل امور میں کفایت کرتے بلکہ خوش خلقی میں یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ جب آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تو اُس وقت بھی آپ نے یہ دعا فرمائی :

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

قول سیزدہم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ

اور اللہ کا کام نہیں کہ اُجھیں عذاب کرے ،

جیت تک اے محبوب اتم اُن میں تشریف فرما ہو۔

۱۷ پ ۱۶ ، سورہ طہ ، آیت ۱۴

۱۸ پ ۹ ، سورہ الانفال ، آیت ۳۳

اور آخرت کے متعلق سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:
 شفاعتی لاهل الکبائر موت میری شفاعت میری اُمت کے اہل کبائر
 امتی۔ (ص ۱۴۹) کے لیے ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے فرمایا:

ان لكل نبی دعوة مستجابة مہر نبی ایک خاص دعا کی اجازت دیا گیا اور وہ
 ذاتی خیبات دعوتی شفاعت دعا قبول فرمائی گئی۔ میں نے قیامت میں اپنی
 لامتی یوم القیامة۔ (ص ۱۴۹) اُمت کی شفاعت کرنے کے لیے اپنی دعا
 چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ ۱

لفظ کوثر سے یہی سورت مراد ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ
قول چار دہم چھوٹی سی سورت (بظاہر قلت الفاظ و آیات) ہونے کے باوجود دنیا و
 آخرت کے ہر قسم کے منافع کی جامع اور کتنے ہی اعجاز پر مشتمل ہے؛
 ۱۔ جب ہم لفظ کوثر کو پیر و کاروں کی کثرت یا اولاد کی کثرت یا نسل کے منقطع نہ ہونے پر
 محمول کریں تو یہ غیب کی خبر ہے اور جیسی آپ نے خبر دی اُسی کے مطابق واقع ہوا، لہذا
 یہ معجزہ ہے۔

۲۔ ارشادِ ربانی ہوا: ”اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کر دو۔“ اس حکم میں زوالِ فقر و
 فاقہ کی جانب اشارہ ہے کہ مسلمان مالدار ہونے کے باعث قربانی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
 چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ اور یہ بھی غیب کی خبر ہونے کے باعث معجزہ ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا وہ دشمن (عاص بن وائل) جو تم پر عیب چسپاں کر رہا ہے،

۱۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ گزار ہوئے، ۲

فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيهِ عِنْدَ حَسَابِهِ
 فَلَقَدْ غَدَّ اُمْتَمَسِكَ بِعُذْرِكَ

اُسی کی نسل منقطع ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (یہ بھی غیب کی خبر ہونے کے سبب معجزہ ہے)۔
 ۴۔ اس سورت کے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی مخالفین اس سے معارضہ نہ کر سکے۔
 ثابت ہوا کہ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ وہ اول سے آخر تک سراسر اعجاز ہے، جو اس میں
 رکھا گیا ہے، اسی لیے تو چھوٹی سورت ہونے کے باوجود معاندین اس سے معارضہ نہ کر سکے، تو
 سارے قرآن مجید کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہونا اور بھی واضح ہے۔ جب ان وجوہات کے تحت
 قرآن کا اعجاز ظاہر ہوا تو آپ کی نبوت ثابت ہو گئی۔ نبوت کے ثابت ہونے سے توحید
 باری تعالیٰ، معرفتِ صالحِ حقیقی، دینِ اسلام اور قرآن کریم کا کلامِ الہی ہونا ثابت ہو گیا۔
 اور جب یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ثابت ہو گئیں۔ لہذا یہ سورت
 ایک مختصر نکتے کی مانند ہے، جو تمام مقاصد کو ثابت کرنے میں قوی اور کافی ہے۔ پس یہ د بلحاظ
 الفاظ) دیکھنے میں چھوٹی اور معانی و مطالب کے لحاظ سے بہت بڑی سورت ہے۔ پھر اس
 میں ایک خاصیت یہ بھی ہے جو دوسری کسی سورت میں نہیں پائی جاتی کہ اس کی تین آیتیں ہیں
 اور ان میں سے ہر آیت میں بھی معجزہ ہے اور یہ خاصیت تمام سورتوں میں نہیں پائی جاتی۔ بایں
 وجوہات یہ احتمال موجود ہے کہ لفظ کوثر سے یہی سورت مراد ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ کوثر سے
قول پانزدہم مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
 مرحمت فرمائی گئیں، کیونکہ لفظ کوثر کثیر نعمتوں کو شامل ہے۔ لہذا اس لفظ کو بعض نعمتوں پر
 محمول کرنا اور باقی نعمتوں کو نظر انداز کر دینا اولیٰ نہیں ہے۔ پس واجب ہوا کہ اسے کل پر
 محمول کیا جائے۔

روایت ہے کہ جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کیا تو بعض حضرات کہنے لگے
 کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 فرمایا کہ وہ نہر جو جنت میں ہے وہ بھی اُسی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی ہے۔

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ اَلْكَوْثَرَ کا ظاہر مفہوم اس کا مقتضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثر مرحمت فرمایا ہے تو ضروری ہوگا کہ اس کو قریبی مفہوم پر محمول کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت، قرآن، ذکر حکیم اور دشمنوں کے مقابلے میں نصرت سے نوازا ہے۔ علاوہ بریں حوض کوثر اور وہ تمام ثواب جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اگر اُسے بھی کثر کے مفہوم میں داخل مانا جائے تو جائز ہے کیونکہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہو وہ واقع ہونے کی طرح ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تیار فرمائی گئی ہیں لیکن یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں اس سورت کے نزول کے وقت وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمادی گئی تھیں۔ ممکن ہے اس کا یہ جواب دیا جائے کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کے لیے کسی قسم کے سامان کا وعدہ کرتا ہے تو یہ کہنا صحیح تصور کیا جاتا ہے کہ اُس نے سامان بچے کو دے دیا ہے، حالانکہ اُس حالت میں بچہ تصرف کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

رہا ارشاد الہی فَصَّلْ لِرَبِّكَ ذَا نَحْرٍ تو اس میں کئی مسئلے ہیں،

پہلا مسئلہ: اللہ تعالیٰ کے حکم فَصَّلْ سے مختلف مفہوم مراد لیے گئے ہیں،

۱۔ اس سے مراد نماز کا حکم ہے۔

۲۔ فَصَّلْ لِرَبِّكَ سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یہ مجاہد اور عکرمہ کا قول ہے۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فَصَّلْ لِرَبِّكَ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو، کیونکہ نماز بھی دعا ہے۔

دوسرا مسئلہ: ارشاد الہی: ذَا نَحْرٍ سے مراد نَحْرُ الْبُذُنِ یعنی اُونٹوں کی قربانی ہے۔ عام مفسرین کرام کا یہی قول ہے۔

تیسرا مسئلہ: جن حضرات نے فَصَّلْ سے نماز مراد لی ہے، اُن سے اختلاف کیا گیا ہے،

۱۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے جس نماز مراد لی ہے کیونکہ مشرکین مکہ خدا کے ہوا فسخی

معبودوں کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خدا کے سوا کسی اور کے لیے نماز نہ پڑھو اور غیر اللہ کے لیے قربانی نہ کرو۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے عید کی نماز اور قربانی مراد لی ہے، کیونکہ لوگ قربانی کو نماز پر مقدم رکھتے تھے لہذا اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

۳۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھو اور قربانی منیٰ میں کرو وَقَصِّلْ لِسَرَّيْكَ وَمَا نَحَرُ سے یہی مراد ہے۔

اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اور بھی فوائد ذکر کر کے إِنَّ شَأْنِيكَ هُوَ الْآبِتُّ کی تفسیر بیان کی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کے فوت ہو جانے پر کافروں نے آپ پر طعن کیا کہ وہ آبِتُّ (مقطوع النسل) ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بغیر کسی واسطے کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا دشمن و شاتم ہی مقطوع النسل ہے۔ دوستی کا و طیرہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک دوست یہ سنا ہے کہ اُس کے دوست کو گالی دی جا رہی ہے تو خود اُس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ یہاں بھی حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی کتنے ہی مواقع پر اس طرح جواب دینا مذکور ہے مثلاً ایک موقع پر کسی کافر نے اعتراض کیا جو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے:

هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ
إِنَّمَا مَزِقْتُكُمْ كُلَّ مَزْقٍ إِنَّكُمْ
لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ أَفَتُرَىٰ عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ لَه

کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتائیں جو تمہیں خبر دے کہ
جب تم پر زہ ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو
پھر تمہیں نیا بننا ہے۔ کیا اللہ پر اُس نے
جھوٹ باندھایا اُسے سودا ہے۔

اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بَلَّغُوا هُتُورَهُمْ جَوَافِرًا ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ لَنَرْفَعَنَّ لَهُمْ سُلٰلٰتًا ۙ فَتُحْمَلُونَ عَلَيْهَا لِمَ لَا تَعْلَمُونَ ۙ
 فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝
 دور کی گمراہی میں ہیں۔

اور جس وقت کافروں نے اُس معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ مجنون (دیوانہ) استعمال کیا تو اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر فرمایا:

مَا أَنتَ بِمَجْنُونٍ ۖ رَبِّكَ بِمَا تُكَذِّبُكَ لَٰعِبٌ ۚ تَمِمْ رُبَّكَ فَتَكُونَ مِنَ الْمَكْذُوبِينَ ۝
 تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔

جس وقت کافروں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لَسْتُ مُوسًّٰیؑ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا:

لَيْسَ ۚ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝
 حکمت والے قرآن کی قسم، بیشک تم سیدھی
 راہ پر بھیجے گئے ہو۔

جب کافروں نے فخر و وعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا:

أَنَّا لَنَسَاءٌ ۙ أَوْ لَشَاعِرٌ ۖ فَلْيَمْلِكْ بِكُمُ الْيَوْمَ إِلَٰهَتُنَا ۚ إِنَّكُم مِّنْجُنُونٍ ۖ
 کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑیں ایک دیوانے
 شاعر کے کہنے سے۔

تو اللہ رب العزت نے اُن کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۝
 بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں
 کی تصدیق فرمائی ہے۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تصدیق فرمائی پھر آپ کے دشمنوں کو یوں وعید سنائی:

إِنكُم لَكَاذِبُونَ ۖ لَٰئِكُمُ الْعَذَابُ ۖ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَتَكُونَ مِنَ الْمَكْذُوبِينَ ۖ
 بیشک تم جھوٹے ہو۔ بیشک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک اعتراض کو یوں بیان کیا ہے:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ۱۵ پ ۲۲ ، سورہ السبا، آیت ۸ | ۱۵ پ ۲۹ ، سورہ القلم ، آیت ۲ |
| ۱۵ پ ۲۲ ، سورہ یس ، آیت ۴۴ | ۱۵ پ ۲۳ ، سورہ الصافات ، آیت ۳۶ |
| ۱۵ پ ۲۳ ، سورہ الصافات ، آیت ۳ | ۱۵ پ ۲۳ ، سورہ الصافات ، آیت ۳۸ |

آم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهٖ ذَيْبَ الْمَنُونِ ۝ ۱۷
یا کہتے ہیں، یہ شاعر ہیں۔ ہمیں ان پر حواشی زمانہ کا انتظار ہے۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ طَرَانٌ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝ ۱۸
اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔

اللہ تعالیٰ نے اُن کے ایک باطل قول کی یوں حکایت کی ہے:
إِنَّ هَذَا إِلَّا فُكٌّ لِّفِتْرَةٍ ۝ ۱۹
یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انھوں نے بنایا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انھیں مدد دی ہے۔

اللہ جل شانہ نے اُن کے باطل قول کی تکذیب و تردید کرتے ہوئے فرمایا:
فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا ۝ ۲۰
بیشک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔

جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا:
مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ
الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ فِي الْأَسْوَاقِ ۝ ۲۱
اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اُن معترضین و معاندین کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفَّاءُ لِّمَا كُفَّوْا ۝ ۲۲
اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے، سب ایسے ہی تھے کہ کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے۔

اس میں فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس درجہ بزرگی کا راز پنہاں ہے۔ اس کے بعد

۱۷ پ ۲۳، سورہ یس، آیت ۶۹

۱۸ پ ۱۸، سورہ الفرقان، آیت ۲

۱۹ پ ۱۸، سورہ الفرقان، آیت ۲۰

۱۷ پ ۲۴، سورہ الطور، آیت ۳۰

۱۸ پ ۱۸، سورہ الفرقان، آیت ۲

۱۹ پ ۱۸، سورہ الفرقان، آیت ۲

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کتنے ہی فائدے بیان کیے ہیں اور ان کے آخر میں فرمایا ہے کہ اس سورت کی خصوصیات اور لطائف میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر کافر نے کوئی نہ کوئی الزام لگایا، چنانچہ کسی نے کہا: ان کا بیٹا کوئی نہیں۔ کسی نے کہا: ان کا کوئی معین و مددگار نہیں۔ اور کوئی کہتا تھا کہ ان کا ذکر دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسے لفظوں سے مدح فرمائی جن میں سارے فضائل و کمالات جمع ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا: **إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ** معلوم ہوا کہ:

لأنه لما لم يقيد ذلك بالكثرة
بشيء دون شيء لاجتماع تناول
جميع خيرات الدنيا والآخرة
مقتبذ نہیں کیا گیا تو ضروری ہوا کہ یہ دنیا اور
آخرت کی ہر ایک بھلائی کو شامل ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ساری عمر اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں۔ اطاعت یا بدنی ہوگی یا قلبی۔ بدنی اطاعت بدنی عبادتوں سے افضل ہیں، کیونکہ جسمانی اطاعت نماز اور مالی طاعت زکوٰۃ ہے۔ قلبی اطاعت یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لیے کیا جاتے کیونکہ لفظ **لِيَرْضَاكَ** اس پر صریح دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی خبردار کر دیا کہ قلبی طاعت کا حصول بدنی طاعت کے بعد ہوتا ہے کیونکہ بدنی طاعت کا ذکر پہلے ہے اور دوسرا لام قلبی طاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں اہل اباحت کے مذہب کا فساد بھی ظاہر فرما دیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان قلبی طاعت کے باعث بدنی عبادتوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ یہ لام اہل اباحت کے مذہب کو باطل قرار دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اخلاص نہایت ضروری ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو رب کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب رفیع اور اعلیٰ حال سے خبردار کیا ہے جو آپ کو آخرت میں حاصل ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب! میں نے تمہارے دنیا میں موجود ہونے سے پہلے بھی تمہاری تربیت کی ہے تو اب جبکہ تمہارا ہر لمحہ ہماری اطاعت گزار ہی میں بسر

ہو رہا ہے، بھلا ایسی حالت میں تمہیں بے یار و مددگار کیسے چھوڑا جاسکتا ہے؟
 اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
 اپنی نعمتوں سے مالا مال رکھنے کا یقین دلایا اور سورۃ کے آخر میں اس بات کا ذمہ لیا کہ آپ کی
 طرف سے ہر ایک عیب لگانے والے، بدگوئی کرنے والے دشمن اور ان کے باطل اقوال
 اللہ جل شانہ، خود بٹے گا۔ اس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ نعمتیں عطا فرمانے میں اللہ تعالیٰ ہی
 اول ہے اور دنیا و آخرت کی ہر نعمت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی بھی اُسی منعم حقیقی کی ذات کا
 واللہ سبحانہ، و تعالیٰ اعلم۔

عارف کبیر حضرت عظیم بن فارض

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے

فہرست کرامی

قصیدہ تائیتہ الکبریٰ مع شرح

حضرت عمر بن فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ (المتوفی ۶۳۲ھ) اپنے قصیدہ
تائیتہ الکبریٰ میں حضرات مرسلین عظام علیہم السلام کے بعض معجزات کا ذکر کر کے اور بتایا ہے
کہ یہ جملہ معجزات فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو حاصل تھے۔ چنانچہ
وہ فرماتے ہیں:

- | | | |
|---|---|---|
| ۱ | سبذک علا الطوفان نوح وقد نجا
به من نجا من قومه فی السفینۃ
وغاض له ما فاض عنه استجادة
وجد الی الجودی بہا فاستقرت
وسار ومتن الريح تحت بساطہ
سلیمان بالجیشین فوق یسیطہ
وقبل ارتداد الطرف احضر من سبا
له عرش بلقیس بغیر مشتقہ
واخذ ابراہیم نار عدوہ
وعن نوره عادت له روض جنۃ
ولما دعا الاطیار من کل شاہق
وقد ذبحت جائتہ غیر عصیۃ
ومن یدہ موسیٰ عصاہ تلقفت
من السحرا ہوا الی النفس شقت
ومن حجر احرى عیونا بضربہ
بہادیمًا سقت وللبحر شقت | آپ کے سبب نوح علیہ السلام طوفان پر غالب رہے
اور کشتی میں جو ان کے ساتھ رہا اسی نے نجات پائی۔
اور وہ کثرت سے بہنے والا پانی ان کے لیے خشک ہو گیا۔
وہ کشتی کو جودی پہاڑ کی جانب لے گئے جہاں وہ ٹھہر گئی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں لشکروں سمیت فضاؤں
کی سیر کی اور ان کا بستر ہوا کی پشت پر ہوتا تھا۔
ان کے حضور بلقیس کا تخت، سابقیل سے بغیر کسی مشقت
کے چشمِ زدن میں حاضر کر دیا گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دشمن کی آگ کو بجھا دیا اور
آپ کے نور سے وہ ان کے لیے جنت کا باغ بن گئی۔
جب انھوں نے مذبح پر ندوں کو پہاڑ کی ہر چوٹی سے
بلایا تو وہ نافرمانی کیے بغیر حاضر بارگاہ ہو گئے۔
اور آپ کے ہاتھ سے عصائے موسیٰ نے جادو کے ان
سانپوں کو نگل لیا جو جان پر بنا دینے والے تھے۔
ایک ضرب کے ساتھ پتھر سے پانی کے چشمے بہنے لگے گویا
وہ سیراب کرنے والی بارش تھی اور ان کیلئے سمندر بھٹ گیا۔ |
|---|---|---|

و یوسف اذ ألقى البشير قبضه ۹ اور بشارت دینے والے نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی
علی وجه یعقوب الیہ بأوبہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پٹ کر ڈالی۔
سأه بعین قبل مقدمه بکی ۱۰ انھوں نے آنے سے پہلے اسے دیکھ لیا تھا، شوقِ ملاقات
علیه بهاشوقاً الیہ فکفت میں روتے رہے کہ آنکھ رگ گئی۔

وفی ال اسرائیل ما ئدة من ۱۱ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر آلِ اسرائیل میں آسمان
السماء لعیسی انزلت ثم مدت سے دسترخوان نازل ہوا اور وہ بچایا گیا۔

ومن اکمه أبری ومن وضح علی ۱۲ پیدا ہونے کی نجات دی اور بڑھنے والے مرض
شقی واعاد الطین طیراً یتفخه (کوڑھ) سے شفا دی اور مٹی کے پرے کو چوہ بن کر اڑا دیتے۔

و ستر انفعالات الظواهر باطناً ۱۳ ان ظاہری معجزات کا باطنی بھید آپ (سید المرسلین) ہیں جو
عن الاذن ما اقلت باذنک صیغت بھی صورت آپ کے کان میں ڈالی گئی ہو۔

وجاء باسرار الحبیب مفیضها ۱۴ آپ (سارِ انبیائے کرام کے) تمام اسرار لے کر تشریف لائے اور
علینا لهم ختماً علی حین فترة اس وقت ہمیں مستفیض فرمایا جبکہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ منقطع تھا۔

ان اشعار کے شارح شیخ عبدالرزاق کاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ معجزات اور ان کے
مثل وہ دوسرے بے شمار جو دیگر انبیائے کرام سے ظاہر ہوئے، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم میں سارے پائے جاتے ہیں جیسا کہ شیخ عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے آخری شعر
میں فرمایا ہے کہ: وجاء باسرار الحبیب مفیضها۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تمام انفعالات کے اسرار لے کر جلوہ آرائے گیتی ہوتے اور وہ انفعالات ہی اُن معجزات کے
آثار ہیں جو انبیائے کرام کو حاصل تھے۔ ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
پرنیوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خاتم ہونے کے سبب آپ نے یہ واضح فرمادیا کہ آپ نے
انبیائے کرام کے اُن تمام اسرار کو جمع کر لیا ہے جو آثار کے مبادی اور انفعالات ہیں کیونکہ:

جميع القرآن هو صورة تفاصيل سارا قرآن کریم ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

احوالہ و اخلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و کمالات کی تفصیلی صورت ہے، جیسا کہ

كما قالت عائشه رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا

حین مثلت عن خلق رسول الله جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا۔ (انہوں نے
القرآن فجمیع الانبیاء مظاهر فرمایا کہ) قرآن آپ کا خلق تھا۔ پس سارے
تفاصيل احواله و اخلاقہ انبیائے کرام آپ کے حالات و کمالات کے تفصیلی
علیہ الصلوٰۃ والسلام مظاہر ہیں۔ علاوہ بریں ہر نبی اور رسول آپ کے
قد بد اللخلق فی صورۃ کل نبی اسرار میں سے کسی ایک ستر کے ساتھ مخلوق کے لیے
ومرسل ستر من اسرارہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور
علیہ وسلم و کان ای ذلک النبی ہر نبی جو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے
داعیاً الی اللہ تعالیٰ قومہ بذلک دنیا میں تشریف لایا وہ اسی بھید کے باعث محمد
الستر بتبعیۃ الرسول علیہ الصلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماتحتی میں اپنا
والسلام کہا قال ای ابن فارض فرض ادا کرتا رہا، جیسا کہ ابن فارض رضی اللہ تعالیٰ
رضی اللہ عنہ۔ (صفحہ ۱۸۳) عنہ نے فرمایا ہے کہ:

وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا وَقَدْ كَانَتْ دَاعِيًا
بِهِ قَوْمَهُ لِلْحَقِّ عَنْ تَبْعِيَّةٍ

یعنی کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہو مگر وہ آپ کا تابع
ہو کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس طرح باقی انبیائے کرام آپ کے تفصیلی
اسرار کے باعث اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بن کر آئے تھے اسی طرح فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے علمائے کرام اس بات میں پہلے انبیائے کرام کی طرح ہیں کہ یہ
بھی آپ کے اتباع میں مخلوق خدا کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان حضرات
نے سرور کون و مکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسرار و احوال و اخلاق کی تفصیل سے علی قدر مراتب
حقتہ پایا ہے، لیکن انہیں نبی پرگز نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد
پیدا ہوئے جبکہ باقی انبیائے کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ امام
ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں فرمایا ہے:

وَأَهْلُ تُلُقَى الرُّوحِ بِأَسْمَى دَعْوَا إِلَى
سَبِيلِي وَحُجَّوَا الْمُتَّحِدِينَ بِحُجَّتِي

اس کے شارح امام کا شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تُلُقَى سے مراد پکڑنا اور تُلُقَى الرُّوح سے انبیائے کرام مراد ہیں۔ سادہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور سَبِيل سے مراد طریق توحید، اسم سے مراد اسمائے الہیہ ہیں جو ہر ایک شے پر غالب ہیں، جس کے ساتھ ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو دعوتِ حق دی اور اُس نبی کا اعجاز اسی اسم کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے اسم مَحْيٰی ہے جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مُردوں کو زندہ کیا اور اپنی قوم کو اس معجزے کی مثل لانے سے عاجز کر دیا، جو اُن کی نبوت و صداقت کی دلیل ہوا اور اُس کے باعث منکرین پر غلبہ پایا اور حُجَّت کے ساتھ غالب رہے۔ مُلْحِذٌ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ اور دینِ مستقیم سے پھرے ہوئے ہوں۔

انبیائے کرام علیہم السلام نے جبریل علیہ السلام سے وحی حاصل کر کے مخلوقِ خدا کو راہِ توحید کی جانب دعوت دی، جن اسمائے الہیہ کی خصوصیت اُنہیں مرحمت فرمائی گئی ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اسمِ الہی خالق، مَحْيٰی اور مَبْرُئٰی کے ذریعے قوم کو دعوت دی جیسا کہ یہ ارشادِ الہی اس بات پر دلالت کرتا ہے:

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ - لہ اور جب تو مٹی سے بناتا ہے۔

اور وہ میری حجت کے ساتھ منکرین پر غالب آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اُن سے مطالبہ کیا کہ ان معجزات کی مثل پیش کریں۔ وہ سعیِ بیار کے باوجود اُن کی مثل لانے پر قادر نہ ہوئے۔ انبیائے کرام نے حجّتوں کو صدور کے لحاظ سے اپنی جانب منسوب کیا اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب حکایت کی اس کے بعد امام ابن فارض نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے فرمایا ہے:

وَكَلَّمَهُمْ عَنْ سَبْتِي مَعْنَايَ دَائِرُ

بِدَايَتِي أَوْ وَارِدٌ مِّنْ شَرِيعَتِي

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ كَلَّمَهُمْ سے دیگر سارے انبیائے کرام اور مَعْنَايَ سے

حقیقت محمدیہ مراد ہے جو تمام انبیائے کرام کی روحوں سے مقدم ہے اور بَدَا اُتَوَتْ سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ امام ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باقی تمام انبیائے کرام سے مقدم ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے یوں بیان کیا ہے:

وَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ ابْنُ آدَمَ صُورَةً

فَلِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٌ بِأَبَوْتِي

امام کا شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ: میں دَسِّد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اصل اور اُن کا معنوی باپ ہوں، اگرچہ ظاہر صورت میں اُن کی فرع اور بیٹا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ اور آپ کی معنویت وہ روح اضافی ہے جس سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور معنویت یہی ہے۔ پس حقیقت محمدیہ ہی حقیقت آدم کی اصل ہے۔ اس کے بعد امام ابن فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے:

ونفسی عن حجر التلی برشدھا ۱۹ میرا نفس ہدایت یافتہ ہونے کے باعث زیب زینت

وتخلت وفي حجر التلی تربت کی قید سے آزاد ہے اور تلی کے گھیرے میں متواضع ہے۔

وفي الہمد حزب الانبیاء وفي عنا ۲۰ گوارے میں بھی میری جماعت انبیائے کرام پر مشتمل تھی

صری لوجی المحفوظ والفتح سبورتی اور میرے عناصر میں میری لوح محفوظ اور سورہ فتح ہے۔

وقبل فصالی دون تکلیف ظاہری ۲۱ دودھ چھوڑنے اور تکلیف ظاہری سے قبل میں نے اپنی شریعت

ختمت لبشری الموضعی کل شرعة کے ساتھ ہر شریعت کو ختم کر دیا تھا۔

فہم والالی قالوا بقولہم علی ۲۲ پس وہ اور جنہوں نے اُن جیسی بات کی (یعنی ادیباء)

صراطی لم یعدوا مواطی مشیتی وہ میری راہ پر ہیں اور میرے قدموں کے نشانات آگے نہیں بڑھتے۔

امام کا شافی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن انبیائے کرام نے شریعتوں کو

لے اسی لیے امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: ۷

ظاہر میں میری شکل حقیقت میں میری اصل

اس شکل کی یاد میں یہ صدا بوالبشر کی ہے

واضح طور پر بیان کیا اور جن حضرات نے اُن کی نشر و اشاعت کی اور اپنے نبی کی شریعت سے تمسک کیا، ایسے لوگ اولیاء اللہ اور میرے سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ میرے نقوش قدم سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اُن میں سے ہر ایک کے اندر میں ایک معین وصف اور اسم خاص کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہوں۔ میں اُن کے ذریعے اپنے لوصاف اور اسماء کا مظاہرہ کرتا رہتا ہوں۔ پس حقیقت میں صراطِ مستقیم پر چلنے والا نہیں ہوں اور باقی سب میرے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات جو انبیائے کرام اور اولیائے عظام میں منقسم ہو کر متفرق ہو چکے تھے آپ کی ذات میں علی وجہ الکمال جمع ہوئے، لہٰذا وہ تمام حضرات آپ کے زیر تصرف آ گئے (کیونکہ اُن میں سے ہر ایک آپ کی فرع ہے اور ہر کوئی اسی آسمانِ کمال کے مہر درخشاں سے منور ہو کر اپنی تابانی دکھاتا رہا ہے)۔ اسی لیے امام ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں فرمایا ہے:

فِيْمَنْ الدَّعَاةُ السَّابِقِيْنَ عَلَيَّ فِي ۲۳ مجھ سے پہلے اللہ کی طرف بلانے والوں کی برکت میرے دائیں یہی دینی ولیس واللاحقین بیسرتی ہاتھ میں ہے اور بعد والوں کی آسانی میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اَلْاَمْرَ عَنِيْ خَارِجًا ۲۴ حکم کو مجھ سے خارج شمار مت کرو، کیونکہ کوئی اُس وقت فساد الا داخل فی عبودتی تک مزار نہیں ہو سکتا جب تک میری تابعداری نہ کرے۔

امام کا شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دعوت و تکمیل کے کام کو مجھ (نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے باہر گمان نہ کرنا کیونکہ جب تک کوئی میرا طاعت گزار اور پیروکار نہیں بن جاتا اُس وقت تک کسی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا کیونکہ میں قطب وجود، اصل شہود اور ماخذ العہود ہوں، جیسا کہ امام ابن فارض علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے:

فَلَوْلَا اَنِّيْ لَمْ يُوْجَدْ وُجُوْدٌ وَ لَمْ يَكُنْ

شُهُوْدٌ وَ لَمْ تَعْبُدْ عُمُوْدٌ بِذِمَّتِيْ

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ موجودات کے ہر وجود کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود ہے کیونکہ آپ ساری کائنات کے لیے رُوحِ اعظم کی صورت میں ہیں اور آپ ہی رابطہ ایجاد ہیں۔

مکاشفہ والوں کو شہود کی نعمت عظمیٰ آپ ہی کے سبب ملتی ہے، کیونکہ شہود رُوح کی صفت اور
 فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رُوح مقدس تمام رُوحوں کی اصل ہے۔ اسی طرح معاہدوں
 کی رعایت اور ذمہ داری کا پورا کرنا بھی آپ کے باعث ہے، کیونکہ پہلے آپ کے لیے ہی روزِ عیشاق
 میں وعدہ لیا گیا تھا، جو بعد میں پورا ہوا۔ پس یہ ہر عہد کرنے والے نے اپنے اُس عہد کو پورا کیا جو
 روزِ اول اُس سے عہد لیا گیا تھا۔ یہ عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد سے مستفاد ہے،
 پھر امام ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجمال کی تفصیل پیش کرنے کی خاطر شرح و بسط سے
 لکھا ہے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے فرماتے ہیں:

فلاحی الا عن حیاتی حیاتہ ۲۶ کوئی زندہ نہیں مگر وہ میری حیات سے زندہ ہے اور ہر ایک
 وطوع مرادی کل نفس مریدۃ صاحب ارادہ میرے ہی مقصد کی پیروی کرتا ہے۔

ولا قائل الا بلفظی محدث ۲۷ کوئی بولنے والا نہیں مگر وہ میرے لفظوں سے بولتا ہے
 ولا ناظر الا بناظر مقلتی اور کوئی دیکھنے والا نہیں مگر میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔

ولا منصت الا بسامعی سامع ۲۸ ہر خاموشی سے سننے والا میرے ہی کان سے سنتا ہے اور
 ولا باطش الا بازلی و شدتی ہر کپڑے والا میرے ہی حکم سے پکڑتا ہے۔

ولا ناطق غیری ولا ناظر ولا ۲۹ میرے سوا نہ کوئی بولنے والا ہے اور نہ دیکھنے والا اور نہ
 سمیع سوائی من جمیع الخلیقۃ نہ ساری مخلوق میں میرے سوا کوئی سننے والا ہے۔

تاریخ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ کا وجود پاک
 عالم شہادت، عالم غیب، عالم ملکوت اور عالم جبروت سب کو شامل ہے اور آپ کے ظہور کے
 عموم کو انہام موصوف نے یوں بیان فرمایا ہے:

وفی عالم الترتیب وفی کل صوره ۳۰ عالم ترتیب (عالم شہادت) کے اندر میں ہر صورت میں
 ظہرت بمعنی عنہ بالحسن نہایت اس انداز سے ظہور پذیر ہوئی کہ میرے حسن نے سب کو فریاد کر رکھا

وفی کل معنی لم تبہ مظاہری ۳۱ میں ہر اُس معنی میں جلوہ گرا اور متصور ہوں جو سیرِ مظاہر
 تصورت لا فی ہیئۃ ہیكلیۃ ظاہر کرتے ہیں لیکن جسمانی ہیكل میں نہیں۔

وفیما تراه الروح کشف فراستہ ۳۲ اور رُوح جنہیں فراست کے کشف سے دیکھتی ہے لطیف

خفیت عن المعنی المعنی بدقتہ ہونے کے باعث اُن میں معانی کی طرح چھپا ہوا ہوں۔

امام کا شافی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ اشعار کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ میں عالم شہادت کے اندر، جو ترکیب اور صورتوں کی دنیا ہے، ہر صورت میں اپنا حسن و جمال دکھا رہا ہوں، جس سے صورتیں مرتیں ہیں اور عالم غیب جو عالم شہادت کا باطن ہے، اُس میں ہر معنی کا مقصود ہوں۔ ظاہری وجود جو میرے مظاہر ہیں وہ مقصود کو ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں میں معنوی شکل سے متصور ہوں جسمانی ہیکل میں نہیں اور عالم ملکوت و عالم جبروت جو باطن کا اور غیب کا غیب ہے وہاں فکری صورت سے اپنی لطافت کے باعث اسماء و صفات کی صورت میں چھپا ہوا ہوں، جس کو کشف، فراست اور ہدایت کے طور پر روح دیکھتی ہے، جو محتاج فکر و نظر نہیں۔ یعنی میں وہ ذات ہوں جو حشر کے لیے صورتِ حشر میں، عقل کے لیے صورتِ عقلیہ میں اور روح کے لیے روحانی صورت میں موجود ہوں لیکن روحانی صورت میں عقل سے مخفی ہوں جو معانی مطلوبہ کا ادراک کرتی ہے جیسے صورتِ عقلیہ میں جو اس سے پوشیدہ ہوں جو صورتوں کا ادراک کرتے ہیں۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔

لے ان مضامین کو مجدد مآثر حاضرہ قدس سرہ نے یوں بیان کیا ہے:

زمین و زمان تمھارے لیے، مکین مکان تمھارے لیے	چنیں و چناں تمھارے لیے، بنے دو جہاں تمھارے لیے
دہن میں زبان تمھارے لیے، بدن میں ہے جاں تمھارے لیے	ہم آئے یہاں تمھارے لیے، اُٹھیں بھی وہاں تمھارے لیے
فرشتے خدم، رسولِ حشم، تمام اُمم غلامِ کرم	وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمھارے لیے
اصالتِ گل، امامتِ گل، سیادتِ گل، امارتِ گل	حکومتِ گل، ولایتِ گل، خدا کے یہاں تمھارے لیے
تمھاری چمک تمھاری دمک، تمھاری جھلک، تمھاری ہلک	زمین و فلک سماں و ملک میں سگے نشان تمھارے لیے
وہ کنزِ نہاں یہ نورِ فشاں، وہ گن سے عیاں یہ بزمِ فکاں	یہ ہر تن و جاں، یہ باغِ جناں، یہ سارا سماں تمھارے لیے
یہ شمس و قمر، یہ شام و صبح، یہ برگ و ثمر، یہ باغ و ثمر	یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمھارے لیے

نہ روحِ امیں، نہ عرشِ بریں، نہ لوحِ مبیں، کوئی بھی کہیں

خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمھارے لیے

خدا بھی نہیں ہو، جدا بھی نہیں ہو

(اختر شاہجہا پوری)

نزلے ہو انسانِ مدینے کے والی

امام عزالدین بن عبدالسلام
 رحمۃ اللہ علیہ
 کے

فروضات گرامی

پیرا
ز
و
فر
اص
تم
و
نیم

افضلیتِ مصطفیٰ

امام کبیر سلطان العلماء، مولانا عز الدین بن عبد السلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۶۶۰ھ) نے اپنی تصنیف لطیف ہدایۃ السؤل فی تفضیل الرسول میں تسمیہ و تحمید کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احسان فرماتے ہوئے اور آپ کی قدر و منزلت اپنی بارگاہ میں دکھاتے ہوئے فرمایا ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا

اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت
اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ
جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل
ہے۔

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ
عَلَى بَعْضٍ

اور بیشک ہم نے نبیوں میں ایک کو
دوسرے پر بڑائی دی۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے
پر افضل کیا۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے
کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

ان آیات میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ دوسروں پر فضیلت دینے سے مدح فرمائی ہے۔ دوسری
یہ فضیلت کہ مفاضلت کو بدرجہا زیادہ بتایا اور درجات کو اسمِ مکروہ کے طور پر استعمال کیا جو تعظیم پر
دالالت کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو مقام رفیع و منصب عظیم مرحمت فرمایا گیا ہے۔ دوسرے
انبیائے کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کو بوجہ افضلیت مرحمت فرمائی ہے،

آپ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۵۵

آپ ۵، سورہ النساء، آیت ۱۱۳

آپ ۳، سورہ البقرہ، آیت ۲۵۳

وجہ نمبر ۱: آپ سب کے سردار ہیں جیسا کہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:
 ہوں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ سردار وہ ہوتا ہے
 جو اعلیٰ صفات اور بلند اخلاق کے ساتھ متصف ہو۔ پس ظاہر ہوا کہ آپ دونوں جہانوں میں
 افضل ہیں۔ دنیا میں اس طرح کہ آپ مذکورہ اخلاق سے موصوف ہیں اور آخرت میں اس طرح
 کہ وہ جہانِ ادھات و اخلاق کی جزا پر کرب ہے۔ جب محاسن و محامد کے لحاظ سے آپ کو دنیا
 میں فضیلت حاصل ہے تو مراتب و درجات کے لحاظ سے آخرت میں فضیلت حاصل ہوگی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اناستید ولد آدم ولا فخر اس لیے
 فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو آپ کی قدر و منزلت ہے، اس کو اپنی اُمت پر ظاہر
 فرمائیں۔ جب کوئی شخص اپنی تعریف خود کرے تو اس میں فخر و غرور کا عنصر کارفرما ہوتا ہے، بایں
 وجہ فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا دفعیہ ضروری سمجھا کہ کوئی دوسروں پر آپ کو قیاس
 کر کے جہالت کی رُو سے اس وہم و گمان بد میں گرفتار نہ ہو جائے کہ آپ نے بھی یہ فخر و غرور
 کے طور پر فرمایا ہوگا، لہذا فرمانِ رسالت ہوا ولا فخر۔

وجہ نمبر ۲: اسی سلسلے میں سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز
 لو الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ فخر و غرور کے طور پر نہیں کہتا۔

وجہ نمبر ۳: اس ضمن میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سارے
 انسان قیامت کے روز میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ یہ خصائص
 اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر جملہ انبیائے کرام
 بلند و بالا ہے۔ یہاں تفصیل کا مطلب خصوصی مناقب و مراتب ہیں۔

وجہ نمبر ۴: بیشک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہ آپ کی اگلی
 اور پھلی لغزشیں اگر ان کا کوئی وجود ہو تو وہ معاف فرمادی گئی ہیں۔ یہ کہیں منقول نہیں
 کسی نبی نے اپنے متعلق اس قسم کی خبر دی ہو بلکہ یہ ظاہر ہے کہ انھوں نے ایسی کوئی خبر نہیں
 دی، اسی لیے قیامت میں جب ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کی جائے گی تو ہر ایک
 اپنی لغزش و وہ افعال جو صورتاً ظاہری طور پر لغزش معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان

اندر لغزش کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا، کو یاد کر کے، جو سرزد ہوئی، نفسی نفسی پکارے گا۔
اگر اُن میں کسی کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ اُن کی لغزشیں معاف فرمادی گئی ہیں تو شفاعت کے نام
سے جھجکنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ لیکن جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخلوق خدا
شفاعت کی درخواست کرے گی تو آپ اَنَّا لَهَا فرمائیں گے یعنی شفاعت کے لائق ہیں ہوں (کیونکہ
شفیع المذنبین صرف آپ ہیں)۔ ۱۷

وجہ نمبر ۵: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ فردِ واحد ہیں جو سب سے پہلے شفاعت
فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول فرمائی جائے گی۔ اس میں آپ کی جملہ
انبیائے کرام سے تخصیص اور افضلیت پائی جاتی ہے۔

وجہ نمبر ۶: شفاعت آپ کا ایشا رہے کہ اپنی ذات کے لیے دعا کرنے کے بجائے اُمت کی
شفاعت کرنا پسند فرمایا۔ حالانکہ ہر نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دعا کر لیں جو قبول فرمائی جائے گی۔
اُن حضرات نے جلدی کی اور دنیا ہی میں اپنی اپنی دعا کر لی اور وہ قبول ہوئیں۔ سرورِ کون و مکاں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو اُمت کی شفاعت کرنے کے لیے آخرت پر اٹھا رکھا تھا۔
وجہ نمبر ۷: بیشک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کی قسم
کھائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

لَعَنَّاكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ۔ ۱۸
اے محبوب! تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ
اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔

آپ کی حیاتِ مبارکہ کی قسم کھانا حیاتِ مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر دلالت کرتا ہے اور یہ واضح

۱۷
اَنَّا لَمَعُ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ
لَا بِيْ حَنِيْفَةً فِي الْاَنَامِ سِوَاكَ
بخشوا ہی دیجیے بدکار اختر کے گناہ
آپ کو دشوار اے جانِ جہاں کچھ بھی نہیں
(اختر شاہما پوری)

کرتا ہے کہ قسم کھانے والے کو وہ سب سے عزیز ہیں اور فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی اس لائق ہے کہ اُس کی قسم کھائی جائے کیونکہ عام اور خاص ہر قسم کی برکتیں اسی سے وابستہ ہیں اور یہ شرف کسی دوسری ہستی کے لیے ثابت نہیں ہے۔

وجہ نمبر ۸ : اللہ تعالیٰ نے پکارنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت و عظمت بخشی کہ آپ کو پیارے ناموں اور اچھے اوصاف والے القاب سے مخاطب کیا مثلاً: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا التَّرْسُولُ**۔ اور یہ خصوصیت کسی دوسری ہستی کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ باقی ہر نبی کو اُس کے نام سے مخاطب فرمایا گیا ہے۔ مثلاً: **يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ**۔ **يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ**۔ **يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا**۔ **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ**۔ **يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ**۔ وغیرہ۔

اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ آقا حبیب اپنے کسی غلام کو اُس کے اعلیٰ اوصاف اور بلند اخلاق کا ذکر کر کے بلائے لیکن دوسرے غلاموں کو اُن کے نام سے پکارے اور کسی وصف خلق کا ذکر نہ کرے تو ظاہر ہے کہ جسے اعلیٰ اوصاف اور بلند اخلاق کے ذکر سے بلا یا گیا، وہ ان سے افضل ہے جنہیں اُن کے ناموں سے پکارا گیا اور بطور عرف عام یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ جس کو اچھے ناموں اور اچھے اخلاق و اوصاف سے منسوب کر کے پکارا جائے وہ زیادہ قابلِ منزلت ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے: ۷

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِمَا عِبْدَكَ هَاجِلَاتُ أَشْرَفُ أَسْمَائُ

وجہ نمبر ۹ : ہر ایک نبی کا معجزہ ختم ہو گیا ہے یعنی اب اُس کی کوئی نشانی پائی نہیں جاتی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ، جو قرآن عظیم کی صورت میں ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔

وجہ نمبر ۱۰ : نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام عرض کرتے تھے۔ حاتمہ نے آپ کے فراق میں گریہ و زاری کی۔ ایسے امور کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت نہیں۔

نہیں ہیں۔

پہچہ نمبر ۱۱: آپ کے معجزات میں سے کتنے ہی معجزے ایسے ہیں جو دوسرے انبیائے کرام کے معجزات سے زیادہ واضح ہیں اور ان میں زیادہ اعجاز پایا جاتا ہے۔ مثلاً: آپ کی انگشت ہائے مبارک سے پانی جاری ہونا۔ یہ پتھر سے پانی بہہ نکلنے کی نسبت عادت کے زیادہ خلاف ہے کیونکہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے پانی نکلتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہہ نکلنے والا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے چشمے جاری ہونے والے معجزے سے زیادہ فضیلت و عظمت رکھتا ہے۔

وجہ نمبر ۱۲: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادر زاد اندھوں کو شفا دی جبکہ ان کی آنکھیں اپنے مقام پر قائم تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی آنکھ کو درست فرما دیا جو باہر نکل کر رخسار پر ٹک رہی تھی۔ اس میں دو طرح اعجاز ہے۔ ایک اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے بعد آنکھ کو اس کی اصلی جگہ پر لگا دینا۔ دوسرے بنیائی کا ختم ہو جانے کے بعد واپس لوٹ آنا۔

وجہ ۱۳: جن مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا یعنی کفر سے نکال کر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا یہ اس اعجاز پر فضیلت رکھتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سما فی مردوں کو زندہ کیا تھا، کیونکہ جسمانی زندگی اور ایمانی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

وجہ نمبر ۱۴: اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کے لیے اس کی امت کے اعمال، اقوال اور احوال کے مطابق اجر و ثواب لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تمام اہل جنت کا صف ہے۔ نیز اللہ جل شانہ نے یہ بتایا ہے کہ امت محمدیہ سب سے بہتر امت ہے جو لوگوں کے لیے پیدا فرمائی گئی ہے۔ یہ باقی اُمم سے اس لیے بہتر ہے کہ معارف الہیہ اور اچھے احوال ال اور اعمال سے متصف ہے۔ پس کوئی معرفت، کوئی حالت، کوئی عبادت، کوئی اور فعل جو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اور جس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس کی دعوت دی، ایسا نہیں مگر اس پر عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ورکون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملتا رہتا ہے کیونکہ فرمان رسالت ہے:۔

ت کی جانب لوگوں کو بلائے تو اسے اس (تبلیغ و تذکیر) کا ثواب ملے گا اور جتنے اشخاص

قیامت تک اُس پر عمل کریں گے اُن کے ثواب کے برابر بھی اُسے ثواب ملتا رہے گا۔ غلام
کہ کثرتِ ثواب کے لحاظ سے آپ جتنے مرتبے کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کا عیال (بمحافظہ رحمہ) ہے۔ اُسے سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اُس کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچاتے۔ جب رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدھے جنتیوں کو نفع پہنچایا ہے اور دیگر تمام انبیائے کرام نے
نصف کو، تو بارگاہِ الہی میں آپ کا مرتبہ آپ کے نفع کے اعتبار سے ہوگا۔ نیز اُمت محمدیہ
جتنے بھی عارف ہیں اُن کی معرفت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی
ملے گا، جو آپ کے معارف کی جانب منسوب ہوں گے اور اُمت محمدیہ کے ہر صاحبِ حجاب
مطابق آپ کو ثواب حاصل ہوگا جو آپ کے ثواب میں ضم ہوتا رہے گا۔ نیز ہر صاحبِ حجاب
جو قُربِ الہی حاصل کرتا ہے اُس کے ثواب کے مثل آپ کو حاصل ہوگا، جو آپ کے تبلیغ
کے کام میں شامل ہوتا رہے گا اور کوئی عمل ایسا نہیں جو قُربِ الہی حاصل کرنے کی غرض
کیا جائے گا، خواہ وہ نماز، زکوٰۃ، غلام آزاد کرنا، جہاد، بھلائی، نیکی، ذکرِ الہی، صلہ
اور درگزر کرنا وغیرہ اعمال ہوں، اُن کے ہر عامل کے برابر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اجر ملتا رہے گا اور آپ کے اپنے اعمال کے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے۔

کوئی بلند درجہ اور رتبہ عالی ایسا نہیں جو صرف کسی اور کو حاصل ہو چکا ہو۔
بتانے کے باعث حاصل ہوا ہے لہذا آپ کو بھی اُس کے مثل ملے گا جو آپ کے مرتبے
ہوتا رہے گا اور آپ کے لیے یہ دُکنا اس طرح ہو جاتا ہے کہ اُمت سے جس کسی نے دوسرے
ہدایت کی یا نیکی کا راستہ بتایا، تو اُس کے مثل آپ کو بھی اجر ملے گا اور آپ کے درجہ و
میں ضم فرمایا جائے گا اور یہ اجر آپ کے لیے اس صورت میں دُکنا ہو جاتا ہے جب کہ
اُمتی راہِ ہدایت کی طرف دعوت دینا ہے یا کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا تو جتنے آدمی اُس
عمل کریں گے اُن کے مثل بتانے والے کو اجر ملے گا اور ہمارے آقا و مولیٰ سیدنا محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجر اس طرح دُکنا ہو جائے گا کہ اُن سارے عمل کرنے والے
ہدایت و دلالت کرنے والوں کے برابر آپ کو اجر ملے گا کیونکہ سب سے پہلے تو آپ

لت فرمائی اور اُس مبلغ تک وہ حکم آپ کے ذریعے پہنچا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شبِ اسری میں اسی لیے تو گریہ فرمایا تھا اُن کی اُمت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر لی ہوگی۔ اُنہیں رشک آیا تھا، حسد کے طور پر نہیں روئے تھے جیسا کہ بعض جہلاء کو وہم ہے سرورِ کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا مرتبہ حاصل نہ کر سکے، اس بات پر افسوس اور رونے لگے۔

نمبر ۱۵: اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو خاص اُسی کی قوم کی جانب بھیجا لیکن ہمارے نبی محترم، ہم، تاجدارِ عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ کو اپنی اُمت کے مطابق تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب کے مطابق ثواب ملے گا جن کی جانب آپ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ کبھی آپ کو بخ کرنے کا ثواب ملے گا اور کبھی اُس کا سبب بننے پر۔ اسی احسان و انعام کے بارے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔
وہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرٹا نے بھیجتے۔

رتہ احسان یہ ہے کہ اگر ہر گاؤں اور شہر میں ایک ایک نبی بھیج دیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تبلیغ کے مطابق ہی اجر اور مرتبہ ملتا کہ جتنا ایک گاؤں کی تبلیغ پر سروں کو ملتا تھا۔

نمبر ۱۶: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہِ طور اور مقدس وادی میں کلامِ باریکین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہی سے اُوپر مقامِ اعلیٰ میں ہم کلامی کا رت بخشا۔

نمبر ۱۷: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم دنیا والوں میں سب سے

آخری اور قیامت میں سب سے پہلے ہیں۔ ساری مخلوق سے پہلے ہمارا حساب ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔

وجہ نمبر ۱۸: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے اپنی سیادت کا مطلق ذکر فرمایا ہے اسی طرح قیامت کے ساتھ مقید بھی کیا ہے، مثلاً فرمایا: میں قیامت کے روز آدم علیہ السلام کی اولاد کا سرور ہوں اور سب سے پہلے میں روضۃ النور سے باہر تشریف لاؤں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔

وجہ نمبر ۱۹: سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ساری مخلوق میری جانب راغب ہوگی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔

وجہ نمبر ۲۰: آپ نے وسیلہ کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جنت میں ایک مقام ہے۔ اُس حقدار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک کو قرار دے گا اور مجھے اُمید ہے کہ وہ بندہ میں پس جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اُس کے لیے میری شفاعت ضرور ہو جائے گی۔

وجہ نمبر ۲۱: فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت سے ستر ہزار افراد بغیر حساب قند کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ فضیلت کسی بھی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔

وجہ نمبر ۲۲: آپ کو جنت میں کوثر اور محشر میں حوضِ مرتعت فرمانے کا وعدہ ہو چکا ہے

وجہ نمبر ۲۳: سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نَحْنُ الْأَخْيَرُونَ الشَّامِ ہم زمانے کے لحاظ سے آخری اور مناقب و محاسن کی رُو سے سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔

وجہ نمبر ۲۴: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے (اور آپ کی اُمت کے لیے) غنیمت

مالِ حلال ٹھہرایا گیا، جو آپ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ٹھہرایا گیا۔ اُمتِ محمدیہ کی صفی

صفوفِ ملائکہ کی طرح بنائی جائیں گی۔ ساری زمین آپ کے لیے مسجد اور پاک قرار دی گئی ہے

یہ فضائل آپ کی بلند و بالا قدر و منزلت پر دلالت کرتے ہیں۔

وجہ نمبر ۲۵: اللہ جلّ شانہ نے آپ کے اخلاقِ عالیہ کی مدح فرمائی ہے کہ: إِنَّكَ لَعَلَّ

خُلِقَ عَظِيمٌ (بیشک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے)۔ بڑوں کا کسی کو بڑا سمجھنا اُس کی

انتہائی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن جو سب بڑوں سے بڑا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ) اگر وہی

بزرگی عظمت بیان کرے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ شے کس قدر عزت و عظمت کے لائق ہوگی۔
 نمبر ۲۶: اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وحی کی جملہ اقسام میں
 نام فرمایا اور وہ قسمیں تین ہیں:

۱۔ روایت صادقہ

۲۔ کلام بغیر واسطہ

۳۔ وحی بذریعہ جبریل علیہ السلام۔

نمبر ۲۷: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب (قرآن کریم) میں توریت، زبور اور
 پیل کے تمام علوم موجود ہیں اور طوالت مفصل (لمبی سورتوں) کے ذریعے آپ فضیلت دیے
 گئے ہیں۔

نمبر ۲۸: آپ کی امت کے عمل پہلے لوگوں سے کم (عمریں کم ہونے کے باعث) اور ثواب
 زیادہ ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے۔

نمبر ۲۹: اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائیں اور پوچھا کہ نبی بادشاہ
 اچاہتے ہو یا نبی عبد؟ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انھوں نے یہ مشورہ
 کیا کہ عاجزی اور تواضع اختیار فرمائیے۔ آپ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے: اے پروردگار!
 میں نبی عبد رہنا چاہتا ہوں کہ ایک روز سیر ہو کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ جب بھوکا
 ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور جب سیر ہو کر کھاؤں تو اس کا شکر ادا کروں۔ نبی کریم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں رہنا پسند فرمایا جس کے ذریعے ہر وقت اور ہر
 حالت میں خواہ تنگی ہو یا آسائش، راحت ہو یا مصیبت، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہیں۔
 وحید نمبر ۳۰: اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے
 رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی امت کے نافرمانوں کو کھلم کھلا دی اور ان پر مذاب بھیجنے میں جلدی
 نہ کی اور انھیں باقی رکھا۔ اس کے برعکس دوسرے انبیائے کرام کی امتوں نے جب اپنے
 بیوں کو جھٹلایا تو جلد ہی مبتلائے عذاب ہو جاتے تھے۔

فخر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم، عفو، صبر، درگزر کرنا، شکر گزاری

اور نرمی میں اخلاقِ عالیہ بہت ہی بلند تھا۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا۔ آپ مکارمِ اخلاق کی تکمیل کے لیے رونق افرازے دہر ہوئے تھے۔ جو کچھ آپ کے خشوع و خضوع کے بارے میں منقول ہے کہ: کھانے، پینے، رہنے، سہنے، حُسنِ معاشرت، پاکیزہ عادات اُمت کی بھلائی چاہنا، اقربا کے ایمان لانے کی حرص، رسالت کی ذمہ داریوں کو نبھانا، مسلمانوں کو مہربانیوں کا سلسلہ جاری رکھنا، کافروں پر سختی دکھانا، اللہ کے دین کی اعانت و نصرت کے لیے بھرپور کوشش کرنا، کلمہ حق کا بلند کرنا، متوطن اور غریب الٰہیاء ہونے کی صورتوں میں اپنی قوم اور دوسروں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا، ان میں سے بعض مناقب کلامِ الہی میں مذکور ہیں اور بعض کتب سیر میں مرقوم و محفوظ ہیں۔ آپ کی نرمی کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّسْتُمْ لَهُ تَوَكَّسْتُمْ كَيْفَ اللَّهُ كَيْفَ مَرَبَانِي هُوَ اَسَءَ مَحْبُوبٍ اَكْهَ تَم

اُن کے لیے نرم دل ہوئے۔

کافروں پر سختی فرمانے اور اہل ایمان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ
محمد اللہ کے رسول ہیں اور اُن کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔

آپ اس امر کے بچد خواہشمند رہتے تھے کہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اُمتِ محمدیہ کے زمرے میں شامل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ جلّ شانہ نے آپ کے ان جذبات کو سراہتے ہوئے یوں ذکر فرمایا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
بے شک تمہارے پاس تشریف لائے، تم میں سے وہ رسول، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ
تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں
پر کمال مہربان مہربان۔

آپ نے فریضہ رسالت کو کماحقہ اور انتہائی خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچایا، جس کے بارے
میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَوْلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ
تو اے محبوب! تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ

الزام نہیں۔

اگر (بفرض محال) آپ سے کوتاہی متصور ہوتی تو ملامت سے بری الذمہ قرار نہ دئے جاتے۔
وجہ نمبر ۳۱: اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عادل حکام کا مرتبہ مرحمت فرمایا ہے، کیونکہ جب
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا (بروزِ حشر) فیصلہ کرے گا اور پہلی امتیں تبلیغ رسالت کا انکار کریں گی
تو امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ یہ گواہی دیں گے کہ حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام
نے ان لوگوں تک احکامِ خداوندی پہنچا دیے تھے۔ یہ خصوصیت کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت
نہیں ہوئی۔

وجہ نمبر ۳۲: اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ پس
وہ گمراہی پر کسی بھی بنیادی یا فروعی بات میں اتفاق نہیں کر سکتے۔

وجہ نمبر ۳۳: اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب (قرآن کریم)
کو محفوظ فرما دیا ہے۔ سب اگلے اور پچھلے اکٹھے ہو کر بھی کوشش کریں کہ اس میں ایک کلمے کی کمی یا
زیادتی کرنی ہے تو یقیناً وہ ایسا کرنے سے عاجز رہیں گے حالانکہ توریت و انجیل میں جو تبدیلی واقع
ہوئی وہ کسی پر مخفی نہیں۔

وجہ نمبر ۳۴: فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے اگر کسی کا کوئی عمل بارگاہِ خداوندی
میں شرفِ قبولیت حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ پر وہ اس پر بھی ڈالتا ہے۔ پہلی امتوں میں اگر
قرب الہی حاصل کرنے کی خاطر کوئی قربانی پیش کرتا، تو اس کی قبولیت کا ثبوت یہ ہوتا کہ

آسمان سے ایک آگ ظاہر ہوتی اور اُس قربانی کے گوشت کو کھا جاتی، لیکن جس کی قربانی نا منظور ہوتی اُسے آگ اُسی طرح چھوڑ جاتی اور وہ شخص سب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا۔ اسی لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت عطا فرمائی گئی ہے اور میں رحمتوں والا نبی ہوں۔

وجہ نمبر ۳۵: اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو امح الکلم عطا کر کے مبعوث فرمایا تھا کہ تھوڑے سے لفظوں میں بڑی بڑی باتوں کو گورے میں سمندر کی طرح سمودیا کرتے تھے۔ آپ کی فصاحت و بلاغت پر فصحاء عرب کا اتفاق ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوع بشر کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کے برگزیدہ مرسلین پر بھی آپ کو فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔ افضل بشر ملائکہ سے افضل ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِّیَّةِ۔ ۱۰

کیونکہ فرشتے بھی بریہ کے زمرے میں شامل ہیں اور اس سے مراد مخلوق ہے۔ یہ لفظ بَرَّاءُ اللہُ الْخَلْق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی اختراع کرنا یا ایجاد کرنا ہے، جبکہ فرشتے مذکورہ آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ لغت میں عرف کے طور پر نوع بشر سے ایمان لانے والوں کے ساتھ مختص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق کرتے وقت ہر کسی کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ لفظ الْبَرِّیَّةِ تو الْبَرَّاء سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی مٹی ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ: بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے وہ ساری

خاک مخلوق سے بہتر ہیں۔ اس کا جواب دو طرح دیا جاتا ہے:

۱۔ ماہرین لغت نے لفظ الْبَرِيَّةُ کو بغیر ہمزہ (مذکورہ) کے شمار کیا ہے۔ جیسا کہ اہل عرب کا دستور ہے۔

۲۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ نافع نے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ لہذا دونوں قراءتوں کی صورت میں یہ کلام الہی ہے۔ اگر ایک کی رو سے دیکھیں تو مومنین صالحین کی جملہ نوع بشر (ماسوائے انبیائے کرام) پر فضیلت ثابت ہوتی ہے اور دوسری قراءت کو اگر ترجیح دیں تو ساری مخلوق پر فضیلت ثابت ہوتی ہے اور جب یہ امر ثابت شدہ ہے کہ فضیلت والے بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں اور انبیائے کرام علیہم السلام مومنین صالحین سے افضل ہیں جیسا کہ فضیلت انبیائے کرام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے:

وَكَلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر

فضیلت دی۔

اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیائے کرام تمام انسانوں اور فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ فرشتے بھی عَالَمِیْنَ کے زمرے میں آتے ہیں، خواہ عَالَمِیْنَ کو اَلْعَالَمُ سے مشتق مانا جائے، یا اَلْعَلَامَةُ سے، دونوں صورتوں میں نتیجہ یہی سامنے آتا ہے اور جب انبیائے کرام تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ انبیائے کرام سے افضل ہیں۔ اس لحاظ سے ملائکہ پر انبیائے کرام کی برتری ہونے کے باعث فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں سے دو درجے افضل اور دو رتبے اعلیٰ ہوتے۔ اسی لیے آپ کے منصب رفیع کی عظمتوں کا شہناشا کوئی نہیں، ماسوائے اُس ذاتِ وحدۃ لا شریک کے جس نے خاتم الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں اور جہانِ دالوں پر فضیلت تامہ مرحمت فرمائی ہے۔ یہ صرف اشارے ہیں جو اہل عقل و دانش کے لیے کافی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کے طلبگار ہیں کہ ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، طریقے اور ظاہری و باطنی

اخلاق میں آپ کے اتباع کی توفیق مرحمت فرماتے اور ہمیں اپنے حبیب کی جماعت میں اور مددگاروں میں شامل فرماتے۔ والحمد لله وحده وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل ۵ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ۵ یہاں امام عزیز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اُن کے لفظوں میں ختم ہو گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ۔

عرض مترجم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَثِيرًا ۵ کہ یہ ناپسند اپنی علمی بے مائیگی اور دائم المریض ہونے کے باوجود آج جواہر البجار شریف کے ترجمے کی پہلی جلد سے فارغ ہو گیا۔ باری تعالیٰ شانہ، اپنے حقیر بندے کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے ہوئے اسے میرے لیے کفارۃ سیئات، ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بناتے۔ اَمِيْن يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ۔

خاکپاتے علماء: عبدالحکیم خاں اختر
شاہجہان پوری مجددی مظہری
دارالمصنفین۔ لاہور

۸۔ ربیع النور ۱۳۹۵ھ
۲۲۔ مارچ ۱۹۷۵ء

کچھ اس ترجمے کے بارے میں

۱۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۵۰ھ) اکابر اُمت کے فرمودات گرامی فارہین تک عربی زبان میں پہنچانا چاہتے تھے ہم نے اُس مفہوم سلیس اور عام فہم اُردو میں پیش کرنے کا بساط بھرا ہتمام رکھا اور بلفظ ترجمہ کرنے اجتناب کیا ہے۔

۲۔ ہر زیر بحث آیت کا نیچے حاشیے میں حوالہ درج کر دیا ہے جبکہ اصل کتاب میں کوئی نہیں ہے۔

۳۔ آیات درج کر کے اُن کا ترجمہ مجدد مائتہ حاضرہ امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ ترجمہ قرآن کریم یعنی کنز الایمان سے پیش کیا ہے کیونکہ اُردو زبان میں یہ سب سے صحیح اور عظیم النظیر ترجمہ ہے۔

۴۔ جن عبارات جواہر البجارج کی مناظرین اور واعظین کو ضرورت پڑتی ہے ایسی عبارتیں من و عن نقل کر کے بالمقابل اُن کا اُردو ترجمہ پیش کر دیا ہے۔

۵۔ مضامین کی مطابقت کے لحاظ سے حسب موقع حاشیے میں بعض نعتیہ اشعار پیش کر دیے۔

۶۔ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کے مطابق حفظ مراتب کا پورا لحاظ رکھنے کی کوشش کی ہے جبکہ معاصرین کی اکثر تصانیف اس میدان میں افراط یا تفریط کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں۔

خادم العلم والعلماء: اختر شاہ جہانپوری مظہری

لاہور

قطعات تاریخ طباعت

(۱)

(از رشحات خامہ ، مولانا اختر الحامدی الرضوی مدظلہ العالی - حیدر آباد)

رُوتے کتابِ اخترِ تاباں ہے سامنے ذکرِ رخِ حسینِ سحر ہے فضولِ آ
گلدستہ جمیل ہے بے مثل ترجمہ غنچہ ہر ایک حرف ہے ، ہر لفظ پھولِ آ
واللہ تیرے طرزِ نگارش کو دیکھ کر ہے سر بلند اہلِ قلم کا اصولِ آ
نکلا ہوا قلم سے ترے ایک ایک حرف اختر ہے ہمکنارِ عروسِ قبولِ آ
ہیں اس کو پڑھ کے شاد و غلامانِ مصطفیٰ نجدی کی ذریت ہے نہایت ملولِ آ
کیا ساعتِ سرور ہے اخترِ زہے نصیب کس مصرعہ حسین کا ہوا ہے نزولِ آ

تاریخ طبع کتنی مبارک ہے دیکھتے

ہے آتی بادِ باغِ جمالِ رسولِ آج

۵ ۹ ۳ ۱

(۲)

از نتیجہ فکر جناب شریف احمد صاحب شرافت نوشاہی

سجادہ نشین ساہن پال شریف - صنع گجرات

ایں کتابِ جوابِ است ہمار در کمالاتِ دیں بلند مقام
از مساعی حضرت اختر صاحبِ علم و فضل و اسلام
ہست این گوہرِ گراں مایہ بہرِ طلبِ حقِ خجستہ

چوں شرافتِ ز سالِ طبعِ جُست

گفت یافت ، کتابِ فخرِ انام

۹۵ ۱۳

تصانیف اختر شاہ جہانپوری

- تحفہ نصاریٰ (ردّ علی سائیت و حقانیت اسلام) (طبع اول ختم ہے)
- اعلیٰ حضرت بریلوی کا فقہی مقام
- معارف رضا (جلد اول) (مجدداتہ حاضرہ قدس سرہ کا تجدیدی کارنامہ) زیر طبع
- معارف رضا (جلد دوم) (مجدداتہ حاضرہ قدس سرہ کا تجدیدی کارنامہ)
- معارف رضا (جلد سوم) (" " " ")
- معارف رضا (جلد چارم) (" " " ")
- تجلیاتِ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی تعلیمات
- تجلیاتِ منظر اللہ حضرت مفتی شاہ محمد منظر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات
- کھلا خط مسئلہ تکفیر کا منصفانہ حل
- تذکرہ امام عظیم شانِ امام اعظم بزبان اکابر
- اردو ترجمہ جواہر البحار (جلد اول - حصہ اول)
- گنجینہ انوار مجموعہ مقالات و مضامین
- رحمت (سوانحِ میاں رحمت علی علیہ الرحمہ)

ہماری مطبوعات

خون کے آنسو (مکمل ۲ حصے)

مختلف مذاہب کے ہوتے ہوئے حق
مذہب کی پہچان، اور شک و شبہ کے دل سے
نکال کر صراطِ مستقیم کی رہبر۔

مصنف: مولانا مشتاق احمد نظامی خطیب مشرق
قیمت: ۱۰۶۵۰، ۱۲ روپے

مسک امام ربانی

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسک کو غلط رنگ
دینے والوں کے منہ پر زور دار طمانچہ۔

مصنف: مولانا سعید احمد صاحب
قیمت: ۹ روپے

تسکین الخواطر

حاضر و ناظر کے مسئلہ پر مدلل بحث

مصنف: مولانا احمد سعید صاحب کاظمی
قیمت: ۴ روپے

المعتقد المنتقد مع المستند المعتمد (عربی)

علم عقائد میں بے مثال کتاب جو علماء کے لیے
سرایتِ حیات و راحتِ حیاں ہے۔

مصنف: مولانا شاہ فضل الرسول قادری
شارح: مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

قیمت: مجلد ۱۲ روپے، غیر مجلد ۶۵۰ روپے

جواہر البیان فی اسرار الارکان

ارکانِ خمسہ کی حکمتیں جن کو اعلیٰ حضرت محمد احمد رضا
خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم نے بیان
فرمایا۔

قیمت: ۶۵۰ روپے

رسائل رضویہ (حصہ اول)

اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کے

بلند پایہ چھ رسائل کا مجموعہ جو پاکستان میں پہلی دفعہ
شائع ہوا۔

قیمت: ۱۸ روپے

متحدہ مذہبہ — گنج بخش روڈ — لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

اردو ترجمہ

جواب الہر

فضائل النبی المختار

جلد اول

مصنف:-

حضرت علامہ امام یوسف بن اسحاق بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمین

استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام رسول ضایح الحدیث جامعہ رضویہ لاہور
رئیس التحریر جناب محمد عبدالحکیم صاحب تہرشا، بھمان پری منٹھری لاہور

ناشر

مکتبہ حامدہ گنج بخش روڈ لاہور